

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین مان سوت آقران ہل

ایر و منان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول یا بگا شاہ نوین حضرت پیر محمد

مُسَمَّیٰ بِہ

مجموعۃ السؤل

الجزء السابع

فِیْ اَسْمَاءِہِ وَصِفَاتِہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

از تصنیف علامہ محمد بن ابی بکر السبکی

حضرت خواجہ نوح بن محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمَائِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاسْمَاءِ

اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطریق تیرے اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بطریق تیرے حبیب کے

حَبِیْبِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاسْمَاءِ جَمِیْعِ اَنْبِیَاۤئِكَ

اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بطریق تیرے تمام انبیاء و

وَرُسُلِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاسْمَاءِ عِبَادِكَ

رسل کے اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بطریق تیرے تمام نیک بندوں کے

الصّٰلِحِیْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُحَمَّدٍ الْمَعْطٰی بِذَاتِهِ

اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عطا کرنے والے ہیں اپنی ذات

وَصِفَاتِهِ لِجَمِیْعِ خَلْقِ اللّٰهِ مَا سِوٰی اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور صفات کے طفیل تمام مخلوق خدا کو ماسوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے جو کہ رحمن

الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط مَا لِكَ

رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ بہت رحم فرمانیوالا مہربان ہے قیامت کے

یَوْمِ الدِّیْنِ ط اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

دن کا مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ

المُسْتَقِیْمِ ط صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ط غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ط الْحَمْدُ لِمَنْ قَالَ لِاِظْهَارِ رَبِّیْ ط

اور نہ گمراہوں کی۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنی ربوبیت کے اظہار کیلئے

بِحَمْدِهِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ جَمِیْعِ الْعٰلَمِیْنَ لِكُلِّ مَا سِوٰی اللّٰهِ

اپنی حمد کرنے کو کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا ماسوائے اپنی ذات کے

بِرِزْقِ رَازِقِ الرَّحْمَنِ وَبِرَحْمَةِ مَغْفِرَةِ الرَّحِيمِ مَالِكِ الطَّاهِرِ

ساتھ رزق دینے کے (ازروئے) رازق و رحمن ہونے کے۔ اور ساتھ رحم و مغفرت کے (ازروئے) رحیم ہونے کے۔ جو مالک کا نام ہے

وَالْبَاطِنِ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ يَوْمَ الدِّينِ بِأَحْسَنِ الْحَبْلِ

کا اور باطن کا دنیا و آخرت میں، قیامت کے دن میں ساتھ خوبترین محبت کے۔ تیسری ہی

وَإِيكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ لَأَنَّا نَحْنُ عِبَادُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي

تیسری ہی، تیسری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں

الْأُمُورِ كُلِّهَا اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجُوهَنَا أَنْ نَسْجُدَ لِغَيْرِكَ

تمام امور میں۔ اے اللہ جیسے تڑنے بچایا ہے ہمارے چہروں کو غیروں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے

فَصِنْ أَيْدِيَنَا أَنْ نَسْأَلَ لِسُؤَالٍ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الْكَافِي وَ

پس (ایسے ہی) بچا ہمارے ہاتھوں کو کہ انہیں پھیلا میں سوال کے لیے تیرے علاوہ کسی کے سامنے۔ اور تو ہی کفایت کرنے والا ہے اور

أَنْتَ أَنْتَ الْهَادِي إِيَّاكُمْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِالْإِسْتِقَامَةِ

تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہمیں چلا صراط مستقیم پر ساتھ استقامت کے

إِلَى صِرَاطِ سَبِيلِكَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ صِرَاطُ الرَّحْمَنِ

واسطے اپنی راہ طے کرنے کے۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا اور وہ راستہ ہے محبتوں

وَالْمُحِبِّينَ يَبْشُرُهُمْ بِجَبِّ حُبِّ اللَّهِ وَإِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ

اور محبوبوں کا۔ انہیں بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ محبت خداوند تعالیٰ کے حصول کی اور اطاعت رسول علیہ السلام کی

وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ كُرْبِكَ وَسَخَطِكَ

اور نہ گمراہوں کے راستہ کی۔ اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں تیری رنجیدگی۔ ناراضگی اور

غَضَبِكَ أَمِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

غضب سے۔ آمین اے اللہ قبول فرما ہم سے بے شک تو ہی سننے والے اور

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ

اور ہم پر نظر رحمت فرما۔ بے شک تو ہی نظر رحمت فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے ساتھ تجھ سے آدم علیہ السلام نے اور بوسید ان اسماء کے

دَعَاكَ بِهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ

کہ دعا کی تجھ سے لوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے ساتھ ہود

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ تجھ سے دعا کی

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

اور توسل ان اسماء کے کہ جن کے ساتھ تجھ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کہ ان کے ساتھ تجھ سے دعا کی یعقوب علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے سے

بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ

حضرت یونس علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے سے یوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے وسیلے سے موسیٰ علیہ السلام نے

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

کہ جن کے وسیلے سے تجھ سے شعیب علیہ السلام نے دعا کی اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے وسیلے سے دعا کی تجھ سے

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ

ایوب علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے توسل سے حضرت اسماعیل علیہ

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے وسیلے سے داؤد علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سُلَيْمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کے توسل کیا ان کے ساتھ دُعا میں سلیمان علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے دُعا کی تجھ سے

بِهَا زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَحْيَى عَلَيْهِ

زکریا علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے دُعا مانگی یحییٰ علیہ

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے دُعا مانگی تجھ سے ارمیاء علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

کہ جن کے وسیلہ سے تجھ سے دُعا مانگی شعبا علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے وسیلہ سے تجھ سے دُعا

الْيَسَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ

کی یسع علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دُعا کی تجھ سے ان کے توسل سے ذوالکفل علیہ

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ دُعا کی ان کے توسل سے یوشع علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کہ جن کے وسیلہ سے دُعا مانگی تجھ سے الیاس علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے دُعا کی

بِهَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى

تجھ سے خضر علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے تجھ سے دُعا کی عیسیٰ

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا خَيْرُ الْوَرَى شَيْخُ

علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توسل سے تجھ سے دُعا کی خیر الوری شیخ

الْمَدَنِيِّينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

المدنیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے

کَتَبَ اللهُ اسْمَهُ وَصَفَتَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ

نام اقدس اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تورات و انجیل اور زبور

وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَفِي مِائَةِ صَحِيفَةٍ وَرَفَعَهُ اللهُ اسْمَهُ فَوْقَ

و قرآن کریم میں اور سو صحیفوں میں - اور تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسم گرامی کو

الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلَّى

عرش اعظم پر آسمانوں، زمینوں وغیرہ کی تخلیق سے قبل - اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَاضْطَرَبَ كُتِبَ

سیدنا محمد پر کہ جب لرزا عرش اعظم اور مضطرب ہوا تو اس محبوب کا نام نامی

عَلَيْهِ اسْمُهُ فَسَكَنَ وَطَرِبَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس پر لکھا گیا پس اس کو سکون و قرار اور خوشی اور مسرت حاصل ہو گئی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ

أَوَّلُ مَا كَتَبَ الْقَلَمُ اسْمَهُ الْكَرِيمَ وَأَعْلَنَ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ

سب سے پہلے قلم قدرت نے انھیں کے اسم کریم کو لکھا اور اعلان فرمایا ان پر صلوات

وَالسَّلَامِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللهُ اسْمَهُ

و سلام بھیجنے کا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ لکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لائق

الْمَنْعَوَاتِ عَلَى فُضُوصِ التُّوَلُوءِ وَالْيَاقُوتِ وَصَلَّى عَلَى

نعت و توصیف اسم گرامی کو موتیوں اور یاقوت کے نگینوں پر - اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللهُ اسْمَهُ فِي الْأَلْوَابِ وَالْكِتَابِ

سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ نے الواح اور کتب میں تحریر فرمایا

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللهُ اسْمَهُ عَلَى أَطْرَافِ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حجابات عظمت کے

الْحُجُبِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللهُ اسْمَهُ

اطراف پر تحریر فرمایا - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ نے

عَلَى نَحْوِ الْحُورِ الْعَيْنِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ

حور عین کے سینوں پر نقش فرمایا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرماستینا محمد پر کہ جن کا نام نامی

اللَّهُ اسْمُهُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ الْحَافِيْنَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے نقش فرمایا ان ملائکہ کی آنکھوں میں جو عرش کے گرد گھیراڑا لے ہوئے ہیں اور رحمت نازل فرما

مُحَمَّدِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى أَوْرَاقِ الْجَنَانِ وَصَلَّى

سیدنا محمد پر جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے پتوں پر لکھا۔ اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ الْوُرْدِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے گلاب اور ریحان کی پتیوں

وَالرَّيْحَانِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ

پر لکھا اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے لکھا

عَلَى لِسَانِ الْقَلَمِ الْمَنْصُوبِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نصب کی ہوئی قلم قدرت کی زبان پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى قُتْبَةِ الْوُجْهِ الْمَحْفُوظِ الْمَكْتُوبِ وَصَلَّى عَلَى

تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لوح محفوظ مکتوب کے بلند تر حصہ پر اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ شَجَرَةِ طُورِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا شجرہ طوبیٰ کے پتوں پر

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ

اور صلوٰۃ نازل فرماستینا محمد پر کہ جن کا نام مقدس اللہ تعالیٰ نے لکھا

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ

سدرة المنتہیٰ کے پتوں پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا

عَلَى مَفَارِقِ تَيْجَانَ الثُّورِ وَالْبَهَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تاجمانے نور حسن کی چوٹیوں پر۔ اور رحمت نازل فرماستینا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی

مَكْتُوبٌ عَلَى الْغُرَفَاتِ وَالْقُصُورِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مکتوب ہے (جنت کے) بالا خانوں اور محلات پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسم شریف بیت المعمور کے قبہ جات پر مرقوم ہے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى فَنَنِ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَصَلَّى

کہ جن کا اسم گرامی مرقوم ہے سیدھی شاخوں اور درختوں پر۔ اور رحمت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى طَرَائِزِ الْأَجَارِ وَالْأَنْهَارِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم مبارک مرقوم ہے (جنتی) پتھروں اور نہروں کے نقش و نگاروں میں

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ فِي دِيْوَانِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم مقدس لکھا ہوا ہے ابدی مخلوق کے دیوان

الْمُؤَبَّدِينَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى

میں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے

أَطْرَافِ خِيَامِ أَهْلِ عِلْيَيْنَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ

اہل علیین کے خیموں کے اطراف پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم گرامی مرقوم ہے

مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْبَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سلیبان علیہ السلام کی انگوٹھی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى الْكُنَافِ الْخِيَامِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقدس مرقوم ہے (جنتی) خیموں کے اطراف پر۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

جن کا اسم گرامی مرقوم ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی انگوٹھی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِسْمَاعِيلَ

جن کا اسم شریف مرقوم ہے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی انگوٹھیوں پر

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَانِبِ الشَّيْطَانِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف مرقوم ہے کشتی (نوح) کے کنارے پر

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ فِي لَوْحٍ مِنْ ذَهَبٍ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف مرقوم ہے سونے کی تختی پر

تَحْتَ الْجِدَارِ لِعَلَّامِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دو یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے جو شہر کے اندر تھی۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالتُّورِ الْأَحْمَرِ عَلَى شَاطِئِ الْقُرَاتِ

محمد پر جن کا نام نامی مکتوب ہے سرخ تور کے ساتھ بہت میٹھے اور کثیر پانی والے دریا کے

الْكُوْتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالتُّورِ

کنارے پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے تور کے ساتھ

فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تورات و انجیل اور زبور میں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبِينِ مَلِكِ الْمَوْتِ وَصَلِّ

جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے ملک الموت کی جبین پر۔ اور رحمت نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالْقَلَمِ الْمُبْدِي عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جن کا نام نامی مکتوب ہے نورانی قلم کے ساتھ

مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

منکر اور نکیر پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے

عَلَى جِيُوبِ حُلِيِّ السُّنْدُسِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

باریک و نفیس جنتی لباس کے گریبانوں پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى أَبْوَابِ حِطَّائِرِ الْقُدُسِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نام مبارک لکھا ہوا ہے جنتوں کے دروازوں پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ عَلَمٍ فِي الْجَنَّةِ وَصَلَّى عَلَى

محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے جنت کے ہر پرچم پر۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْإِسْرَاءُ بِهٖ فِي رَجَبٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسراء (معراج) رجب میں واقع ہوا ہجرت سے ایک سال پہلے

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ وُلْدِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی

إِسْرَائِيلَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

اولاد سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے

عَلَى جِبْهَةِ جِبْرِائِيلَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَيْهِ

جبرئیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ

اللَّهُ الْأَسْمَاءُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

تعلیم دی تمام اسماء کی (مانند آدم علیہ السلام کے) اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم گرامی مرقوم ہے

عَلَى بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ

ہر آسمان کے ہر دروازے پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف

مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ جَنَّةِ الْمَأْوَى وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکتوب ہے جنت الماویٰ کے دروازے پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي عَنِ الْمَعْنَى بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ

جو مصداق ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جو وارد ہے محکم تنزیل میں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول، نبی امی کی جن کے اوصاف و کمالات اور علیہ و شکل کو لکھا ہوا پاتے ہیں

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے ہاں تورات و انجیل میں اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ

الَّذِي مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

جن پر افضل صلوات اور پاکیزہ ترین تسلیات مکتوب ہیں جبیر میں علیہ السلام کی

يُخْلَقُ جِبْرَائِيلُ بِالْفَى عَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل - اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ وَالصِّفَاتِ الْكِرَامِ

آپ کی آل پر جو محبوب موسوم ہیں عظیم اسماء کے ساتھ اور موصوف ہیں صفات جلیلہ کے ساتھ

بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یعنی ساتھ اسماء باری تعالیٰ اور اس کے صفات کے (بطور ظل و عکس اور نظیریت کے) اور صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ لِمَرَاتِبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب جامع ہیں مراتب ذات و صفات اور اسماء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الَّذِي بَدَأَتْهُ وَصِفَاتُهُ مَعْ كِنَايَةٍ وَصَرَّاحَةٍ فِي اللَّهِ مَلَادٌ وَلَا

اپنی ذات اور صفات کے ذریعے بطور کنایہ ثابت ہیں خواہ بطور صراحت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ خلاق ہیں اور آپ کے

مَلَادٌ وَلَا مَلْدٌ وَهُوَ صَاحِبُ الْأَسْمَاءِ كَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى بِمَوْثَرَةٍ

علاوہ دوسری جائے پناہ نہیں اور نہ جائے فرار۔ وہ مالک ہیں اسماء کے مانند اسماء حسنی اللہ کے تاثیر میں

وَالصِّفَاتِ كَصِفَاتِ ذَاتِ الْعَلِيِّ بِمَغْفَرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَبِرَكْبَةٍ وَ

اور مالک ہیں صفات کے جو مانند صفات جل و علی کے ہیں باعتبار مغفرت اور رحمت اور برکت کے موجب ہونے کے

أَسْأَلُكَ بِاسْمِ الَّذِي فَتَحْتَ بِهِ عَالَمَ الْأُمْرِ وَالْخَلْقِ يُسْرًا

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس اسم کے وسیلہ سے جس کے ساتھ تو نے آغاز کیا عالم امر اور خلق کا تیسیر و سہولت کا

لِتَجْلِيَ الْحَقِّ الْبَاطِنِ بِسَبَبِ التَّنْزِيلِ وَالْمُتَعَالِ أَمْرًا وَجُودًا

واسطے تحمل تجلی حق کے جس کو ظاہر کیا گیا ہے بسبب تنزیل کتاب کے اور (وہ فی الحقیقت) بالاتر ہے از روئے امر و وجود کے

وَبَطُونًا وَمَعْقُولًا ذَلِكَ حِسَابٌ لِمَنْ أَيْدَتْ بَلٌ مَعْلُومًا لِمَنْ

اور بطون و مخفاء اور معقولیت کے (وہ تجلی محسوس ہے جس کو تو نے قوت بخشی ہے بلکہ قطعی طور پر معلوم ہے اسے جس کو تو نے

اَشْهَدُكَ مَجْهُولًا لِمَنْ شَدْتُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ لَا تَقْدَحُ فِي وَحْدَةٍ

مشاہدہ کرایا۔ مجہول ہے اس کے لیے جس کے حق میں تو نے چاہا مجہول رکھنا۔ جو اس سے متشابه ہے نہیں نقصان پیدا کرتی

مَا أَحْكَمْتَ مِنَ الْحِكْمَةِ يَا كَافِلُ يَا كَفِيلُ يَا كَافِي يَا وَفِيٌّ أَعْطِنِي

اس حکمت کی وحدت میں جس کے مستحکم کرنے کا تو نے ارادہ فرمایا۔ اے کافل۔ اے کفیل۔ اے کافی۔ اے وفی مجھے عطا فرما

حِفْظًا فِي الدَّارَيْنِ وَعِزًّا فِي الكَوْنَيْنِ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حفظ و امان دونوں جہان میں اور عز و جاہ دنیا و آخرت میں بطفیل اپنے اسم اعظم کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَضَمَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مرتبط فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ

اللَّهُ بِاسْمِهِ وَأَسْمِ حَبِيبِهِ بِقَاءَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِكُلِّ خَلْقٍ

نے اپنے اسم اور اپنے حبیب کے اسم کے ساتھ تمام مخلوق کے اسماء و صفات کی

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَدَّ أَحْرُوفَهُ

بقاد و دوام کو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے اسم گرامی کے حروف کی روشنائی

مِنْ نُورِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اللہ تعالیٰ کے نور ذات سے ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی

مَدَّ أَشْكَالَهُ مِنْ كُنُوزِ مَكْنُونِ سِرِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شکل و تصویر کی روشنائی اللہ تعالیٰ کے مخفی راز کے خزانوں سے ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَمْزَةً أَلِفٍ أَيْاتٍ وَالغَايَاتِ أَلْفَةً

سیدنا محمد پر جو ہمزه ہیں بدایات اور غایات کی الف کا از روئے الف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاءً بُرْهَانَ الدَّلَالِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو باء ہیں نہایات کی دلائل کے برہان کی

التَّهَيَّاتِ بِرَكَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَأْتِي تَكْوِينِ

از روئے برکت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو مخلوقات کی ایجاد و تکوین کی تاء ہیں

الْمُكُونَاتِ تَوْبَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَابِ ثَوَابِ

از روئے نگاہ لطف کے۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو ثابہ ہیں اعمال صالحہ کے

الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيمِ الْجَنَّةِ

ثواب کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو جیم ہیں واسطے دونوں

الْجَنَّتَيْنِ جَمَالًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ حِكْمَةِ

جنتوں کے جناب یعنی چمنے کے لائق میوہ جات کی از روئے جمال کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکمت کی حاء ہیں

بِحِمَايَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءِ

بسبب دنیا و دین کی حمایت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ خاء ہیں

خَيْرِ بِخِتَامِ الْخَيْرَاتِ وَالْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خیر کی بسبب خاتم ہونے کے واسطے خیرات و اختیارات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

دَالِ دَلِيلِ النَّجَاتِ وَالْمُنْجِيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو دال ہیں نجات اور نجات دلانے والے امور کی دلیل کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

ذَالِ ذُرِّ الْمَعَالِي وَالْمُتَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَاءِ

جو ذال ہیں معالی اور بلند مرتبت مخلوق کے ذرہ (بلندی) کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو راء

رَحْمَةٍ بِرَوَاجِ الشَّرَفِ الْعَالِي وَالْمَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت ہیں بسبب رواج کرنے شرف عالی کے اور بلند مراتب کے (اسباب) اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ زَاءِ زَكَاةِ زَهْرَةِ السَّنَاءِ وَالْأَسْنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جو زاء ہیں زکوٰۃ، یعنی نشوونما کی بسبب چمک کی زینت ہونے کے اور عقدہ کشائیوں کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ سَيْنِ سَعَادَةٍ بِسَعَةِ الْمَحَبَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جو سین سعادت ہیں بسبب وسعت محبت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

سِتِّينَ شَفَاءٍ بِشَرَفِ الشَّرَافَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو سِتِّین شفاء ہیں بسبب شرف شرافت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو

صَادِصِدْقٍ بِصُرْحِ الصَّرَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضَادٍ

صا و صدق ہیں صراحت کے بلند محل میں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو ضاد ہیں

ضَوْءٍ وَضِيَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَاءٍ طَرَاوَةٍ بِطَرَانِ

ضوء اور ضیاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو طراوت و تازگی کی طاء ہیں بسبب اعلیٰ

النُّورِ الْأُنْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظَاءٍ ظَفْرِ بِظُهُورِ

نورانی نگارشی کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو ظاءِ ظفر ہیں بسبب ظہور

الْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ عِلْمٍ لَدُنِّي نَافِعٍ

آیات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو عین ہیں علم لدنی نافع کی بمع دیگر

مَعَ الْكَمَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْنِ غِنَى

کمالات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو غناء کی غین ہیں

بِالْمَغْفِرَةِ وَالْغُفْرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاءٍ

مع مغفرت اور غفران کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو فاء ہیں

فَوْزٍ عَظِيمٍ بِفَوْزِ الرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فوز عظیم کی بمع فوزِ رحمن کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

قَافٍ قُرْبَةٍ وَقَرَابَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَافٍ كَافِي

جو قاف ہیں قربت و قرابت کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو کاف ہیں کافی کا

يَا كَرَامَ الْكَرِيمِ كَرَامَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَامٍ لَوَائِعِ

مع کریم کے اکرام کرامت نشان کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو لام ہیں انوارِ لوایع

الْأَنْوَارِ بِلُطْفِ اللَّطِيفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رچنے والے انوار کے لطیف کے لطیف سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مِيمِ مَوَادِّ الْأَسْرَارِ الْمَقْرَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو ميم ہیں اسرار کے نمایاں اور غیر مستور مواد کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

تُونُ نُورٍ بِنَعِيمِ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَوْ

جو تون ہیں نور کے مع نعيم ابرار کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو وصلت کی واؤ

وَصَلِّ بِوَصَالِ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں مع وصل احباب کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

هَاءِ هِدَايَةٍ بِهَدَايَاتِ أَوْلِي الْأَلْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جو ہاء ہیں ہدایت مطلقہ کے مع اہل عقول خالصہ کی ہدایات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ لَا مِرَالِفِ الْأَسْبَابِ الْمَوْصِلَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ

محمد پر جو لام ہیں اسباب کی الف کا جو اسباب کہ پہنچانے والے ہیں رب الارباب کی معرفت تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَأْتِي بِإِيْدِ الْإِنْعَامِ السَّامِيَةِ مِنْ ذِي

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو یاد ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعام والے

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَقِينُ صَادِقٌ مَّصْدُوقٌ وَيَقِينُ الْحَالِ وَصِدْقُ

بند مرتبت یاد (ہاتھ) کی۔ اور یقین صادق و مصدوق کی مع حال کے یقین اور کمال

الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صدق کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

كَتَبْتَ إِسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعِ اسْمِهِ وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ ذِكْرِهِ

جس محبوب کا نام تحریر فرمایا عرش پر اپنے نام کے ساتھ اور بلند کیا تو نے آپ کے ذکر کو ساتھ اپنے ذکر کے

اللَّهُمَّ اجِبْ سَوَالِي بِحُرْمَتِهِ وَبِعُظْمَةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ

اے اللہ میرے سوال کو پورا فرما بظہیل ان کی حرمت اور عظمت ذات کے اور ان کے صفات و اسماء کے

وَأَجْلَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کے جلووں کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

السَّبِيحِ الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو محبوب کہ بلند مرتبت اسماء والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ طَهَّرَ اللَّهُ اسْمَهُ وَشَرَّفَ اسْمَهُ وَكَرَّمَ رَأْسَهُ وَأَسْأَلُكَ

کہ جس محبوب کے اسم مقدس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر بنایا اور مشرف و مکرم بنایا اور میں سوال کرتا ہوں

بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الْعُلْيَا وَبِنِعْمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى

تیرے اسماء حسنی اور بلند شان صفات کے طفیل۔ اور تیری ان گنت نعمتوں کے صدقے میں

وَبِأَكْرَمِ اسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَبِأَسْمَائِكَ الْمَكْنُونَةِ

تیرے انتہائی کرامت والے اور محبوب ترین نام کے طفیل اور ان اسماء کے طفیل جو مخفی و مستور

الْمَخْرُوزَةِ الْجَلِيلَةِ وَبِأَسْمَائِكَ الْأَجَلِّ الْعَظِيمِ وَبِكُلِّ اسْمٍ

بھی ہیں اور جلیل بھی اور بظیفیل تیرے اس اسم کے جو اجل عظیم و اعظم ہے اور تیرے ہر اس اسم کے طفیل

هُوَ لَكَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ

جو تورات۔ انجیل۔ زبور اور فرقان میں ہے اور تیرے ہر اس اسم کے طفیل جو تو نے

لَكَ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْلَمْ تُعَلِّمَهُ أَحَدًا وَبِكُلِّ اسْمٍ

اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھلایا۔ اور جو کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ اور بظیفیل ہر اس نام کے کہ

دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةٌ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَأَنْبِيَاءِكَ

دعا کی تجھ سے ساتھ اس کے تیرے حاملین عرش اور تمام ملائکہ اور مخلوق میں سے

مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَعْظَمِ

اصفیاء و انبیاء نے۔ اور بظیفیل اسم اعظم کے حق کے جو ہر عظمت والے نام سے

أَعْظَمُ وَبِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاسْمِ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ

عظیم تر ہے۔ اور بظیفیل اللہ تعالیٰ کے اسم اور اس کے اسم ذات و اسم صفات کے۔ اور بظیفیل اس کے حبیب محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَا كَثِيرَ التَّوَالِ وَيَا دَائِمَ الْوَصَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے۔ اے اللہ بہت عطا کرنے والے، اے ہمیشہ کے لیے شرف وصل بخشنے والے

وَيَا حَسَنَ الْفَعَالِ وَيَا سَازِقَ الْعِبَادِ عَلِيَّ كُلِّ حَالٍ وَيَا بَارِيَّ

اے خوبترین افعال والے۔ اے بندوں کو ہر حال میں رزق دینے والے۔ اے ایجاد کرنے والے

بِلَا مِثَالٍ وَيَا بَاقِيَ بِلَا زَوَالٍ وَيَا رَاحِمَ بِلَا وَبَالٍ نَجِّنَا مِنَ الشُّرْكِ

بغیر مثال اور نمونہ سابقہ کے۔ اے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ اے رحم فرمانے والے بغیر بوجھ اور مشقت ڈالے ہمیں کفر و شرک

وَالْكَفْرِ وَالضَّلَالِ بِحَقِّ شَرَفِ مُحَمَّدٍ وَوَصْفِ مُحَمَّدٍ وَتَشْفِئِ

اور گمراہی سے نجات دے بظیفیل حق محمد کریم کے شرف کے اور ان کے وصف اور ان کی

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

راخ مجتہد کے۔ صل اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبِي الْقَاسِمِ وَالْأَرَامِلِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا کہ حضرت قاسم کے باپ ہیں اور بیوگان اور تمام اہل ایمان کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِبْطَاحِيِّ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بطحاء مکہ والے

الْأَيْلَاحِ الْإِبْيَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور روشن چہرے اور سفید رنگت والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اتَّقَى النَّاسِ وَأَجُودِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو آقا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِجْرِيَّ الْإِجْرِيَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت بڑی جلالت والے اور بہت زیادہ صاحب جود ہیں

الْإِجْرِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور اجر دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصْفِهِ فِي الْأَوْصَافِ وَنَعْتِهِ فِي النَّعْتِ وَالْمَعْرُوفِ

آل پر اور آپ کے ہر وصف پر اوصاف میں اور ہر نعت پر نعتوں میں اور ہر صفت پر

فِي الصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

صفات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْإِحْسَنِ وَالْأَحْسَنِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب بذات خود اعلیٰ احسن والے ہیں اور سب لوگوں سے حسین ترین ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِحْشَمِ الْإِخْوَانِ الْإِخْوَانِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت بڑی حسنت والے ہیں۔ انخواناخ آخر الزمان ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِدْعِجِ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کے بہت سیاہ اور موٹی آنکھوں والے

الْأَدْوَمِ الْإِنْرَجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سیدھی قامت والے۔ باریک ابروؤں والے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأُرْجِحِ وَأُرْجِحِ النَّاسِ عَقْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پر جو بذات خود وزنی شخصیت ہیں اور سب سے زیادہ وزنی بھی ہیں ازروئے عقلمندی کے۔ لے اللہ رحمت و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِرْحَمِ وَالرَّحِمِ

سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت رحم کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ

النَّاسِ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رحمت والے ہیں بندوں پر۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ أذن خَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو آقا سراسر کان ہیں بھلائی کی باتوں کے لیے۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِذْكَى الْإِنْرِهِرِ الْأَسْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو آقا بہت پاکیزہ، روشن تر اور ثابت قدمی والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْلِمِ النَّاسِ وَأَشْجَعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے زیادہ صلح جو ہیں اور سب سے

النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

شجاع۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْأَشَدِّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي عَذْبِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو آقا کہ زیادہ شرمیلے ہیں کنواری لڑکیوں سے ان کے کنوارے پن میں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْأَشَدِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت دور ہیں عیوب سے۔ روشن چمکیلے دانتوں والے

الْأَطْيَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

اور بہت پاکیزہ۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَصْدَقِ النَّاسِ لَهْجَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا سب سے زیادہ سچے ہیں ازروئے گفتگو کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے پاکیزہ ہیں ازروئے نکت کے۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْأَعَزِّ الْأَعْظَمِ

و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ عزیز تر۔ عظیم تر

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

اور انتہائی بلند شان ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ وَكَرِيمِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ انتہائی عزیز و کریم ہیں اور سب لوگوں سے زیادہ عزت والے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ أَفْصَحِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

محمد پر جو محبوب کہ سب اہل عرب فصیح تر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْثَرِ النَّاسِ تَبَعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو آقا کہ سب سے زیادہ متبعین والے ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ وُلْدِ آدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام اولاد آدم سے بزرگ تر۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحُرْمَةِ الْعَمَّةِ الْمَرْهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بطفیل حرمت العمہ التشرہ

الَّتَمَّصَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

التمصہ کے۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْأُمَّةِ الْأَمْجِدِ الْأُرْحَمِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب (تتمنا پوری) اُمت ہی اور بہت بزرگ مخلوق سے نہیں پڑھے اور ام القریٰ (مکہ) والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا لِمَعِي الْأِمَامِ الْأَمِينِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ روشن دماغ اور قابل اعتماد امام ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمَنَةِ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سراپا امان ہیں

وَأَمْنَةَ أَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور اپنے اصحاب کیلئے بھی امان ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْفُسِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل پر جو تمام اہل عرب سے نفیس تر ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا نُورًا الْأَوَّاهِ الْأَوْسَطِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت نورانی۔ بہت زاری کرنے والے اور بہت فضیلت والے ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ فِي

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے زیادہ ذمہ داریوں کو

النَّاسِ ذِمَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

نجانے والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْأُولَى الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

جو قریب تر ہیں (ہر امتی کیلئے اس کی جان سے) اور سب مخلوق سے اول ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلِ شَافِعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

آل پر جو سب پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ لے اللہ بے شک میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے

قَوِي عَلَيْهِ يَدَانِي بِعَافِيَتِكَ وَنَالْتُهُ قُدْرَتِي بِفَضْلِنِعْمَتِكَ

کہ قوت پائی اس پر میرے بدن نے بسبب تیری عافیت کے۔ اور پالیا اس کو میری قدرت نے تیری وافر نعمتوں کی وجہ سے

وَأَبْسَطْتُ إِلَيْهِ يَدَايَ بِسِعَةِ رِزْقِكَ وَأَحْتَجَبْتُ عَنِ النَّاسِ

اور کشادہ ہوا اس کی طرف میرا ہاتھ تیرے رزق کی فراخی سے اور پردے میں رہا میں لوگوں سے بسبب

بِسِتْرِكَ وَأَتَكَلَّمْتُ فِيهِ عِنْدَ حَوْضِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ وَوَقَّعْتُ

تیری پردہ پوشی کے۔ اور اعتماد کیا میں نے تیرے خوف کے وقت تیری امان پر اور بھروسہ کیا میں نے

مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ وَعَوَّلْتُ فِيهِ عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَ

تیرے غلبہ و قہر سے تیری بردباری پر اور اعتماد کیا میں نے تیری ذات کے کرم اور

عَفْوِكَ وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى غَضَبِكَ أَوْ يَدِينِي مِنْ سَخَطِكَ

عفو پر۔ اور (استغفار کرتا ہوں) ہر گناہ سے جو سبب ہو تیرے غضب کا، یا تیری ناراضگی کے قریب کرے۔

وَيَسِيلُ بِي إِلَى مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَيُبَاعِدُنِي عَنَّا دَعْوَتِي إِلَيْهِ

اور مائل کرے مجھے طرف تیرے ممنوع امور کے۔ اور بعید کرے مجھے تیرے مامور افعال سے۔ اور مغفرت چاہتا ہوں

وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَسَلْتُ إِلَيْهِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ بِغَوَايَتِي أَوْ

ہر اس گناہ سے کہ جس کے حوالے کیا میں نے کسی کو تیری مخلوق سے بسبب اپنی گمراہی کے یا

خَدَعْتَهُ بِحِيلَتِي فَعَلِمْتَهُ مِنْهُ مَا جَهِلَ وَتَرَيْتَهُ لَكَ مَا أَوْلَى إِلَيْكَ

دھوکہ دیا میں نے اسے اپنی حیلہ گری سے پس سکھایا میں نے اس کو جس سے وہ جاہل تھا اور مزین کیا اس کیلئے جو اسے معلوم تھا

وَلَقَيْتَكَ غَدًّا بِأَوْثَارِي وَأَوْثَارِي مَعَهُ أَوْ تَرَانِي وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

در ملاقات کروں کل تیری اپنے گناہوں کے ساتھ اور دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جمع اپنے گناہوں کے۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں (اس گناہ سے

يُدْعُو إِلَى الْغَيِّ وَيُضِلُّ عَنِ الرُّشْدِ وَيُقِلُّ الْوَفْرَ وَيُحَقُّ التَّالِدَ

جو بلائے طرف گمراہی کے اور بھٹکانے بھلائی سے۔ اور کم کرے منفعات اور فائدہ کو اور نسبت و نابود کرے موروث مال و ترک

وَيُحِيلُ الذَّكْرَ وَيُقِلُّ الْعَدَدَ فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو۔ اور ذکر کو اٹھا دے۔ اور افراد کو کم کر دے۔ پس درود بھیج۔ اے میرے رب اور سلام سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ

اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ ہمیں دور رکھ برے اعمال و اخلاق سے

وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَادُ وَأَعِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ

اور خواہشات نفس اور بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے مخصوص ہدایت عطا فرما۔ اور ہم پر

فَضْلِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ شَرِّ حَمِيَّتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ

اپنا فضل خاص فرما۔ اور ہم پر اپنی رحمت خاص پھیلا اور اپنی برکات نازل فرما

وَنَجِّنَا مِنْ عَذَابِكَ وَجَنِّبْنَا مِنْ سَخَطِكَ وَلَا تَنْسِنَا ذِكْرَكَ وَ

اور اپنے عذاب سے نجات دے۔ اور دور رکھ ہمیں اپنی ناراضگی سے۔ اور نہ بھولنے دے ہمیں اپنا ذکر اور

اذْكَرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ

یاد کر اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہو قریب ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے تاکہ قریب ہو جاؤں میں

مِنْ هَذَا أَمْرًا شَدِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس کے از روئے بھلائی کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الرُّسُلِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ اول ہیں رسولوں سے (نبوت و رسالت میں) اور اول ہیں مومنین و مسلمین سے (ایمان و اسلام میں) اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا مَانَ الْبَارِئِ

اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سراپا امان ہیں اور نوحکار

الْبَارِ قَلِيْطِ الْبَارِئِ الْبَاسِطِ الْبَاطِنِ الْبَالِغِ وَبِالْبَيَانِ الْبَاهِرِ الْبَاهِي

مخلص، یکتا۔ فراخی فرمانے والے۔ محقق (حقیقت والے) مراد کو پہنچنے والے۔ کامل بیان والے۔ غالب۔ فخر کے قابل

الْبَحْرِ الْبَدءِ الْبَدْرِ الْبَدِيعِ الْبِشِيرِ الْبَرْقِطِيسِ الْبُرْهَانَ الْبِشْرِيَّ

بحر سخا، آغاز خلق۔ ماہِ تمام۔ انوکھے اور عمدہ۔ بشارتیں سنانے والے، برقِ طیس، برہان خداوندی، ظاہرِ حلد والے۔ سراپا

وَبِشْرَى عَيْسَى وَالْبَصِيرِ الْبَلِيغِ الْبِهَاءِ الْبِهِيِّ الْبَيْتَةِ الْبَاسِلِ الْبَازِلِ

بشارت۔ بشارت عیسیٰ۔ اور بصیر، بلیغ، حسن سراپا۔ حسین و جمیل۔ سراپا دسیل۔ قوی و توانا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّالِي

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کتاب اللہ کی تلاوت فرمانے والے

التَّذَكُّرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں اور سراپا نصیحت ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ النَّعْقِيَّ التَّلْقِيْطِ التَّنْزِيْلِ التَّهَامِيَّ التَّابِعِ الْجَامِعِ الْجَبَّارِ

آل پر جو آقا متقی، سراپا رفعت سر بلند، مجسم تنزیل، تمامہ والے۔ اتباع (حق) والے۔ جمع کرنے والے۔ ٹوٹے ہوؤں کو جوڑنے والے

الْجَلِيْلِ الْحَدِّ الْجَوَادِ الْجَهْظِمِ الْخَاتِمِ الْخَاشِرِ الْحَافِظِ الْحَامِدِيَّ

جلالت والے۔ حق و باطل کی حد فاصل۔ صاحبِ جود۔ آخری نبی۔ صاحبِ حشر۔ حافظ۔ حامد۔ اے

مَنْ هُوَ بِالْمَرْصَادِ يَدْعُو الْعِبَادَ إِلَى الْمَعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وہ ذات جو تاک میں ہے بلاتا ہے بندوں کو بازگشت کے مقام کی طرف۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاطَ حَاطَ وَحَبِطًا وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ حاط حاط اور حبیط ہیں اور

حَامِيَّ الْحَبِيْبِ إِلَى الْحَبِيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پناہ میں دینے والے ہیں دوستوں کے۔ طرف دوست کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحِجَازِيِّ الْحَرَمِيِّ الْحَرِيْصِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ صاحبِ حجاز اور صاحبِ حرم ہیں رامت کی ہدایت پر احرص ہیں۔ کامل حجت و

وَحُجَّتِهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَحَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِيْنَ رُدُّوْهُ رَحْمَةً

برہان ہیں۔ اللہ کی برہان ہیں مخلوقات پر "حرصیں ہیں تم پر مومنین کے ساتھ مہربان رحم فرمانے والے ہیں"

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُرِّزْ

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محمد امت امیر کیلئے

الْأُمِّيِّينَ وَالْحَرِيصِينَ عَلَى الْإِيْمَانِ الْحَسِيْبِ الْحَفِيْبِ الْحَاجِلِ

پناہ ہیں اور ان کے ایمان پر حرص فرمانے والے ہیں۔ حساب لینے والے شفیق، حفاظت فرمانے والے، سردار

الْحَمَادِ الْحَمْدُ الْحَمْطَايَا بِالْحَمْدِ وَالْحَمِيدِ الْحَنَّانِ الْحَنِيفِ الْحَيِّ الْحَيِّ

بہت حمد کرنے والے۔ سراپا حمد حمد کی گہرائی تک پہنچنے والے ہمیشہ کیلئے لائق ستائش۔ بہت مہربان۔ حق کی طرف بہت مائل۔ زندہ جاوید اور رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَاتِمِ

کی، گھٹارے اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مہربوت ہیں

الْخَاتِمِ وَخَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالتَّبِيِّينَ وَالْخَاشِعِ

اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اور آخری نبی و رسول اور مرسل۔ صاحب خشوع و خضوع اور صاحب تواضع

الْخَاضِعِ الْخَافِضِ الْخَالِصِ الْخَبِيرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ

صاحب خلوص۔ باخبر۔ خیر۔ خیر کو اختیار کرنے والے اور ام و انبیاء کے

وَالْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنِ الضَّلَالَاتِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْبُشْرِيَّةِ

خطیب۔ اے اللہ پاک فرما میرے دل کو گمراہیوں سے یعنی بشری طبائع

وَالْخَصَائِلِ الرَّدِيَّةِ الدِّنِيَّةِ الْمَرْكُوزَةِ فِي الطَّبَائِعِ الْبُشْرِيَّةِ تَصَرُّفًا

روی گھٹیا خصلتوں سے جو مرکوز ہیں بشری طبائع میں در آنجا لیکہ میں تصرف کرنے والا ہوں

فِي مُلْكِكَ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ عَزْلٍ فِي تَصَرُّفٍ دُونَ تَصَرُّفٍ بَلْ فِي

تیرے ملک میں ہمیشہ کے لیے بلکہ سبھی میں متصرف ہو بغیر معزولی کے اور بغیر تحدید و تقصید کے بعض تصرفات میں

الْكُلِّ بَاقِيًا إِلَى أَجَلٍ أَجَلْتَهُ اللَّهُ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي

اس مدت تک کے لیے جو تیرے (اس کائنات کیلئے) مقرر فرمائی ہے۔ اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ مجھے

دَائِمًا حَيًّا إِلَى نَزُولِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَهْنٍ فِي قَوَائِي

زندہ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک بغیر کسی ضعف و ناتوانی کے میرے قوی میں ماور

وَأَثَرُ هَذَا الْإِسْمِ حِينَ دَعَوْتُ بِهِ لِصَالِحِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَكَرِهْتَهُ

مؤثر بنا اس اسم کو جب میں دُعا کروں اس کے ساتھ تیرے کسی نیک بندے کے لیے۔ اور بری فرما اس کو

عَنِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَخْلَاطِ الْفَاسِدَةِ وَأَجْعَلَ كُلَّ حِيٍّ تَحْتَ جُودِ

امراض اور فاسد اخلاط سے۔ اور ہر جاندار کو میری زندگانی کے فیض و جود کے تحت کر دے

حَيَاتِي لِأَيُّصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ غِيْشٍ وَحَسَدٍ وَسَائِرِ الشُّكُوكِ

واسطے نفع رسائی کے طرف اس کے بغیر کسی کینہ و حسد اور دیگر شکوک کے

فِي حَقِّهِ وَإِنْ دَعَا عَبْدُكَ هَذَا فِي حَقِّ أَمِيرٍ بِهَذَا الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ

اس کے حق میں۔ اور اگر دُعا کرے تیرا بندہ تجھ سے حاکم وقت کے حق میں ساتھ اس اسم اعظم کے

لِبِقَاءِ أَمَارَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَحَيَوَةِ شَخْصِهِ إِلَى مُدَّةٍ فَاجِبُهُ مِنْ

اس کی حکومت اور تصرف کے بقاء کے لیے اور اس کی زندگانی کی درازی کے لیے تو اس کو قبول فرما بغیر

غَيْرِ تَوْقِفٍ وَمَنْعٍ أَمِينٍ يَا قَيُّوْمُ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ

توقف کے اور محروم اجابت کرنے کے۔ اے قیوم کہ کوئی چیز باہر نہیں رہتی اس کے دائرہ علم سے

وَلَا يُؤَدُّهُ إِجْعَلْنِي قَائِمًا فِي تَجَلِيَّاتِ أَسْمَائِكَ مِنْ غَيْرِ فَاوِيَّتِ

اور نہ اس کو تھکاتی ہے مجھے قائم رکھ اپنے تجلیات اسماء میں بغیر محروم ہونے کے ان سے

حِينَمَا وَسَخَّرْ لِي كُلَّ كَوْنٍ أَيًّا كَانَ مُنْقَادًا فِي ظُهُورِ الْأَثَرِ مِنْهُ

کسی لمحہ کے لیے اور مسخر فرما میرے لیے ہر موجود کو جیسا بھی ہو در آنحالیکہ وہ تا بیدار ہو ظہور اثر میں وقت

حِينَ الطَّلَبِ وَازْدِيَادِ التَّجْرِبَةِ وَأَخِذِ الْكُلِّيَّاتِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ

طلب کرنے کے اس سے اور بڑھنے تجربہ کے اور حاصل کرنے کلیات کے جزئیات سے جو کہ ان سے

مُتَخَلِّفَةٌ عَنْهَا إِلَى الْجُزْئِيَّاتِ الْكَائِنَةِ عَلَى نَهْجِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ

جدا ہونے والی نہیں ہیں اور وہ جزئیات سرزد ہونے والی ہیں خوارق عادات کے طریقے پر

مِنْ غَيْرِ التَّفَاتِ إِلَى جَاهٍ فِي خَلْقِكَ أَوْ صِدَارَةٍ فِي عِبَادِكَ بِإِذْنِ

بغیر التفات کے طرف جاہ و مرتبہ کے تیری مخلوق میں یا طرف صدارت کے تیرے بندوں میں بلکہ

مُعْطِيًا إِلَّا نَصَافًا لِيَخْلُقَكَ أَيَّا كَانَ مِنْ غَيْرِ فُوتٍ حَقِّ مَّامِنِي لَا

انصاف متیا کرتے ہوئے تیری مخلوق کو جس قسم کی بھی ہو بغیر فوت ہونے کسی کے حق کے مجھ سے اور

طَالِبًا مِّنْهُ ذَلِكَ وَاجْعَلْنِي عَالِمًا بِالْعُلُومِ الْيَقِينِيَّةِ الَّتِي صَارَتْ

بغیر مطالبہ کرنے حق کا اس سے اور مجھے علوم یقینیہ کا عالم بنا جو میرے لیے

مَلَكَةٌ حَاضِرَةٌ كَالْوُجُوهِ فِي الْبُرَاتِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ مَعَ أَحْكَامِ

مستحضر ہوں بطور صلاحیت دائمہ کے مثل نظر آنے چہروں کے آئینوں میں وقت مقابل ہونے کے مع لوح محفوظ کا حکام

اللُّوحِ مِنْ غَيْرِ انْجِرَافٍ وَفَقْدِ حَرْفٍ يَا قِيَوْمَ أَنْتَ جَاعِلُ الْعَبْدِ

کے بغیر کسی طرح کے انحراف کے اور کسی حرف کے اوجھل ہونے کے۔ اے قیوم تو بنانے والا ہے اپنے بندے کو

وَجِيهًا فِي الْمَلَكَةِ الْمُتَعَبِّدَةِ الْمَسْبُوحَةِ عِنْدَ حَضْرَتِكَ وَلَا تَجْعَلْهُمْ

آبرو مند ان ملائکہ میں جو عبادت و تسبیح کرنے والے ہیں تیری بارگاہ میں اور نہ بنانا انہیں

عِنْدَ نَفْسِي أَكْبَرُ شَيْءٍ سِوَى خِدْمَتِكَ بِحَيْثُ لَا يُؤَدُّهُ عَلَيَّ

میرے نزدیک بڑی اہم شئی سوا اپنی خدمت کے جو نہ بوجھل کرنے والی اور ٹھکانے والی ہو مجھے

أَمِينَ يَا خَالِقَ النَّيِّرِينَ وَالْكَوَاكِبِ الثَّقَابَةِ الدَّرِّيَّاتِ الْمُرِينَةِ

آمین۔ اے پیدا فرمانے والے سورج و قمر کے اور چمکتے روشن ستاروں کے جن کے ساتھ مزین کئے گئے ہیں

بِهَا الْأَفْلَاقُ الدَّوَارَاتُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْأَوْلِيَّاتِ وَالْآخِرِيَّاتِ

گردش کرنے والے افلاک پہلی اور پچھلی مخلوقات میں سے بنا

اجْعَلْنِي أَوْحِدِيًّا فِي الطَّاعَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَفَهُمْ مَفْهُومَاتِ

مجھے یکتا اپنی طاعات و تسبیحات میں اور انوع خطابات کے مفہومات کو سمجھنے میں

أَنْوَاعِ الْخَطَابَاتِ مَعَهُمْ مَعْنَى الْوَحْدَةِ الْمُبْتَغَىةِ الَّتِي هِيَ أَوْلُ

مع سمجھنے وحدت مطلقہ کے معنی کو جو کہ سب اولیات

الْأَوْلِيَّاتِ وَأَسْبَقُ الْأَضَافِيَّاتِ وَالصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ

بدیہیات سے مقدم ہے اور سابق ہے تمام اضافی اور فعلی صفات سے اور سب مظاہر میں

فِي الْمَظَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

نور فرما ہے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مُشَفِّعِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبِّتُ

میں پر جو محبوب پہنچے شفیع بنائے ہونے ہیں۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں ہر گناہ سے جس میں تیرے

إِلَيْكَ مِنْهُ وَأَقْدَمْتُ عَلَىٰ فِعْلِهِ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ وَأَنَا عَلَيْهِ

تیری موت توہ کی۔ اور میں نے اس کے کرنے کا اقدام کیا پس میں نے حیا کیا تجھ سے اور میں اسی ارادہ پر ہوں

وَرَهْبَتِكَ وَأَنَا فِيهِ ثُمَّ اسْتَقَلْتُ مِنْهُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

اور میں نے تیرے تجھ سے جبکہ میں اسی میں ہوں پھر میں نے رجوع کیا اور لوٹا طرف اس کے۔ اور ہر اس گناہ سے

تَوَزَّكَ عَلَيَّ أَوْ جَبَّ فِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ بِسَبَبِ عَهْدِكَ عَلَيَّ

سنت توڑا ہوں جس کا تو مجھ پر عائد ہوا یا لازم ہوا مجھ پر اس امر کے کرنے سے جسے کیا میں نے بسبب عہد کے جو تیرے

أَوْ عَقْدٍ عَقَدْتَهُ لَكَ أَوْ ذِمَّةٍ أَلَيْتُ بِهَا مِنْ أَجْلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ

سے یا یہ بیان سے جو تیرے سے یہ وہ عہد یا ذمہ داری کے جو میں نے اٹھائی تیری خاطر تیری مخلوق میں سے کسی

خُلُقِكَ ثُمَّ تَقَضَّيْتُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمْتَنِي بِلِ اسْتِزْكَائِي

سے یہ پھر میں نے اس کو توڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے جو لازم آئی بلکہ پھیلایا مجھے اس

عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا الْبَطْرُ وَأَسْخَطَنِي عَنْ رِعَايَتِهَا الْأَشْرُوكِ ذَنْبٍ

میں نے ان سے وفائی سے تیرے اور ناراض کیا مجھے اس کی تمکداشت سے تیرے اور واسطے ہر گناہ کے

لِحَقْنِي بِسَبَبِ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَىٰ مَعَاصِيكَ وَ

جو حق ہو مجھے بسبب اس نعمت کے جس کا تو نے انعام کیا پس میں نے اس کے ساتھ معاصی پر تقویت حاصل کی اور

خَالَفْتُ فِيهَا أَمْرَكَ وَأَقْدَمْتُ بِهَا عَلَىٰ وَعَيْدِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیرے امر کی مخالفت کی اور اس کے بسبب تیری وعید تک آپہنچا۔ اور واسطے ہر گناہ کے

قَدَّمْتُ فِيهِ شَهْوَتِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَأَثَرْتُ فِيهِ مَحَبَّتِي عَلَىٰ أَمْرِكَ

میں میں نے اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھا تیری طاعت پر اور ترجیح دی اپنی محبت و پسند کو تیرے امر پر

فَارْضَيْتُ نَفْسِي بِغَضَبِكَ وَعَرْضْتُهَا لِسَخَطِكَ اِذْ نَهَيْتَنِي وَقَدَّمْتَنِي

پس میں نے راضی کیا اپنے نفس کو تجھے ناراض کر کے اور میں نے پیش کیا اسے تیرے غصے پر جبکہ تو نے مجھے منع کیا تھا۔ اور تو نے

اِلَيَّ فِيهِ اِنْذَارَكَ وَتَحَجَّجْتَ عَلَيَّ فِيهِ بِوَعِيدِكَ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ

پہلے پہنچایا میری طرف اس میں وعید کو اور مجھ پر حجت پوری کر دی اپنی وعید کے ساتھ۔ اے اللہ اے کہ جسے

لَهُ اِطْنَةٌ عَلَيَّ الْعِبَادَةِ وَرَاحِمُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي يَوْمِ الْمَعَادِ نَسُوكُ

بندوں پر شفقت ہے اور رحم فرمانے والا ہے ان پر دنیا میں اور قیامت کے روز ہم سوال کرتے ہیں

بِحَقِّ ذَاتِكَ الَّتِي لَا تُنْكِرُ وَاَسْمَائِكَ الَّتِي لَيْسَ لِمَعَانِيهَا حُدٌّ

تجھ سے تیرے حق ذات کے توسل سے جس ذات میں اجنبیت نہیں اور تیرے اسماء کے وسیلہ سے جن کے معانی کی حد عام

يُحْصِرُ اَنْ تُدَيِّقَنَا بِرُدِّ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةِ مُنَاجَاةِكَ وَلَا تُشْغَلُنَا

نہیں کہ چکھا ہمیں اپنی عفو کی ٹھنڈک اور اپنی مناجات کی چاشنی۔ اور ہمیں اپنے ماسواہ کے ساتھ مشغول نہ فرما

بِغَيْرِكَ وَاسْتَعْمَلْنَا فِي مَرْضَاتِكَ الْهَنَاءَ اِنَّ ظُلْمَةَ الذُّنُوبِ قَدْ

اور ہمیں اپنی رضامندی کے مطابق عمل پیرا فرما۔ اے ہمارے خدا گناہوں کی ظلمت نے

اَعْمَتِ الْبَصِيرَةَ وَتَنَاوَلَ الشَّهَوَاتِ قَدْ اُطْفَأَ نُورُ السَّرِيرَةِ وَ

ہماری بصیرت کو اندھا کر دیا ہے اور خواہشات نفس پر عملدرآمد نے نور باطن و فطرت کو گل کر دیا ہے

نَحْنُ عِبِيدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُعْتَرِفُونَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَمُتَمَثِّلُونَ

ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حضور حاضر ہیں، تیری وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں

لَا وَاَمْرِكَ وَنَوَاهِيكَ وَنَسْتَشْفِعُ اِلَيْكَ بِكُلِّ حَبِيبٍ وَخَلِيلٍ وَبِكُلِّ

تیرے اوامر و نواہی پر کاربند ہیں اور شفیع بناتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرے ہر حبیب و خلیل کو اور ہر

مُقَرَّبٍ اِلَيْكَ قُرْبًا بِلَا تَمَثُّلٍ اَنْ تَهَبَ لَنَا نُورًا فِي الْبَصِيرَةِ لَا

مقرب کو جس کو تیرا قرب حاصل ہے بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے کہ تو ہمیں ایسا نور بصیرت عطا کرے

يُوصَفُ وَعِلْمًا يُصَرِّفُ لَنَا قَلْبًا مُؤْمِنًا مُطَهَّرًا وَلَا تُؤَاخِذْنَا

جو بیان سے باہر ہو۔ اور ایسا علم جو ہمارے دلوں کو صاحب ایمان و اطمینان بنا دے۔ اور نہ مؤاخذہ فرما ہم سے

بِمَا وَقَعْنَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بسبب اس کے جو سرزد ہوا ہم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِ الْخَلِيفَةِ الْخَلِيلِ وَخَلِيلِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جو آقا کہ تیرے نائب و خلیل ہیں اور خلیل رحمن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّبِيِّينَ اللَّهُ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام انبیاء علیہم السلام سے بہتر ہیں۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَوْلِيَيْنَ وَخَيْرِ الْآخِرِينَ

و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب اولین و آخرین سے بہتر و برتر ہیں

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَخَيْرِ الْخَلْقِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو آقا کہ سب انبیاء۔ ساری مخلوق اور سب کائنات سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعَالَمِينَ طَرَا اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام جہانوں سے افضل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب لوگوں سے افضل ہیں

وَخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور (بالخصوص) اس امت سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَارِ الْحِكْمَةِ وَدَاعِيهَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو آقا کہ دار حکمت ہیں اور اس کی طرف بلائے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي الدَّلِيلِ اللَّهُ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو مٹانے والے ہیں (باطل کے) اور داعی و رہبر ہیں (حق کے)۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو دعائے خلیل علیہ السلام ہیں اور

دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سراپا دعوت توحید ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةَ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو آقا تمام انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيلِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آپ کی آل پر جو آقا تمام تر خیرات کی طرف رہبر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل کر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّهْتَمُ وَدَاوُدَ الْبَحْمُودِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو نرم خو اور قابل ستائش داؤد ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الذَّاكِرِ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت زیادہ ذکر کرنے والے

الذَّاكِرِ الذَّاكِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بلکہ عین ذکر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الذُّخْرُودِي الْحَرَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو آقا کہ ذخیرہ ہیں (خیرات کا) اور صاحب حرمت و کرامت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي النَّجَّاحِ وَذِي الْجِهَادِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب تاج ہیں اور صاحب جہاد ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْحَطِيمِ وَذِي السَّكِينَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حطیم والے ہیں اور سکینت والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْحَوْضِ الْمُرْوِيِّ ذِي الْخَلْقِ الْعَظِيمِ

اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں حوض کوثر کے جس پر سنگان محشر وارد ہوں گے۔ اور صاحب خلق عظیم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ذِي السَّيْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِكَلِمَاتِ

صراط مستقیم والے ہیں اور صاحب سیف ہیں۔ لے اللہ میں تیرے ساتھ پناہ حاصل کرتا ہوں اور

اللَّهِ الثَّمَامَاتِ وَالْأَسْمَاءِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأَ

اللہ تعالیٰ کے کلمات نامہ کے ساتھ اور جملہ اسماء کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا اور تخلیق فرمایا اور ہر شر کے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ

شر سے اور ہر جانور کے شر سے کہ تو جس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ بے شک میرا پروردگار راہ

مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاقِدًا وَأَوْلًا

راست پر ہے۔ لے اللہ اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما حالت قیام و قعود اور حالت نوم میں اور

تَشْبِثْ بِي عَدُوًّا وَأَوْلًا حَاسِدًا اللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَبْصَرْتُ نَوَىٰ

خوش فرما میرے ساتھ میرے دشمن کو اور نہ ہی کسی حاسد کو۔ لے اللہ تو نے اپنی توفیق سے مجھے صاحب بصیرت بنایا اور

أَحْضَرْتُ نَوَىٰ النَّجَاةِ وَجَعَلْتَنِي مِنْكَ فِي وِلَايَةِ الْعَصَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

میرے پاس نجات کو موجود کیا اور کیا تو نے مجھے اپنی حفاظت کے تصرف میں۔ پس میں ہمیشہ

مِنْكَ فِي سُبُوغِ نَعْمَائِكَ وَتَتَابِعِ الْإِيكَ مَحْرُوسًا مِنَ السُّوءِ

تیری کامل نعمتوں اور لگاتار انعامات کی بدولت محفوظ رہا رو کئے جانے اور

الْإِمْتِنَانِ وَمَحْفُوظًا مِنَ الْمَوَانِعِ وَالِدَّفَائِعِ وَلَمْ تُكَلِّمْنِي قَوْلًا

روکے جانے سے اور محفوظ رہا رکاوٹوں سے اور مدافعت سے اور تو نے مجھے میری طاقت سے زیادہ

طَاقَتِي وَلَمْ تُرْضَ عَنِّي إِلَّا طَاعَتِي فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ

تکلیف نہ دی۔ اور نہ پسند کیا مگر میرے اطاعت گزار بننے کو۔ پس بیشک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی

إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِبْ وَلَا تَغِيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلَا تَخْفَى عَنْكَ خَافِيَةٌ

معبود برحق نہیں نہ تو خود غائب ہوا ہے اور نہ کوئی شئی تجھ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے نہ مخفی رہ سکتی ہے کوئی مخفی رہنے والی شئی

وَلَكِنْ تَضِلُّ عَنْكَ فِي ظُلُمَاتِ الْخَفِيَّاتِ ضَالَّةٌ إِنَّهَا أَمْرٌ إِذَا

اور نہ ہرگز کم ہوگی تجھ سے پوشیدہ اشیاء کی ظلمتوں میں کوئی کم ہونے والی شئی تیرا امر صرف یہاں ہے جب

أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي بِمَا

تو کسی شئی کا ارادہ کرے کہ اسے کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے رزق بخش بطفیل

دَعْوَتِكَ بِهِ وَأَعْطِنِي هَيْبَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ مَنْ يَرَانِي

میری دعا کے اور عطا کرے مجھے اپنی ہیبت اپنی تمام مخلوق پر جو ان سے مجھے دیکھتے ہیں

مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَرِنِي وَتَعْصَمْتُ بِالتَّوْرَةِ عَنِ يَمِينِي وَالْإِنجِيلِ

اور جنہوں نے نہیں دیکھا۔ شہادت سے بچاؤ حاصل کیا میں نے تورات کے ساتھ دائیں جانب سے اور انجیل کے ذریعے

عَنْ يَسَارِي وَالزُّبُورِ خَلْفِي وَالْقُرْآنِ أَمَامِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

بائیں سے زبور کے صدقے میں پیچھے سے اور قرآن کی بدولت آگے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفِيعِي وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَفِيقِي وَوَسْطَانِي

وآلہ وسلم میرے شفیع ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رفیق ہے اور مطلع ہے

عَلَى مَنْ يَحْفَظُنِي وَيُرَعَانِي مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُهُ أَنْ يَضُرَّنِي وَ

ان پر جو میری حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں ہر خوف ناک شئی سے کہ مجھے ضرر پہنچائے اور

اللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قَرِيبٌ مَبْجُودٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

اللہ تعالیٰ ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ قرآن مجید ہے (جو مرقوم و محفوظ ہے) لوح محفوظ میں۔

وَعَقَدْتُ عَلَى الْحَدِّ وَالْحَدِيدِ وَالْبَاسِ الشَّدِيدِ وَكُلِّ إِنْسَانٍ

اور میں نے دور کیا اپنے سے تیز دھار کو اور لوہے کو اور انتہائی شدت کو اور ہر معاند انسان کو اور

عَنِي وَالْجِنِّ عَلَى التَّكْيِيدِ وَكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَعَقَدْتُ

ہر جن کو سختی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کو اور روکا میں نے اپنے سے

السُّيُوفُ الْهِنْدِيَّاتِ وَالرِّمَاحُ الْقَالِيَّاتِ وَالسِّهَامُ الطِّيَّارَاتِ

ہندی تلواروں کو اور ان کے بعد آنے والے نیزوں کو اور اڑتے تیروں اور

السَّكَاكِينِ الْوَادِيَّاتِ الْحَادَّاتِ الصَّارِمَاتِ الْجُنْدَلِيَّاتِ بِسُورَتِهِمْ

ان چھریوں کو جو ہلکے، تیز اور کاٹنے والی ہیں اور غالب ہیں ان (اعلاء) کی تلواروں پر پس

فَاعْدَاؤِي مَالُوْا وَاوْبِرْمَا حِهِمْ وَاَحْجَارِهِمْ نُرْجِرُوْا وَاَرْجَعُوْا حَاثِيِيْنَ

میرے اعداء میدان سے ہٹ گئے اور بیچ اپنے نیزوں اور پتھروں کے ہانکے گئے اور لوٹے نامراد ہو کر

فَرَّقَ اللهُ جَمْعَهُمْ بِأَتْنِهِمْ صَمٌّ بِكُمْ عَمِي فَمَنْ لَا يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا

اللہ نے ان کی جمعیت کو پراگندہ کیا بسبب اس کے کہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ در راہ راست کی طرف

يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ وَلَا يَنْطِقُونَ إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ يُصِتُّونَ

نہیں لوٹتے پس وہ نہ کلام کریں اور نہ بولیں مگر ساتھ بھلائی کے یا خاموش رہیں

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پس جب دیکھا ان عورتوں نے انہیں تو ان کو بہت بڑا جانا اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ سُوْسِمَ سُوْسِمَ

پکارا اٹھیں۔ خدا کی قسم یہ تو بشر ہیں ہی نہیں۔ یہ تو صرف اور صرف بزرگ فرشتے ہیں بطفیل سو سم سو سم

دُوْسِمَ حُوْسِمَ بَرَّاسِمَ كَاهٍ بَرَّكَاهٍ إِهْيَا شَرَاهِيَا ذُونَايَ أَصْبَاءُ وَت

دو سم۔ حوسم۔ براسم۔ کاہ۔ برکاہ۔ اہیا۔ شراہیا۔ آفونای۔ اصباوت

أَلْ شَدَّايَ تَوَكَّلْ يَا عُنُقُودُ وَيَنْفُودُ الْبَلِكُ وَيَا عَبْدَ النَّارِ بَعْدُ

آل شدای وکالت قبول کرے عنقود اور نفوذ بادشاہ اور لے بندۂ آتش تمام

أَلْسِنَةُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ بِسْمِ اللَّهِ الْجَمْتُ أَعْدَائِي وَبَعْضًا

لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی۔ اللہ کے نام سے میں نے لگام دیدی اپنے اعداء کو اور حصائے

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبْتُهُمْ وَبِأَلْفِ أَلْفٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو مارا۔ اور ساتھ دس لاکھ قتل ہو اللہ احد کے

أَصَاتِهِمْ وَأَبْكَمْتَهُمْ لَا يَجُورُونَ عَلَيَّ وَلَوْ كَانُوا مِثْلَ الْجِبَالِ وَ

انہیں بہرہ اور گونگا بنایا نہ جو دوستم کر سکیں مجھ پر اگرچہ ہوں پہاڑوں کی مانند اور

دَكَّتَهُمْ كَمَا دَكَّتِ الْأَرْضُ تَحْتَ الْأَقْدَامِ هُمُ النَّاقَةُ وَأَنَا

میں نے ان کو کچل ڈالا جیسے کچلی گئی زمین نیچے قدموں کے وہ (اعلام) اونٹنی کی مانند ہیں اور میں

الْأَسَدُ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ

شیر۔ البتہ آسمان و زمین کی تخلیق بہت بڑی ہے انسان کی تخلیق سے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالِ الْغَيْبِ يَا رُوحَ

اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سلام ہو تم پر اے رجال غیب۔ اے مقدس

الْمُقَدَّسَةِ أَعْيُنِي بِغَيْثُوتِي وَأَنْظُرُونِي بِنَظْرَةِ يَا رُقَبَاءِ يَا نِقَبَاءِ

روح، میری فریاد رسی کرو خاص مدد کے ساتھ اور مجھے مخصوص نظر سے مشرف کرو اے رقبا اے نقبا۔

يَا نَجَبَاءِ يَا أَيْدَالَ يَا أَوْتَادَ يَا غُوثَ يَا قُطْبَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَعْيُنِي

اے نجبا۔ اے ابدال۔ اے اوتاد۔ اے غوث۔ اے قطب۔ اللہ تم پر رحمت کرے میری مدد کرو

فِي هَذِهِ الْأُمُورِ سَلِّمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ

ان امور میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے دنیا و آخرت میں بطفیل حق محمد کے اور

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِحَقِّ يَا اللَّهُ صَدِيقِي مِنْ عِنْدِكَ

آپ کے تمام آل و اصحاب کے، بطفیل حق (ان کلمات کے) اے اللہ اے میرے بے نیاز تیری طرف سے ہی ہے

مَدَدِي وَعَلَيْكَ مُعْتَمِدِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امداد میری اور تجھی پر ہے بھروسہ میرا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بَلَّغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ

آپ کی آل پر جو محبوب کر پہنچے بلند یوں تک اپنے کمال کی بدولت اور زور کیا

الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَ

تاریکیوں کو اپنے جمال سے۔ سراپا حسن بن گئیں ان کی تمام خصلتیں۔ درود بھیجو ان پر اور ان کے تمام آل و

أَصْنَتَهُمْ وَأَبْكَمْتَهُمْ لَا يَجُورُونَ عَلَيَّ وَلَوْ كَانُوا مِثْلَ الْجِبَالِ وَ

انہیں بہرہ اور گونگا بنایا نہ جو دوستم کر سکیں مجھ پر اگرچہ ہوں پہاڑوں کی مانند اور

ذَكَكَّتَهُمْ كَمَا ذَكَتِ الْأَرْضُ تَحْتَ الْأَقْدَامِ هُمْ الثَّاقِفَةُ وَأَنَا

میں تے ان کو کچل ڈالا جیسے کچل گئی زمین نیچے قدموں کے وہ (اعلام) اونٹنی کی مانند ہیں اور میں

الْأَسَدُ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ

شیر۔ البتہ آسمان و زمین کی تخلیق بہت بڑی ہے انسان کی تخلیق سے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ يَا رُوحَ

اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سلام ہو تم پر اے رجال غیب۔ اے مقدس

الْمُقَدَّسَةِ أَعْيُنِي بِغَيْثُوتِي وَأَنْظُرُونِي بِنَظْرَةِ يَا رُقَبَاءِ يَا نِقَبَاءِ

روح، میری فریاد رسی کرو خاص مدد کے ساتھ اور مجھے مخصوص نظر سے مشرف کرو اے رقباء اے نقباء۔

يَا نَجَبَاءِ يَا أَيْدَالَ يَا أَوْتَادَ يَا غُوثَ يَا قُطْبَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَعْيُنِي

اے نجباء۔ اے ابدال۔ اے اوتاد۔ اے غوث۔ اے قطب۔ اللہ تم پر رحمت کرے میری مدد کرو

فِي هَذِهِ الْأُمُورِ سَلِّمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ

ان امور میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے دنیا و آخرت میں بطفیل حق محمد کے اور

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِحَقِّ يَا اللَّهُ صَبَدِي مِنْ عِنْدِكَ

آپ کے تمام آل و اصحاب کے، بطفیل حق (ان کلمات کے) اے اللہ اے میرے بے نیاز تیری طرف سے ہی ہے

مَدَدِي وَعَلَيْكَ مُعْتَمِدِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امداد میری اور تجھی پر ہے بھروسہ میرا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بَلَّغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ

آپ کی آل پر جو محبوب کر پیچھے بلند یوں تک اپنے کمال کی بدولت اور زور کیا

الدُّجَى بِجِهَالِهِ حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَ

تاریکیوں کو اپنے جمال سے۔ سراپا حسن بن گئیں ان کی تمام خصلتیں۔ درود بھیجو ان پر اور ان کے تمام آل و

صَحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ

صحابہ پر سب انبیاء و مرسلین کے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

وَأَدْرِ كُنِّي بِحَقِّ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

اور میری ہر طرف سے حفاظت فرما بظہیر اپنے لطف کے جو ہمارے حال زار کی بہت خبر رکھنے والا ہے اور مخفی بھی

أَكْبَرُ بِحَقِّ إِيَّاكَ تَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا أَبَا الْغَيْثِ

ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر بظہیر ایسا کہ نعبود و ایسا کہ نستعین کے، اے ابو الغیث میری فریاد کو پہنچ

يَا أَبَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَيَا خَالِقَ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ أَحْسَنَ

اے ابو الحسن و ابو الحسین اور اے خالق حسن کے اور حسینوں کے مجھے عطا فرما اپنے کامل حسن کے طفیل

لِي فِي حُسْنِ حُسْنِكَ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ حُسْنًا مُبْلَغًا كَمَا

میں تو بہترین خالق ایسا حسن جو تمام اور کامل و

مَكْتَبًا يَقْرَنُ الْمَلَاحَةَ حُسْنَهُ وَالْحُسْنَ صَارَ قَرِينَةً وَمَصَادِقَ

میں ہو قرین ہو جاذبیت و کشش اس حسن کے اور حسن اس کا قرین ہو اور شکار کیا ہے

الْقُلُوبَ جَمَالَهُ وَشَاءَ الْأَفَاقَ جَلَالَهُ وَالْبَدْرَ نُورَهُ إِذْ

دلوں کو محبوب کریم کے جمال نے اور عام ہے آفاق میں جلال ان کا۔ اور چودھویں کا چاند ان کا نور ہے جبکہ

اُسْتَبَانَ ظُهُورَهُ وَمَرْبُوعٌ قَدِّ كَانَتْهُ وَاللَّهُ عَظَمَ شَانَهُ لَكِنَّ

بے حجاب ہو ظہور اس کا اور درمیانہ قد ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی شان کو۔ لیکن

يُطَاوِلُ جَارَهُ وَهُوَ الْبُفَيْضُ بِحَارَهُ إِذْ مَا يُمَاشِيهِ أَحَدٌ

بند و بالا معلوم ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں پر۔ اور وہ جاری کرنے والے ہیں اپنے وجود نوال کے ہمندروں کو نہیں ان کے ساتھ چلتا

يُعْلِيهِ الصَّبَدُ وَالْعُظْمُ كَانَ لِهَامَتَهُ وَالْحُسْنُ كَانَ لِهَامَتِهِ

شخص (مگر) بند کرتا ہے آپ کو (اس پر) اللہ بے نیاز اور بڑائی عامل حتیٰ آپ کے سرناز کو۔ اور حسن دلربائی آپ کے سراپا کو

كَاللَّيْلِ سُوْدُ شَعْرَةٍ وَفَاضَ الْعَجَائِبُ بِحَرَّةِ شَعْرَةٍ

مانند شب تار کے سیاہ تھے بال آپ کے اور ہماری کیا عجائبات کو ان کے بحر جود سے تھے۔ بال محبوب کریم کے گنے

رَجُلًا مَلِيحًا فِي الْوَرَى شَعْرٌ مَشِيظٌ لَا قَطْطٌ سُوْدٌ وَوَدٌّ لَا سَبْطٌ قَدْ

درمیانے گھنٹھریاے پرکشش مخلوق کے لیے۔ ایسے بال جو کٹھی کئے جا سکتے تھے نہ سخت جنگھ مو۔ سیاہ دربانہ بالکل سیدھے

كَانَ اَبْيَضٌ مُشْرِبًا وَلِعَاشِقِيْهِ مُطْرِبًا بِالْوَسْعِ كَانَ جَبِيْنُهُ فِي

پ سفید سُرخنی مائل تھے اور اپنے مشتاق کے لیے بہت طرب انگیز تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی

لِعِشْقِ كَانَ جَبِيْنُهُ تَعْلُوهُ نُورًا بِالْيَقِيْنِ يَسْبِي قُلُوْبَ

منبع عشق تھی آپ کی پیشانی مبارک جس پر غالب تھا نور آپ کا۔ آپ یقیناً قید کرتے تھے

لِعَاشِقِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَعَلَى حَبِيْبِهِ وَعَلَى حَبِ

عاشقوں کے دلوں کو۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ پر اور آپکی آل پر اور آپ کے

جَبِيْبِهِ وَاَحْبَابِهِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نَظْرًا رَّحِيْمَةً رَّحْمَةً بِحُرْمَةِ

محبوبوں پر اور ان کے احباب اور احباب پر۔ اے اللہ مجھے عطا فرما ایسی نظر جو سراسر رحمت ہو بطفیل حرمت

يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا كَلِيْمَ اللهِ يَا اَسَدَ اللهِ يَا سَهْمَ اللهِ يَا عِلْمَ اللهِ

ان کلمات کے، اے رسول خدا۔ اے کلیم خدا۔ اے شیر خدا۔ اے تیر خدا۔ اے علم خداوند تعالیٰ

الْحَاضِرُ وَالنَّائِظُ اللهُ نَظْرَةٌ مِّنْكَ تَكْفِيْنَا وَقَطْرَةٌ مِّنْ شَرَابِكَ

اے حاضر و ناظر واسطہ اللہ کا تمہاری ایک نگاہ میں کافی ہے۔ اور ایک قطرہ تمہارے شراب عشق کا

تُغْنِيْنَا فِي الْوُصُوْلِ بِاللّٰهِ اَنْتَ وَرَاءَ الْعُقُوْلِ وَاَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ

ہمیں کفایت کرنے والا ہے وصول الی اللہ میں۔ تم عقول کی رسائی سے بالاتر ہو۔ اور امر

لِلّٰهِ يَا شَيْرَ اللهِ يَا نَائِبَ رَسُوْلِ اللهِ وَاَنْتَ الْفَضْلُ وَالْكَرَمُ

خداوندی ہو۔ اے اللہ کے حسین نائب اے رسول اللہ کے نائب۔ اور تم ہی سراپا فضل و کرم اور

وَالْاِحْسَانُ وَالْهُدَايَةُ وَالْاَمْنُ وَالْاَمَانُ مِنْ صَدَمَاتِ قَهْرٍ

احسان و ہدایت ہو۔ اور سراسر امن و امان ہو اللہ تعالیٰ کے قہر کے صدمات و

لِلّٰهِ وَاَنْتَ الْحِفْظُ وَالْحِرَاسَةُ فِي طَرِيْقِ شَرِيْعَةِ اللهِ اَرْشِدُنِيْ

حوادث میں۔ اور تم ہی سراپا حفظ و حفاظت ہو اللہ تعالیٰ کی راہ شریعت میں۔ مجھے اپنی طرف رہنمائی فرما

إِلَيْكَ بِدَلِيلٍ يَدُلُّنِي إِلَيْكَ يَا فَتْحَ اللَّهِ اِرْحَمْنِي بِجَدِّكَ

ساتھ ایسی دلیل کے جو تیری طرف راہ دکھلائے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد مجھ پر احسان فرما ساتھ اپنے جمال کے

بِاللَّهِ وَأَظْلَمَنِي بِظُلَامِكَ اللَّهُ قَبُولًا بِكَ مَا مَوْلَا إِلَيْكَ مَسْئُولًا

اللہ کے لیے۔ اور مجھے اپنے سایہِ عاطفت میں لے لے اللہ کے لیے۔ مقبولیت کا سوال ہے تمہارے صدقے میں تم سے ہی

مِنْكَ قُرْبَ اللَّهِ أَخْرَجَنِي مِنْ ظُلْمَتِ النَّاسِوتِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ

امیدیں ہیں اور تمہیں سے سوال ہے قرب خداوندی کا۔ مجھے جہاں ظلمتوں سے نکالو طرف اللہ تعالیٰ کے راہ

شَرِيعَةِ اللَّهِ وَأَكْسِنِي خَلْعَاتِ الْمَلَكُوتِيَّةِ بِنُورِ طَرِيقِ

شریعت کے اور مجھے ملکتی خلعتیں پہناؤ اللہ کے نورِ طریقت کے ساتھ

اللَّهُ وَأَحْيِنِي بِالتَّجَلِّيَّاتِ الْجَبْرُوتِيَّةِ عَلَى طَرِيقَةِ اللَّهِ وَأَجْعَلْنِي

اور مجھے زندہ فرماؤ جبروتی تجلیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر اور مجھے

فَارِعًا عَمَّا سِوَى اللَّهِ فَإِنِّي عَنِ الْإِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ فِي حَقِيقَةِ

فارغ کر دے تمام ماسوی اللہ سے اور فانی کر دے تمام ارادوں اور نجاہوں سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت

اللَّهُ فِي اللَّهِ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْخًا لِلَّهِ طُجَّتْ بِأَفْلَاسِ عَلَى

میں (متفرق کر کے) اسی کے طفیل۔ اے شیخ عبدالقادر جیلانی کچھ عطا کر دو اللہ تعالیٰ کے طفیل میں مفلسی کے ساتھ آپ کے

بِإِيكَ بِقَلْبٍ مُسْتَهَامٍ أَعْطِنِي شَيْئًا لَوْجِهَ اللَّهِ يَا شَيْخَ الْأَنْكَامِ

در پر حاضر ہوں محبت میں دیوانے دل کے ساتھ۔ مجھے عطا کریں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے طفیل اے تمام مخلوق کے سردار

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ عَنَّا رِضَاءً تَامًا وَأَسْتَرْضَاكَ

اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کو ہم سے راضی کرے کامل و اکمل رضامندی کے ساتھ

عَامًّا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

نہیں کوئی مہبود برحق مگر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات اور تسلیات ہیں

عَلَيْكَ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ

آپ پر۔ فریاد ہے۔ فریاد ہے۔ آہ و فریاد ہے۔ عشق سے اور اس کے حالات سے

قَلْبِي بِحَرَارَاتِهِ مَا نَظَرَ الْعَيْنُ إِلَى غَيْرِكُمْ أَقْسَمُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ

دل میرا جلتا ہے حرارت عشق سے۔ میری آنکھ نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تمہارے غیر کی طرف میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آیات کی۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر

وَعَلَى غُوثِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الصُّلِحِينَ الْمُصْلِحِينَ

اور مؤمنین و مسلمانین صالحین و مصلحین

الصَّادِقِينَ الْمُصَدِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ارباب صدق و تصدیق کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْمَجَاهِدِينَ الشَّاهِدِينَ

اور آپ کی آل پر اور مجاہدین، ارباب شہادت و شہود

الشُّهُودِ مِنَ الْمَسْعُودِينَ الْمَرَابِطِينَ الْمُنَجِّينَ الْمَفْلِحِينَ

اور ارباب سعادت۔ سرحدات کے نگہبانوں نجات دہندگان اور ارباب فلاح

الْمُجْتَبِينَ النَّائِبِينَ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

و اجتباء اور نائبین (رسول) اور خوف خدا رکھنے والوں کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْقَائِمِينَ الرَّكْعِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر غوث ان لوگوں کے جو قیام و رکوع کرنے والے

السَّاجِدِينَ الْقَاعِدِينَ الْقَائِمِينَ الصَّابِرِينَ الزَّاهِدِينَ

ہیں اور سجد و قعدہ کرنے والے ہیں جو ارباب فوز و فلاح ہیں اور جو اصحاب صبر و زہد

الْمُوقِنِينَ الْمُنَاجِحِينَ الْقَائِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور یقین ہیں جو مناجات اور قناعت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْجَائِعِينَ الْخَاشِعِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر ان لوگوں کے غوث کے جو خالی پیٹ ہیں اور سراپا خستوع ہیں

الْبَائِكِينَ الْعَاطِفِينَ الْحَافِظِينَ الْمُبَارِكِينَ النَّاصِرِينَ الْمَنْصُورِينَ

اور اصحاب اشک رواں۔ مهربان و محافظ ہیں اور بابرکت۔ مددگار ہیں اور منصور۔

الظَّافِرِينَ الْمُظْفِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ارباب ظفر ہیں اور ظفر یافتگان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الشُّفُقَيْنِ الْمَرْتُوقَيْنِ الْجَوَادِينَ الْمَكَالِدِينَ

آل پر اور ان کے غوث و فریادرس پر جو ڈرنے والے ہیں۔ رزق دیئے ہوئے ہیں۔ اصحاب جو دو عطا ہیں

النَّادِمِينَ الْأَوْلِيْنَ الْأَخْرِيْنَ الصَّائِمِينَ التَّوَابِينَ الْمُنِيبِينَ اللَّهُمَّ

پشیمان ہیں (اپنے اعمال پر) اولین و آخرین روزہ داروں اور توبہ و انابت والوں کے غوث پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور اؤپر غوث

الْمُؤَافِقِينَ الْعَابِدِينَ الْمَسَاكِينَ الْفَاعِزِينَ الْمُطِيعِينَ الْعَالَمِينَ

موافقین و عابدین کے، مساکین اور کامیاب لوگوں کے۔ اطاعت گزاروں۔ ارباب علم

الْعَامِلِينَ الْوَارِثِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و عمل کے اور وارثان (انبیاء) اہل عقل معلمین کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْمُسْتَضَرِّينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور غوثِ مستضرین پر

الْقَاضِلِينَ الرَّاشِدِينَ الْمُرْشِدِينَ الْمَسْتُرْشِدِينَ الطَّالِبِينَ الْمُطْلُوقِينَ

جو ارباب فضل و رشد ہیں صاحب ارشاد بھی اور طالبان رشد بھی۔ طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی

الْمُرِيدِينَ الذَّاكِرِينَ الْمَذْكُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرید بھی اور ذاکر و مذکور بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْمَسِيحِينَ الْمُرْتَدِّينَ

اور آپ کی آل پر اور ارباب تسبیح و تہلیل کے غوث پر تیری پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنے والوں

السَّاجِدِينَ الْمُوَحَّدِينَ الْحَامِدِينَ الْمَحْمُودِينَ الْوَاهِبِينَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ الْأَوَابِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تیری توحید و ستائش کرنے والوں حامدین اور محمودین کے غوث پر۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کے ہمہ کرنے والوں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْوَاصِلِينَ الْمُحِبِّينَ الْمَحْبُوبِينَ الْبُودُودِينَ الْمَقْبُولِينَ

اور اُوپر غوثِ واصلین کے، محبین اور محبوبین کے اور محبوبین و مقبولین کے غوث پر

الْمُسْتَأَقِينَ الْعَاشِقِينَ الْمَعْشُوقِينَ الْعَارِفِينَ الْمَعْرُوفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ارباب شوق۔ عاشقوں و معشوقوں۔ اہل عرفان اور (کوئین میں) جاننے پہچاننے حضرات کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ السَّائِلِينَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر غوثِ سوائیوں کے

الْمُعَاهِدِينَ الْكَامِلِينَ الْمُكْتَلِبِينَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُدَقِّقِينَ الْمُهَيِّدِينَ

جو عہد کرنے والے ہیں اور کامل و اکل، محقق و مدقق ہیں۔ آسانی پیدا کرنے والے

الرَّاضِينَ الْمَرْضِيَّينَ النَّاصِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور راضی ہونے والے اور چنے ہوئے اور غلصہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْأَمْرِينَ النََّاهِيْنَ الْوَافِينَ الْمُؤْتَمِرِينَ

آپ کی آل پر اور اُوپر غوثِ امر و نہی کرنے والوں کے اور ارباب وفا و ایفاء کے لوگوں کے بیٹے

الْمُسْتَوْجِبِينَ الْمُتَضَرِّعِينَ الصِّدِّيقِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْأَقْرَبِينَ الْأَنْجَبِينَ

جائے سوال اشخاص کے زاری کرنے والے۔ صدیقین، مقربان بارگاہ اور قریب ترین و نجیب ترین حضرات کے غوث پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ہمارے غوث پر

فِي الْأَكْرَمِينَ الْمَكْرَمِينَ الْأَجْمَعِينَ الْأَشْرَفِينَ الْمُحَلِّقِينَ الْمُقْصِرِينَ

علمہ ارباب شرف و تکریم میں اہل مجد و شرف میں۔ ارباب حلق و قصر میں

الْحِجَارِيِّينَ الْعَبَّارِينَ السَّابِقِينَ الْمَسْبُوقِينَ الْأُولِينَ الْآخِرِينَ الْعَامِلِينَ

حجاز مقدس والوں۔ عمرہ کرنے والوں۔ سبقت لے جانے والوں۔ سبقت دے جانے والوں میں۔ جملہ عاشقوں

الْمَعْتَرِقِينَ الْمُحِبِّينَ الْمُحِبُّوبِينَ الْوَاصِلِينَ الْمُؤَصِّلِينَ الْبَشَّارِينَ

اور معشوقوں میں۔ تمام مجبین اور محبوبین میں۔ ارباب وصل و ایصال مشائخ میں

الْعَالَمِينَ الْعَامِلِينَ الْوَاهِبِينَ الْفَائِزِينَ الْبَاقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ارباب علم و عمل میں۔ اہل عطا و بخشش میں۔ فناء فی الترقیقاہ باللہ کے مرتبہ والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِنَا فِي أَعْلَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ہمارے غوث پر اعلیٰ

عَلِيِّينَ وَآلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

علیین میں اور یوم قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْرَارِ وَالْأَبْدَالِ الْأَوْلِيَاءِ

آپ کی آل پر۔ اور اولیاء و ابرار۔ ابدال و اولاد کے غوث پر

الْأَخْيَارِ النَّقَبَاءِ النَّجَبَاءِ الْأَعْمَادِ الْأَقْطَابِ الْأَزْهَادِ وَهُوَ غُوثُنَا الْغُوثُ

اخیار۔ نقباء۔ نجباء۔ اعماد۔ اقطاب۔ اور زاہدوں کے غوث پر۔ وہ ہمارے غوث ہیں

الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ وَغُوثِ الثَّقَلَيْنِ وَشَيْخِ الْكُونَيْنِ سَيِّدِنَا شَاهِ السُّيُودِ

حسنی و حسین غوث ہیں اور جن و انس کے غوث۔ دونوں جہان کے غوث ہیں سیدنا شاہ سید

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عَنَّا

محمد بن عبد القادر الجیلانی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں ہم سے راضی کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْقُطْبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر۔ اور قطب

الرَّبَّانِيِّ وَالْغُوثِ الصِّدِّيقِ وَالْمُحِبِّ السُّبْحَانِيِّ وَالْقُطْبِ الْعَصْمِيِّ وَالْحَرَمِيِّ

ربانی۔ غوث صدیقی۔ محبوب سبحانی۔ قطب عصمی۔ حرمی۔ غوث سبحانی

السُّبْحَانِي وَالْعَاشِقِ الْكِنَانِي وَالْمَعْشُوقِ الْمَنَانِي وَالشَّيْخِ السُّلْطَانِي وَالْوَلِيِّ

پر۔ اللہ مہربان کے عاشق اور اللہ محسن کے معشوق پر شیخ سلطان اور صاحب

الْبِرّهَانِي وَالْمُحِبِّ الرَّحْمَانِي وَالْمَقْصُودِ السُّلْطَانِي نَشِيخِ الْمَلِكِ وَالْجِنِّ وَ

برہان ولی پر رحمانی محب پر۔ سلطان مقصود پر۔ ملائکہ اور جن و

الْإِنْسِ غَوْثِ الْأَعْظَمِ قُطْبِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ شَاهِ الْوَلَايَةِ سُلْطَانِ

انس کے شیخ پر۔ غوث اعظم اور مشرق و مغرب کے قطب پر۔ شاہ ولایت۔ سلطان

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ شَاهِ شَاهَانِ الْبَازِ الْأَشْهَبِ فِي الْعُلْيَا شَيْخِ الثَّقَلَيْنِ كَرِيمِ

عرب و عجم پر۔ بادشاہوں کے بادشاہ۔ بلندلیوں پر فائز سفید باز۔ جن و انس کے شیخ۔ بزرگ

الطَّرْفَيْنِ شَيْخِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَضْرَةَ الْفَقِيرِ الْمَخْدُومِ وَالْغَرِيبِ

نخعیال و درھیال والے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں شیخ اور بزرگ۔ حضرت و فقیر۔ مخدوم و غریب

مَوْلَانَا وَغَوْثِ السَّيِّدِ شَاهِ مِيرَانَ مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدِ السُّلْطَانِ السَّيِّدِ

ہمارے ناصر و فریادرس سیدنا شاہ میراں محی الدین ابو محمد سلطان سید

شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي صَلَوَاتُ زَاكِيَةٍ عِنْدَ اللَّهِ رَافِعَةٌ كَفَى بِهِ عِبَادَتَهُ

شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایسی صلوات جو پاکیزہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بلند کرنے والی ہو ان کے درجات کو کافی ہے یہ

وَتَوْحِيدَكَ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

ان کی عبادت اور توحید اور رحمت نازل فرمائے میرے پروردگار تمام انبیاء و مرسلین پر اور مقرب ملائکہ پر

الْمُقَرَّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ

اور شہداء و صدیقین و صالحین پر۔ اور اپنے تمام بندوں پر

الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

جو مومن و مسلم ہیں مرد ہیں خواہ عورتیں بطفیل اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُكْرِمَنِي بِرُؤْيَا النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل اس صلوات کے کہ تو مجھے عزت بخشے ساتھ دیدار اپنے نبی محمد

خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَنُورِ نَبِيِّ بَابِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ فِي الْكَوْنِ

آخر الزمان پیغمبر کے اور مجھے نورانیت عطا فرمائے ساتھ (دیدار) ابو محمد عبدالقادر جیلانی کے خواب میں اور

أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

میرے لیے مغفرت و رحمت فرمائے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور

الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتُوصِلَنِي إِلَى مُرَادِي وَأَتَمِّمَ

عورتوں کے لیے زندہ ہیں یا فوت شدہ اور مجھے میری مراد تک پہنچائے اور پورا کرے

نَيْتِي وَأَخْتِمَ لِي بِخَيْرٍ وَقِنِي شَرَّ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنِي مِنْ نَوْمَةِ الغَفْلِينَ

میری نیت و ارادہ کو میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اور بچائے مجھے ظالموں کے شر سے اور نجات دلائے غافلوں والی نیند سے

وَيُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَجَنَانَكَ وَتَقْضِيَ حَاجَتِي

اور پناہ دے اپنے عذاب سے اور واجب کرے میرے لیے اپنی رضا و خوشنودی اور جنتیں اور پورا کرے میری حاجت

بِكْرَمِكَ وَتَرْفَعْ دَرَجَتِي بِفَضْلِكَ وَتَمْحُ عَنِّي سَيِّئَاتِي بِعَفْوِكَ وَتُوفِّقَنِي

کو اپنے کرم سے اور بلند کرے میرے درجے اپنے فضل سے اور محو کرے مجھ سے میرے گناہ اپنی عفو سے اور وفات دے مجھے

مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اسلام پر اور لائق فرمائے مجھے صالحین کے ساتھ آمین یا رب العالمین - اے اللہ رحمت و سلامتی نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الطَّيِّبَةِ وَالْعِزِّ وَالْعِزَّةِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو طیبہ والے ہیں اور عزت و جاہ والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعَطَايِكِ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو عطاؤں والے ہیں اور

الْفَتْوَى وَالْفَضْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کشاہدگیوں اور فضل و شرف کے مالک ہیں۔ اے اللہ رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ ذِي الْقَضِيْبِ وَالْقُوَّةِ وَالْمَكَانَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ صاحب عصا اور مالک قوت و عظمت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَدِينَةِ وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْبَيْسِمِ اللَّهُمَّ

پر اور آپ کی آل پر جو مدینہ والے ہیں اور مالک ہیں معجزات کے اور علامات امتیاز کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ صاحب مقام

الْبَحْرُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمود ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

ذِي الْوَسِيلَةِ وَالْهَرَاوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جو کہ مقام وسیلہ کے مالک ہیں اور عصا کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاجِي الرَّاضِي الرَّاضِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد کی آل پر جو کہ صاحب رجا و رضا ہیں اور متواضع۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاعِبِ الرَّافِعِ الرَّحِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ راغب الی اللہ ہیں اور بلندی بخشنے والے اور کشادہ دل۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَافِعِ الرَّتَبِ وَرَاكِبِ الْبَرَقِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ مراتب کے بلند کرنے والے ہیں اور براق کے سوار۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَاكِبِ الْبُعْبُرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر (جو محبوب کہ ازراہ تواضع) سواری کرنے والے ہیں اونٹ

وَالْجَمَلِ وَالثَّاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

یعنی تر اور مادہ پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الرَّجُلِ الرَّجِيحِ الرَّفِيعِ الرَّاعِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو وزنی اور باوقار جوان ہیں، بلند مرتبت اور اللہ کے حضور خضوع کرنے والے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ الْأُمَّةِ وَالرَّحْمَةِ الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَةِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سراپا رحمت ہیں اور امت کے لیے رحمت اور سب جہانوں کیلئے رحمت ہیں اور اللہ کی طرف سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہدیہ رحمت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

الرَّحِيمِ الرَّسُولِ الرَّشِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رحیم ہیں اور صاحب رشد رسول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ راحت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الرَّاحِمِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَلَأَحْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کے پیامبر ہیں اور رحمت کے ساتھ بھیجے ہوئے اور (مکرمین و معاندین کے خلاف) جنگوں کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّضِيِّ الرَّفِيقِ الرَّقِيبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پسندیدہ نرم خو۔ نگہبان اُمت۔ اور صاحب

الرَّءُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَفِيعِ

رأفت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ بلند ذکروا لے

الذِّكْرِ وَرَفِيعِ الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور عالی درجات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكْنِ الْمَتَوَاضِعِينَ وَالرَّهَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب کہ سہارا ہیں اہل تواضع اور ارباب خشیت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ وَرُوحِ الْقُدُّسِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ عین روح اور روح مقدس اور

الْحَقِّ وَالْقِسْطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حق و صداقت اور عدل و انصاف کی روح ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ زَعِيْمِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور قائد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاجِحِ الرَّاهِدِ الرَّاهِي الرَّكِي الرَّمِزِي الرَّسِي

کی آل پر جو آقا کہ گناہوں سے روکنے والے، دینیوی آسائشوں کے تارک اور روشن و جلیل، پاکیزہ اور صاحب زمزم

الرَّكْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیب خلعتی اور سب سے قریب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

تَرَيْنَ مَنْ وَالَاهُ فِي الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو سراپا زینت ہیں اپنے محبوبوں کے لیے قیامت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ السَّابِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر جو کہ کریم و فیاض۔ سب سے سبقت لے جانے والے اور دوسروں کو (مقاصد کی طرف) اچلانے والے ہیں۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ بِالْخَيْرَاتِ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ خیرات میں سبقت لے جانے والے ہیں (سب سے) اور

سَابِقِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بالخصوص عربوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ السَّاجِدِ السَّخِيَّ السَّيِّدِ السَّرِيعِ السَّنْدِ السَّهِيِّ السَّبِيحِ اللَّهُمَّ

کہ ساجد و سخی ہیں۔ پختہ کار اور جلدی کرنے والے ہیں (امور خیر میں) سردار ہیں اور سند و سہارا۔ بلند مرتبت سبب کی سننے والے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ خَلِيْطِيسٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سر خلیطیس ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّرَاجِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سراج ہیں

وَالسَّرَاجِ الْمُنِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور روشن چراغ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَنَدِ

کہ (ہدایت خود) صراط مستقیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سہارا

الْخَلْقِ وَسَعْدِ الْخَلْقِ وَسَعْدِ الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں مخلوق کے اور ساری مخلوق سے نیک بخت ہیں اور سب مخلوقات کیلئے موجب سعادت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّلَامِ السُّلْطَانِ السَّلَامِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ صاحب سعادت اور صاحب سلامت ہیں اور شاہ والا جاہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّافِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جو بے شک و تردید سے اے ہیں جسمانی و روحانی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ الْأَسْقَامَ وَالضُّكْرَ

اللہ سے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو بیماریاں اور ضعف و ناتوانی پیدا کرے اور

يُوجِبُ النَّقْمَ وَالْبَلَاءَ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْرَةً وَنَدَامَةً وَلِكُلِّ

انتقامی کارروائیوں اور آزمائشوں میں گھرنے کا موجب ہو۔ اور قیامت کے دن (موجب) حسرت و ندامت ہو۔ اور ہر اس

ذَنْبٍ يُعْقِبُ الْحُسْرَةَ وَيُورِثُ النَّدَامَةَ وَيُحْبِسُ الرِّزْقَ وَيُرْدِي الدُّعَاءَ

گناہ کی جو انجام کار حسرت لائے اور ندامت کا باعث بنے اور رزق کو روکے اور دعاء کو قبولیت سے روکے

وَلِكُلِّ ذَنْبٍ مَدَّ حُنَّةَ بِلْسَانِي وَأَضْرَبْتَهُ بِجَنَانِي أَوْ هَشَّتْ إِلَيْهِ نَفْسِي

اور ہر اس گناہ کی جس کی میں نے تعریف کی اپنی زبان سے یا چھپایا اس کو دل میں یا خوش ہو اطراف اس کے میرا نفس

وَأَثَبْتُهُ بِلِسَانِي أَوْ آتَيْتُهُ بِفَعَالِي أَوْ كَتَبْتُهُ بِيَدِي أَوْ ارْتَكَبْتُهُ بِشَدَائِي

یا میں نے ثابت کیا اسے اپنی زبان سے یا اس کا عملی طور پر ارتکاب کیا یا اسے اپنے ہاتھ سے لکھا یا اس کا مرتکب ہوا اپنی قوت سے

أَوْ أَمْرِكَيْتُ فِيهِ عِبَادَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ فِي لَيْلِي وَنَهَارِي

اور (استغفار کرتا ہوں) ہر ایسے امر سے کہ میں نے گرایا اس میں تیرے بندوں کو۔ اور ہر اس گناہ سے جو میں نے تنہائی میں کیا اپنے شب و روز

وَأَرَحَيْتُ عَلَىٰ الْأَسْتَارِ حَيْثُ لَا يَرَانِي أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ يَا جَبَّارُ يَا قَابِضُ

میں اور میں نے ٹکائے اپنے اوپر پردے جہاں سے مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا سوائے تیرے اے جبار پس متروک ہوا

نَفْسِي فِيهِ وَتَحَيَّرْتُ بَيْنَ تَرْكِهِ لَهُ بِخَوْفِكَ وَأَنْتَهَاكِي لَكَ بِحُسْنِ

میرا نفس اس میں اور حیرت زدہ ہوا درمیان ترک کرنے اس کے بسبب تیرے خوف کے اور بسبب کمزور کرنے میرے اس کو بوجہ حسن

لِظَنِّ فَيْكَ فَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ وَأَنَا عَارِفٌ بِسُوءِ نِيَّتِي وَأَنَّ

میں نے تیرے حق میں پس مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے اس کے اقدام کو جبکہ میں جانتے والا ہوں اپنی معصیت کو تیرے حق میں اس گناہ کی وجہ سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّفِ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مراد سبقت (حق) ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّارِعِ الشَّافِعِ الشَّاكِرِ

صلوٰۃ و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ شریعت کے بانی۔ صاحب شفاعت۔ شکر گزار۔

الشَّاهِدِ الشَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امت کے گواہ اور پر گوشت اور ملائم جسم والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

الشَّدِيدِ الشَّدْقِ الشَّرِيفِ الشِّفَاءِ الشَّفِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ شدید ہیں (نفاذ شریعت میں) اور شیر دل۔ صاحب شرف، سراپا شفاء اور شفیق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت جزا دینے والے بہت شکر گزار۔ بہت مشہور۔ شمس انوار۔ چمکتے ستارے

الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بیدار دل۔ گواہ اور بہت بڑے شاہد ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّابِرِ الصَّادِقِ الصَّالِحِ الصَّدِّقِ الصَّدِّقِ الصَّدِّقِ

آل پر جو محبوب کہ صابر۔ صادق۔ صالح۔ سراپا صداقت۔ بہت سچے اور صدیق ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاعِدِ الْمَعْرَاجِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ شب معراج (نورانی بیڑھی پر اچڑھنے والے میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ الَّذِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ راہ ہدایت میں تیرے

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انعام یافتہ لوگوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صِحِّحِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو صحیح اسلام والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ صراطِ مستقیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّفْوَةِ عَنِ الزَّلَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو کریم کہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں لغزشوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّفْوَةِ الصَّفِيِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بہت درگزر کرنے والے۔ خلاصہ کائنات اور چنے ہوئے

الصُّنْدِيدِ الصَّيِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سردار ہیں اور (عیوب و نقائص سے) بچانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الضَّارِبِ بِالْحُسَامِ الْكَثُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو ضرب لگانے والے ہیں ساتھ کاٹنے والی چوڑی تلوار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الضَّارِعِ الضَّمِيرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ضبط کرنے والے۔ زاری کرنے والے ہیں

الضُّحَاكِ الضُّحُوكِ الْأَضْحَاكِ الضِّيَاءِ الضِّيْعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کفایت کرنے والے بہت ہنسنے والے۔ ضحک فرمانے والے۔ بہت ہنسنے والے۔ سراپا ضیاء اور شیردل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّفِيعِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد شفیع کی آل پر۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَصَدَنِي فِيهِ أَعْدَانِي لِهَيْبَتِكَ

بیشک میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے واسطے ہر اس گناہ کے جس میں میرے اعداؤں نے میری ہتک کا قصد کیا

فَصَرَفْتُ كَيْدَهُمْ عَنِّي وَلَمْ تَعْنَهُمْ عَلَيَّ فَضِيحَتِي حَتَّى كَانَتْ لَكَ

پس تو نے ان کے مکر کو مجھ سے پھیر دیا۔ اور ان کی اداؤں نے فرمائی میری رسوائی پر حتیٰ کہ گویا کہ میں تیرا

وَلِيٌّ وَلَكَ مُطِيعٌ وَنَصْرَتِي عَلَيْهِمْ كَانَتْ لَكَ وَوَلِيٌّ قَالِيٌّ وَوَلِيٌّ بِيَاكِرِي

دوست ہوں۔ اور تیرا اطاعت گزار ہوں۔ اور تو نے میری مدد فرمائی ان کے خلاف حتیٰ کہ گویا میں تیرا محبوب ہوں۔ تو کہاں تک لے میرے پروردگار



أَعَصَى فَتُهْلِنِي وَطَالَ مَا عَصَيْتُكَ فَلَمْ تُؤَاخِذْنِي وَسَأَلْتُكَ

میں نافرمانی کرتا رہوں گا۔ پھر تو مجھے مہلت دیتا رہے گا۔ اور بہت دفعہ میں نے تیری نافرمانی کی مگر تو نے مواخذہ نہ فرمایا اور میں نے تجھ سے سوال

عَلَى سُوءٍ فِعَلِي فَأَعْطَيْتَنِي فَأَيُّ شُكْرٍ يَقُومُ عِنْدَكَ بِنِعْمَةٍ مِّنْ

کیا باوجود اپنی بد اعمالیوں کے پر تو نے عطا کیا پس میرا کونسا شکر قائم مقام ہو سکتا ہے نزدیک تیرے تیری نعمتوں میں سے صرف

تَعْبِكَ عَلَيَّ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ قَدْ مَتُّ إِلَيْكَ تَوْبَتِي مِنْهُ وَوَأَجْهَتُكَ

ایک نعمت کے بدلے میں جو مجھ پر ہیں اور واسطے ہر گناہ کے کہ میں نے پہلے توبہ کی اس سے اور میں نے تیرے روبرو تیری

بِقَسْبِي بِكَ وَالَيْتُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

تسہم کھائی اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسہم کھائی اور

أَشْهَدُ أَنَّ عَلَى نَفْسِي بِذَلِكَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ عِبَادِكَ أَنِّي غَيْرُ

گواہ بنایا میں نے اپنے نفس پر اس لوبہ اور قسم میں تیرے اولیاء کرام کو کہ میں نہیں رجوع کروں گا

عَائِدٍ إِلَى مَعْصِيَتِكَ فَلَمَّا قَصَدَنِي إِلَيْهِ بِكَيْدِ الشَّيْطَانِ وَمَالَ

تیری معصیت کی طرف لیکن جب میرا قصد کیا شیطان نے اپنے مکر کے ساتھ طرف اس گناہ کے اور مائل کیا

بِي إِلَيْهِ الْخُدْلَانُ وَدَعَتْنِي نَفْسِي إِلَى الْعِصْيَانِ اسْتَرْتُ حَيَاءً

مجھے طرف اس کے تیری امداد سے محرومی نے اور دعوت دی مجھے میرے نفس نے عصیان کی طرف تو میں نے پردہ کیا حیا کرتے ہوئے

مِّنْ عِبَادِكَ جُرْأَةً مِّنِّي عَلَيْكَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيكَ مِنْكَ

تیرے بندوں سے جرات کرتے ہوئے تجھ پر حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں روک سکتا مجھے تیرے (علم و احاطہ سے)

سِتْرٍ وَلَا بَابٍ وَلَا يَحْجُبُ نَظْرَكَ عَنِّي حِجَابٌ فَخَالَفْتُكَ فِي الْمَعْصِيَةِ

کوئی پردہ اور نہ کوئی دروازہ اور نہیں روک سکتا تیری نظر کو مجھ سے کوئی حجاب پس میں نے تیری مخالفت کی نافرمانی برداری

إِلَى مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ مَا كَشَفْتَ السِّتْرَ عَنِّي وَسَأَوَيْتَنِي بِأَوْلِيَاءِكَ

کرنے میں طرف اس امر کے جس سے تو نے منع فرمایا تھا پھر بھی تو نے میری پردہ دری نہ فرمائی اور مجھے برابر بٹھرایا اپنے اولیاء کے

حَتَّى كَأَنِّي لَا أَنْزِلُ لَكَ مُطِيعًا وَإِلَى أَمْرِكَ مُسْرِعًا وَمِنْ وَعِيدِكَ

حتیٰ کہ گویا میں ہمیشہ سے تیرا اطاعت گزار رہا۔ اور تیرے احکام کی جلد تعمیل کرنے والا۔ اور تیری وعید سے

فَارْعَا فَلَاسْتُ عَلَى عِبَادِكَ وَلَا يَعْلَمُ سِرِّي غَيْرَكَ وَكَمْ سَكَّرْتَنِي

خوفزدہ رہا۔ پس میں نے اشتباہ میں ڈالا تیرے بندوں کو۔ اور نہیں جانتا میرے باطن کو سوا تیرے اور نہیں موسوم کیا تو نے مجھے

بَغَيْرِ سَيِّئِهِمْ بَلْ أَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِثْلَ نِعْمَتِكُمْ ثُمَّ فَضَلْتَنِي بِذَلِكَ

ان (اطاعت گزاروں) کی علامت امتیاز کے سوا سے۔ بلکہ مجھ پر کامل کیا ان جیسی نعمتوں کو پھر مجھے فضیلت دی ان پر ساتھ ان نعمتوں کے

عَلَيْهِمْ حَتَّى كَأَنِّي عِنْدَكَ فِي دَرَجَتِهِمْ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحُكْمِكَ وَفَضْلِكَ

حتیٰ کہ گویا میں تیرے ہاں ان کے درجات میں ہوں۔ اور یہ سب نہیں مگر تیرے حکم ازلی کی وجہ سے۔ اور تیری

نِعْمَتِكَ فَضْلًا مِّنْكَ عَلَيَّ فَكَانَ الْحَمْدُ يَا مُوَلَّائِي فَاَسْأَلُكَ

مزید نعمت و فضل سے پس تیرے لیے ہی حمد ہے اے میرے مولیٰ پس میں تجھی سے سوال کرتا ہوں

يَا اللَّهُ كَمَا سَتَرْتَهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تُفْضِحَنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اے اللہ کہ جیسے تو نے دنیا میں مجھ پر پردہ پوشی فرمائی ایسے ہی مجھے ان گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِ الطَّهَوْرِ الطَّيِّبِ الطَّرَازِ الْمَعْلَمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ طاہر۔ طہور۔ طیب ہیں اور نفس زینت و زیبائش

وَطَابَ طَابَ وَطَسَّ وَطَسَّمْ وَطَهَّ وَطَهَّ وَالطَّاهِرِ الطَّهَوْرِ الْعَابِدِ

طاب طاب۔ طاب۔ طس۔ طسم۔ طه۔ اور ظاہر۔ بہت ظفر مند۔ عابد

الْعَادِلِ الْعَارِفِ الْعَاضِدِ الْعَافِي الْعَاقِبِ الْعَالِمِ الْعَامِلِ

عادل۔ عارف۔ مددگار۔ عفو و درگزر فرمانے والے۔ آخر میں مبعوث ہونے والے۔ عالم عامل

الْعَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَدْلِ الْعُدَّةِ الْعَرَبِيِّ وَالْعَالِمِ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

واللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے بندے۔ سراپا عدل۔ سراپا تیاری و سازگاری۔ عربی اور حق کا علم رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کا اسم گرامی

عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعِنْدَ أَهْلِ النَّارِ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَعِنْدَ

اہل جنت کے ہاں عبد الکریم ہے اور اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار اور تمام ملائکہ کے ہاں

سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَ

عبد الحمید۔ اہل عرش کے نزدیک عبد الحمید۔ اور انبیاء کرام

عِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعِنْدَ الْجِنِّ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَعِنْدَ الشَّيَاطِينِ

کے نزدیک عبد الوہاب۔ جنوں کے ہاں عبد الرحیم۔ اور شیاطین کے ہاں

عَبْدُ الْقَهَّارِ وَفِي الْجِبَالِ عَبْدُ الْخَالِقِ وَفِي الْبَرِّ عَبْدُ الْقَادِرِ وَفِي الْبَحْرِ

عبد القہار۔ پہاڑوں میں عبد الخالق۔ خشکی میں عبد القادر اور تری میں

عَبْدُ الْمُهَيَّبِ وَعِنْدَ الْحَوْتِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ وَعِنْدَ الْهَوَامِ عَبْدُ

عبد المہیب۔ مچھلیوں کے نزدیک عبد القدوس۔ زہریلے جانوروں کے نزدیک عبد الغیاث

الْغِيَاثِ وَعِنْدَ الْوَحُوشِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعِنْدَ السَّبَائِعِ عَبْدُ السَّلَامِ

جنگلی جانوروں کے نزدیک عبد الرزاق۔ اور درندوں کے نزدیک عبد السلام

وَعِنْدَ الْبِهَائِمِ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ وَعِنْدَ الطُّيُورِ عَبْدُ الْغَفَّارِ اللَّهُمَّ

چار پایوں کے نزدیک عبد المؤمن اور پرندوں کے نزدیک عبد الغفار ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَطُوفِ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت مہربان

الْعَظِيمِ الْعَفِيفِ الْعَلِيمِ الْعَلِيِّ الْعَمَدَةِ الْعِمَادِ

عظیم المرتبت۔ درگزر فرمانے والے پاکدامن۔ علم (ہدایت) ہیں علیم و عالیقدر۔ سہارا اور ستون ہیں

الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَعَيْنُ الْغُرِّ وَالْعِزِّ وَالنِّعَمِ وَالنِّعْمِ اللَّهُمَّ

موجودات کی آنکھ۔ اور نورانی روشن لوگوں کی چشم بینا۔ مجسمہ عز و جاہ مجسمہ انعامات و نعیم۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِيمِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ جو آقا کہ

الإيمان والهدى واليقين والعلامة الغالب الخط

پرچم ہیں ایمان و ہدایت کا اور یقین کا اور بہت زیادہ علم والے اور علیہ پانے والے ہیں ناسید اکنا رمتدر

الغفور الغني الغوث الغياث الغيث يا واحد الباقين اول

بہت بخشنے والے۔ غنی۔ فریاد رس۔ بارانِ رحمت۔ سے یکتا ہمیشہ رہنے والے۔ ہر چیز

كل شيء و آخره اجعلني منفردا في الاستغفار بك و اول من

سے اول اور ہر چیز سے آخر بنا دے مجھے منفرد اپنے ساتھ مشغول رہنے میں۔ اور پہلا ایمان

امن بك واقرب ربوبيتك و باقيا الى اجل اجلتك من غير

لانے والا ساتھ اپنے۔ اور اقرار کرنے والا اپنی ربوبیت کا۔ اور باقی رہنے والا اس مدت تک جو تو نے مقرر فرمائی بغیر پیش آنے

عائق و قصور في الاخلاق الكائنة عند اصحاب الحائق التي لها

رکاوٹ اور کوتاہی کے اخلاق میں جیسے ہوتے ہیں نزدیک اربابِ حسد و بغض کے جن کے لیے

سواسية في الاول والاخر فاكشف كشف البسائط والهجرات

برابری ہے اول و آخر میں پس کشف عطا فرما بسائط اور محجرات کا

التي جعلت اولها اخرها و اخرها اولها وصير جسبي نورها

جن کے اول کو تو نے آخر کی مانند اور آخر کو اول کی مانند بنایا ہے۔ اور میرے جسم کو بنا دے ایسا نورانی

مناسب الروح صاد رمن مظاهرا اول من غير انية ولا اضافة

جو مناسب ہو اس روح کے جو صادر ہونے والا ہو مظاہر اولیہ سے بغیر تاخیر کے اور بلا واسطہ

شيء في الارض و رة العبادرة والتفهيم وقت العجز و اوقفتها

کسی شئی کے مگر واسطے ضرورت تبصیر اور تفہیم کے وقت (بیان بلا واسطت سے عاجز آنے کے۔ اور مطلع فرما مجھے

على احوال الاجسام السفلية والعلوية بحقائقها اعلمها

اجسام سفلیہ اور علویہ کے احوال پر بمع ان کے حقائق اور عوارض کے

راجعة الى واحدة هالكة عند جميع الاضافات

در آنجا بیکر وہ لوٹنے والے ہوں طرف ایک حقیقت کے۔ فنا ہونے والے ہوں بمع تمام خیالی اور وہی اضافتوں اور نسبتوں کے

عِنْدَ هَذَا الدَّاعِي وَادْكُرْ فِي قَلْبِي مِثَالَاتٍ لَا هَوْتِيَّةً بَاقِيَةً مِّنْ غَيْرِ

نزدیک اس طالب دعا کے۔ اور مرکوز فرما میرے قلب میں لا ہوتی صورتیں جو ہمیشہ باقی ہوں منتقل

انْتِقَالٍ حَتَّىٰ أَعَانَهَا غَوَاصًا فِي أَسْرَارِكَ الْاَوَّلِيَّةِ وَالْاٰخِرِيَّةِ اَللّٰهُمَّ

ہوئے بغیر حتیٰ کہ میں ان کا معائنہ کروں تیرے ابتدائی اور آخری اسرار میں غوطہ زنی کرنے ہوئے۔ اے اللہ

اَنْتَ الْوَاٰحِدُ الْبَاقِي اَنْزِلْ اَوْ اَبْدًا وَّسَاءَرُ الْمَصْنُوْعَاتِ فِي تَبْدِيْلَاتِ

تو ہی یکتا ہے۔ ازل سے ابد تک باقی رہنے والا ہے اور تمام مخلوقات تبدیلیوں اور تفسیروں

وَتَعْيِيْرَاتٍ اِقْتِضَاءً لِصِفَةِ الظُّهُورِ وَالْبَطُوْنِ مِنَ الشُّيُوْنِ فَاَسْبِقْنِي

کے درپے ہے بسبب اقتضائے ظہور و خفاء کے شیون رباری تعالیٰ کی طرف سے پس مجھے

اِلَى الْخَيْرَاتِ مَحْبُوْبًا عِنْدَ الْاَوَّلِيْنَ اَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الدَّائِمُ

سبقت عطا فرما طرف بھلائیوں کے در آغا لیکہ میں محبوب ہوں نزدیک اولین کے آمین۔ اے اللہ تو دائم ہے

فِي الْقُدْسِيَّاتِ اَنْتَ الْاَنْ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ اِنْ وَاِنِّي فِي مَعْرَضِ

بع صفات قدسیہ کے، تو اب بھی اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے تھا اور میں درپے زوال

الزَّوَالِ وَالْفَنَاءِ فِي كُلِّ الْاَوْقَاتِ اَنْتَ الْمُبْقِي لِلشَّخْصِ مَعَ

و فنا کے ہوں تمام اوقات میں، تو ہی باقی رکھنے والا ہے ہر شخص کو مع

الْعَوَارِضَاتِ وَالْبَشَخَصَاتِ مُتَضَادَّةً بَيْنَهَا يَحِيْثُ يَقْصَدُ

اس کے عوارض اور شخصی امتیازات کے جو باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اس طرح کہ قصد کرتے ہیں

بَعْضٌ اِلَى بَعْضٍ بِالْاِفْنَاءِ وَالْقَهْرِ وَبَعْضٌ بِالرَّحْمَةِ وَالْاٰخِلَاقِ

ان کے بعض دوسروں کے فنا کر دینے اور مغلوب کر لینے کا اور بعض رحمت کا اور حسن اخلاق کا

اِقْتِضَاءً لِصِفَتِي الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ فِي التَّجَلِّيِّ وَالتَّجْمِيْلِ وَ

جس کا تقاضا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال خواہ نیستی اور فنا طاری کرنے کا خواہ تزئین و آرائش کا۔ اور

قَلْبِي بَيْنَ اَصْبَعَيْكَ تُقَلِّبُهُ كَيْفَ تَشَاءُ فَقَلْبِي مِنْ الْمَذْمُوْمَاتِ

میرادل تیری دو انگشت قدرت کے درمیان ہے تو اسے الٹا پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے لہذا مجھے تبدیل فرما برے اخلاق و عادات

إِلَى الْمَحْشُورَاتِ اللَّهُمَّ بِالتَّعَاقُبِ وَالِدِّ وَأَمْرٍ زَفْنِي وَأَسْرِعْنِي

سے قابل ستائش عادات و اخلاق کی طرف۔ اے اللہ تسلسل و دوام کے ساتھ مجھے چلا اور تیز رفتار

فِي التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ إِلَى التَّحْقِيقَاتِ رَاطِبَةٌ بِأَلَانِ وَأَمْرٍ

بنا تصورات و تصدیقات میں طرف ان تحقیقات کے جو تروتازہ ہوں ساتھ انوار کے

الْقَادِرَاتِ عَلَى نُفُوزِ فِي الْكَائِنَاتِ إِمَّا لِلسَّعَادَاتِ أَوِ الرَّاحَاتِ

جو قدرت رکھتے ہیں کائنات میں نفوذ پر واسطے سعادت مندوں کے یا راحت رسانوں کے

لِلْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى رَبِّ الْكَائِنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

انہیں جو متوجہ ہیں طرف رب کائنات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَاجِدِ الْمَوْمِلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب مجد ہیں۔ امید اور دلاسا دینے والے ہیں اور

الْمَاجِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعَقِّبُ الْيَأْسَ مِنْ

کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جو انجام کار مایوس کرے

رَحْمَتِكَ وَالْقَنُوطَ مِنْ مَغْفِرَتِكَ وَالْجُرْمَانَ مِنْ سَعَةِ مَا

تیری رحمت سے۔ نا امید کرے تیری مغفرت سے اور محروم کرے تیرے وسیع فضل و کرم سے

عِنْدَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَمَقْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي إِجْلًا لَكَ وَأُطَهِّرُ

اور ہر اس گناہ سے جس پر میں نے اپنے نفس سے بغض و کینہ رکھا بوجہ تیری تعظیم کے۔ اور ظاہر کی

لَكَ التَّوْبَةَ فَقَبِلَتْ وَسَأَلْتُكَ الْعَفْوَ فَعَفَوْتَ ثُمَّ عَادَ بِي الْهَوَى

تیری طرف تو توبہ پس تو نے قبول فرمائی۔ اور میں نے عفو کا سوال کیا پس تو نے درگزر فرمائی پھر خواہش نفس نے مجھے

إِلَى مُعَاوَدَتِهِ طَبَعًا فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَكَرِهَ عَفْوُكَ كَالرَّيْبِ عِنْدَكَ

دوبارہ اس کی طرف لوٹایا تیری وسیع رحمت، کرم و عفو کے طبع کی بنا پر۔ تیری وعید کو بھلاتے ہوئے

رَاجِيًا لِجَبِيلِ وَعُدِكَ وَأَسْأَلُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ سُوءَ الْوَجْهِ

تیرے خوبصورت وعدوں کی امید پر۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے (مغفرت کا) ہر اس گناہ کیلئے جو موجب ہوروسیابی کا جس

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ إِذَا أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

دن روشن ہونگے تیرے اولیاء کے چہرے اور سیاہ ہوں گے تیرے اعداء کے چہرے جبکہ ان میں سے بعض توجہ ہوں گے بعض

عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ فَتَقُولُ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَيْي وَقَدْ قَدَّمْتُ

پر باہم ملامت کرتے ہوئے پس تفرمائے گا۔ میرے ہاں مت جھگڑو میں نے تمہیں پیشگی مطلع کر دیا تھا

إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ساتھ عذاب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ الْفَارِقِ الْفَارِقِ قَلْبِي ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو فاتح ہیں۔ (حق و باطل میں) فرق کرنے والے ہیں اور روح حق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَارِقِ الْفَارِقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت امتیاز کرنے والے ہیں (حق و باطل میں) صاحب

الْفَاتِحِ الْفَاتِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

فضیلت۔ بلند مرتبت اور مشکلات حل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَصِيحِ وَفَصِيحِ اللِّسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو آقا کہ فصیح ہیں اور عام فہم زبان والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَجْرِ الْفَخْرِ الْقُدِّعِمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ (حق و صداقت کی) صبح صادق ہیں فخر انسانیت

الْفَرْدِ الْفَرَطِ الْفَضْلِ الْفَطْنِ الْفَلَاحِ الْفَرَّاحِ اللَّهُمَّ

و خلائق) ہیں اور دلیر۔ نیک۔ نشان راہ ہدایت (روز قیامت میں) ہمارے لیے سامان مغفرت۔ سراپا فضل و فطانت اور کامیابی اور مجتہد فرحت ہیں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَهْمِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سراپا فہم و دانش

وَفَوَاتِحِ الثُّورِ وَفِئَةِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نورانیت کے سرچشمہ اور اہل اسلام کے طہاؤ و ماویٰ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَارِي الْقَاسِمِ الْقَاضِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قاری (قرآن) - قاسم (خیرات و خزان اللہ) ہیں۔

الْقَانِتِ الْقُدْسِ الْمُقَدَّسِ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

فیصلے کرنے والے بیطیح خداوند تعالیٰ۔ سراپا طہارت۔ مقدس اور سب سے پاکیزہ ترین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْقَائِمِ الْقَاتِلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قول حق والے۔ حق کے ساتھ قائم و دشمنان خداوند تعالیٰ کے

الْقَتُولِ الْقَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ساتھ اہرت قتل و قاتل کرتے والے۔ رہبر و رہنما ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد کی آل پر

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ اللَّهُمَّ

جو آقا کہ خیر کے قائد۔ اور روشن چہروں اور نورانی اعضاء و رسول کے قائد ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقُشُومِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ جامع الخیرات

الْقَتْمِ الْقَرَشِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور معطی خیرات اور قرشی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدَمًا قَدَمِ صَدِيقِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جس آقا کے قدم صدق کے قدم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَرِيبِ الْقَسَمِ الْقَمَرِ الْقَاعِدِ الْقِيَمِ الْقَوِيِّ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جو کہ (ہر مومن سے) قریب۔ (انم میں سے) اس اُمت کا حقدہ ہیں۔ ماہ تاباں۔ مجاہد تیار کرنے والے۔ بحر ان صاحب قوت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَافِ الْكَافِ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو روکنے والے ہیں (باطل سے) کفایت کرنے والے ہیں

الْكَافَةِ الْكَرِيمِ الْمَكْرَمِ الْأَكْرَمِ الْكَافِي الْكَامِلِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سب کو۔ بزرگ۔ کرم۔ بہت بلند مرتبت۔ کفایت فرمانے والے۔ کامل۔ بہت بڑے (شرف) والے ہیں۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَاثِفِ الْكَرْبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ دور کرنے والے ہیں رنج و الم کے

وَكَافَّةِ النَّاسِ وَكَامِلٍ فِي جَمِيعِ اُمُوْرِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راہیلے بمنزلہ انسانوں کی جماعت کے ہیں اور کامل ہیں اپنے تمام امور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيْر الصَّبْتِ

فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زیادہ خاموش رہنے والے

وَكَرِيْمِ الْمَخْرَجِ وَكَاشِفِ الْغَمِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

بزرگ مقام ولادت والے اور مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَفِيْلِ الْكُنْزِ الْكُوْكَبِ

سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو نوم اٹھانے والے۔ کنز (رحمت) بڑے

الْكُنْدِيْدَةِ وَكَهْيَعَصِّ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستارے اور کھیعص ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَيْبِ اللِّسَانِ اللِّسَنِ اللِّطِيْفِ

اور آپ کی آل پر جو آقا کہ انتہائی عقلمند زبان (حق ترجمان) فصیح پاکیزہ

اللّٰوْدِعِيِّ اللِّيْتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیرک۔ شیردل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور

عَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَامُوْنِ الْبَارِحِ الْمُوْمِمِ الْمُبَارِكِ

آپ کی آل پر جو آقا کہ امن و امان میں ہیں۔ عطا کرنے والے (مقصود) اور بابرکت ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

سَيِّفِ الْاِسْلَامِ ط اَللّٰهُمَّ قِنَا مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ يَّمْكُرُ بِنَا اَبَدًا

اسلام کی شمشیر بے نیام ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچا ان اعداء کی برائیوں سے جو ہمارے ساتھ کرو فریب کرتے ہیں ہمیشہ

مَا أَبْقَيْتَنَا وَاحْفَظْنَا بِحِفْظِكَ وَاحْرُسْنَا بِحَافِظِكَ

جب تک تو ہمیں باقی رکھے اور ہمیں محفوظ فرما اپنے حفظ خاص کے ساتھ اور نگہبانی فرما اپنی خاص نگہبانی اور

حِمَايَتِكَ وَبِجَمِيعِ رِعَايَتِكَ وَجَمِيلِ كِرَامَتِكَ وَاَكْرَمِ

حمایت کے ساتھ۔ اور کامل رعایت اور حسن کرامت کے ساتھ۔ اور ہمیں کفایت فرما

بِحُسْنِ كِفَايَتِكَ بِسْمِ اللّٰهِ يَا بِنَا تَبَارَكَ حَيْطَانُنَا يَسْ

اپنے حسن کفایت کے ساتھ۔ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے۔ تبارک ہماری دیواریں ہیں۔ یسین ہماری چھت ہے

كَهَيْعَصْ كِفَايَتُنَا حَمْسَقْ حِمَايَتُنَا اَلَمْ جِيُوْشَانُ وَالْقَلْبُ

کھیعص ہماری کفایت ہے۔ حمسق ہماری حمایت ہے۔ اَلَمْ ہمارے شکر ہیں۔ ن والقلم

سَيُوفُنَا بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عُنْ يَمِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ہوئی تمہاری ہیں۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے دائیں ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ

عَنْ يَسَارِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عُنْ قَدَّامِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا

میرے بائیں ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے آگے ہے بسم اللہ لا الہ الا

اللّٰهُ عُنْ خَلْفِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عُنْ فَوْقِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا

اللہ میری پشت پر ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے اوپر (سامنے) ہے بسم اللہ لا الہ الا

اِلَّا اللّٰهُ عُنْ تَحْتِيْ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عُنْ حَوْلِيْ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا

لا اللہ میرا ثبات قدم ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میری ہر جانب محیط ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی

وَمِنْ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَلَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا اَحَدٌ سِوَى اللّٰهِ وَلَا

ذات کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف اور نہیں غالب مگر اللہ نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے اور نہیں کوئی

اَحَدٌ مِّثْلَ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْتَفْتِحْ بِاللّٰهِ وَاتَّوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَلَا

مثل اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور مدد طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور توکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور نہیں

شَيْءٌ كَمِثْلِهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَرَضِيْتُ بِاللّٰهِ وَامَنْتُ بِاللّٰهِ وَقَوْلِيْ

کوئی چیز مانند اس کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ پر۔ اور ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور سوچنے

أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَمَا تَصَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا صَدْرِي إِلَّا بِاللَّهِ

اپنے تمام امور اللہ کو۔ نہیں مدد و نصرت مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ نہیں میرا صبر مگر ساتھ خداوند تعالیٰ کے

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَنِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى اللَّهُ

اور نہیں میری کار سازی مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا قدرتوں والا ہے اللہ۔ اور اچھا مولیٰ ہے اللہ تعالیٰ

وَنِعْمَ التَّصِيرُ اللَّهُ وَلَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَصْرِفُ

اچھا مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں دیتا حسنات مگر اللہ تعالیٰ اور نہیں دور کرتا

السَّيِّئَاتِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنَّ الْأَمْرَ

برائیوں کو مگر اللہ تعالیٰ اور جو بھی ہے ہمارے پاس کوئی نعمت پس وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بیشک امر

كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنْبِيَاءِ

تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور میں توفیق طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور استغفار کرتا ہوں اللہ سے اور درود بھیجے

اللَّهُ وَمُرْسَلِ اللَّهِ وَعَلَى الصُّلِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَعَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل پر اور اپنے نیک بندوں پر۔ اور سیدنا

الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ وَرَبِّيَ اللَّهُ إِنَّكَ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّكَ

ابو محمد عبد القادر ولی اللہ پر۔ بیشک وہ (نحو حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور بیشک وہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ

یوں ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی آغاز ہے جو بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور تابعداری کرتے ہوئے میری

كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلْبَةَ لَنَا وَأَنَا وَمُرْسَلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا يَضُرُّكُمْ

حاضری دو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے ہر حال میں میں غالب ہوں گا اور میرے رسل کرام بیشک اللہ تعالیٰ قوی غالب ہے۔ نہیں ضرور ہجرتیں

كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کا مکر و راجھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَارِئِ وَالْمَأْذُومِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا ماز ماز ہیں۔ اور تنگ پانی ہیں (رحمت خداوندی کا)

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَأْسِ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ

المُقْتَبِعِ الْمُرَابِطِ الْمَجَاهِدِ الْمُتَوَاضِعِ الْمَفِيدِ الْمَدْعُوِّ الْمَقْبُولِ اللَّهُمَّ

بہت تقاضے کرنے والے، محافظ (سرحدات اسلام)، اور مجاہد۔ تواضع پیشہ۔ نفع بخش۔ پکارے جانے والے (صفاقی ناموں کے ساتھ) آخری

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُقْتَبِعِ

نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ آخری (نبی) ہیں

الْمُتَرَقِّبِ الْمَقْبُولِ الْمُبْتَهَلِ الْمُبِرِّ الْمَبْرُءِ الْمَبْعُوثِ اللَّهُمَّ

بہت نگہبان، مقبول خداوند تعالیٰ۔ زاری کرنے والے۔ محسن اور پاکدامن مرسل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبَشِّرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بشارت دینے والے ہیں

وَمُبَشِّرِ الْأَيْسِينَ وَمُؤَدِّ مُؤَدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سب اہل طاعت کو اور بالخصوص بشارت دینے والے ہیں یا یوسوں کو حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْمَبْلَغِ الْمُبِيحِ الْمُبِينِ الْمُبْتَلِ الْمُبْتَسِمِ

آقا (احکام خداوند کے) مبلغ اور ظاہر کرنے والے۔ خود ظاہر الصدق اور بہت وضاحت کرنیوالے، اللہ تعالیٰ کی طرف

الْمُتَرَبِّصِ الْمُتَفَرِّعِ الْمُتَّقِي الْمَتَلُوِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

منقطع ہونے والے بہت مسکرنے والے۔ بہت انتظار فرمانے والے اہل عصیان کے باز آنے کی بہت رحم فرما۔ فائق۔ پرہیزگار۔ تلاوت کئے ہوئے و کتب سماویہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْتَسِمِ

ہیں، اور ان یتلاوت کی گئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تکمیل فرمانے والے ہیں (مکارم اخلاق کی)

الْمُتَمِّمِ الْمُتَمَكِّنِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُتَوَكِّلِ الْمُتَهَجِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نبرات خود کمال ہیں، صاحب اقتدار صاحب اعتدال متوکل۔ تہجد گزار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُنْتَبِهِيْنَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قومی، ثنابت قدم رکھنے والے اور

الْمُنْتَبِهِيْنَ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُبْتَلِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ثنابت قدم رکھے ہوئے ہیں۔ مقبول الدعاء (حق کے لیے) جھگڑنے والے۔ چنے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُبْتَلِيْنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا قبول کرنے والے ہیں (دعوت کے) صاحب مجد ہیں۔ پناہ دینے

الْمَحْفُوظِ الْمَحْرَمِ الْمَحْفُوظِ الْمَحْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

والے ہیں۔ درمیانی راستہ والے۔ برائیگنہ کر نیوالے۔ محفوظ حرمت و عزت دئے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ جو دو کرم کے ساتھ موصوف ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ

الْمُدَّعِيْنَ الْمُدَّعِيْنَ الْمُدَّعِيْنَ الْمُدَّعِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صاحب یقین، نصیحت کرنے والے۔ ذکر کئے ہوئے (کتب سماویہ میں) اور پسندیدہ خداوند تعالیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّفِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ اللہ تعالیٰ کی

اللَّهُ الْمَسْلُوبِ بِسْمِ اللَّهِ الْخَالِقِ الْكَبِيرِ الْجَرِيْمِ لِكُلِّ خَائِفٍ لَا

سوتتی ہوئی تلوار ہیں۔ بسم اللہ الخالق الاکبر پناہ ہے واسطے ہر خوفزدہ کے۔ نہیں

طَاقَةَ لِمَخْلُوقٍ مَّعَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الْجَلِيلِ الْجَبَّارِ الْقَاهِرِ الْقَهَّارِ

طاقت واسطے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ ساتھ نام اللہ جلیل، جبار۔ قاهر و قہار کے

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ

ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے نہیں چلا تاخیر کو (طرف بندوں کے) مگر اللہ تعالیٰ۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو مشیت پر

اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ مِنْ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ

اللہ تعالیٰ کی۔ تمام خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو مشیت پر اللہ تعالیٰ کی نہیں پھیرتا برائی

السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ

کو مگر اللہ تعالیٰ۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ جو نعمت موجود ہے (ہمارے پاس)

فَمِنْ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہے اللہ تعالیٰ نہیں پھرنا (معصیت) اور نہ قوت (طاقت) کی (مگر

اللَّهُمَّ اكْفِنِي كُلَّ مَهْمٍ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ أَيْنُ شِئْتَ

ساتھ توفیق خداوند تعالیٰ کے۔ اے اللہ میری کفایت فرما ہر مہم اور مشکل میں جہاں سے چاہے اور جس جگہ سے چاہے

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ

کافی ہے مجھے پروردگار تربیت پانے والوں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ خالق اپنی مخلوق سے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ السَّاتِرُ مِنَ

کافی ہے مجھے اللہ رازق اپنے روزی دئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ پردہ پوش

الْمُسْتَوْرِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ النَّاصِرُ مِنَ الْمَنْصُورِينَ حَسْبِيَ

پردہ دیئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ مددگار مدد دیئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے

اللَّهُ الْقَاهِرُ مِنَ الْمُقَاهَرِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ حَسْبِي

اللہ قاہر اس کا نشانہ قہر بنے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو کہ مجھے کفایت کرنے والا ہے۔

حَسْبِي مَنْ لَّمْ يَزَلْ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِي

کافی ہے مجھے جو ہمیشہ سے مجھے کفایت فرماتا رہا ہے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور اچھا کارساز ہے کافی ہے

اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ

مجھے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے۔ بیشک میرا یار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ

وہ مدد فرماتا ہے نیکو کاروں کی۔ اور جب قرآن پڑھو گے بناویں گے ہم درمیان آپ کے اور

بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا أَحْسِبِي اللَّهَ

درمیان ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے مخفی حجاب۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ خَبَاتُ

نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ ہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ میں نے چھپا دیا

نَفْسِي فِي خَزَائِنِ بِسْمِ اللَّهِ أَقْفَالَهَا ثِقَتِي بِاللَّهِ مَفَاتِيحُهَا

ہے اپنے نفس کو خزانوں میں کہ بسم اللہ ان کے تالے ہیں اور میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ان کی چابیاں ہیں

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِذَا فَعَرَّبَكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِي لِمَا أُطِيقُ وَ

نہیں ذرہ بھر طاقت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ دفاع کرتا ہوں میں اپنے نفس کی طرف سے ہر اس شے کا جس کی طاقت رکھتا ہوں

مَا لَا أُطِيقُ لَا طَاقَةَ لِمَخْلُوقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ حَسْبِيَ اللَّهُ

اور جس کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں طاقت کسی مخلوق کے لیے ساتھ قدرت خالق کے۔ کافی ہے مجھے

نِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے۔ نہیں پھرنا (برائی سے) اور نہ طاقت (طاعت کی) مگر ساتھ اللہ تعالیٰ بلند مرتبت عظمت والے کے

حَسْبُنَا اللَّهُ لِدِينِنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِدُنْيَانَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَا أَهْبَانَا

کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کے لیے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کے لیے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہماری مہمات میں

حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنَا حَسْبُنَا

کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مخالفت کرنے والوں کیلئے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حسد کرنے والوں کیلئے۔ کافی ہے ہمیں

اللَّهُ لِمَنْ كَادَنَا بِسُوءٍ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ

اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا مکر کرنے والوں کے لیے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت ہماری موت کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ

الْقَبْرِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمَسَائِلِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبُنَا

قبر میں۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت سوالات کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک پل صراط کے۔ کافی ہے ہمیں

اللَّهُ عِنْدَ الْحِسَابِ حُسَيْنًا اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حُسَيْنًا اللَّهُ عِنْدَ الْجَنَّةِ

اللہ تعالیٰ وقت حساب کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک میزان کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک جنت

وَالْقَابِ حُسَيْنًا اللَّهُ عِنْدَ الْإِقَاءِ حُسَيْنِي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور دوزخ کے (فیصلہ کے)۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دیدار کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کہ نہیں معبود برحق مگر وہی

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ حُسَيْنِي اللَّهُ لِي نَبِي حُسَيْنِي اللَّهُ لَهَا

میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ میرے دین کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ

أَهَمَّنِي حُسَيْنِي اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حُسَيْنِي اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنِي حُسَيْنِي

ہر پریشانی والے امر میں۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ظلم کرنے والوں کی طرف سے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے حسد کرنے والوں کی طرف سے۔ کافی ہے

اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءِ حُسَيْنِي اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حُسَيْنِي اللَّهُ عِنْدَ

اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کر کرنے والوں کی طرف سے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے نزدیک موت کے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے وقت

الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ حُسَيْنِي اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حُسَيْنِي اللَّهُ عِنْدَ

قبر میں سوال کئے جانے کے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ وقت وزن کئے جانے اعمال کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ صراط جہنم

الصِّرَاطِ حُسَيْنِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

(پر گزرتے) وقت کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی۔ اسی پر توکل کیا ہے میں نے اور وہی مالک ہے عرش

الْعَظِيمِ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمِ يَا حَلِيمِ يَا عَلِيَّ يَا عَلِيَّ يَا عَلِيَّ يَا عَلِيَّ

عظیم کا۔ اے بلند شان والے۔ اے مالک عظمت۔ اے صاحب علم۔ اے دائمی علم والے۔ تو ہی میرا رب ہے اور تیرا علم

حُسَيْنِي فِتْنَةَ الرَّبِّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسِبُ حُسَيْنِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ

مجھے کافی ہے۔ پس اچھا رب ہے رب میرا، اور اچھا کفایت کرنے والا ہے میرا کفایت کرنے والا۔ تو جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے

وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور تو ہی غالب رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَبِ الْمُرْتَبِ الْمُرْتَبِ الْمُرْتَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کے آل پر جو آقا کے لئے تہنیتیں طعمائے بے بی نظیر سے پڑھنے والے۔ رحمت کے ساتھ مجھے برے اور رسالت دے برے میں لے

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ شہر علم و دانش ہیں

وَمُرْتَفِعِ الدَّرَجَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور بلند درجات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْحَمَةِ الْمُرْتَبِدِ الْمُرْعَبِ الْمُرْعَبَةِ الْمُرْعَبِ

آل پر جو آقا کہ سراپا رحمت ہیں۔ راہ ہدایت دکھانے والے۔ ترغیب دلانے والے۔ لوگوں کی جانے پناہ ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّزِيْلِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ زائل کرنے والے ہیں

الْغُمَّةِ الْمُسْتَجِيْبِ الْمُسْتَعِيْذِ الْمُسْتَغْفِرِ الْمُسْتَغِيْثِ اَللّٰهُمَّ

عموں کے۔ قبول کرنے والے ہیں (معذرتوں کے) پناہ مانگنے والے، استغفار کرنے والے اور مدد طلب کرنے والے ہیں (اللہ تعالیٰ سے) اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَغْنٰی

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب استغناء

الْمُسْتَقِيْمِ الْمَسْدِدِ الْمَسْرِيْ بِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

صاحب استقامت ہیں۔ پختگی و مضبوطی بخشنے والے ہیں جنہیں معراج کرائی گئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَسْعُوْدِ الْمَسْلَمِ الْمَسْلَمِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سعادت مند، سلامتی بخش اور سلامتی بخشنے ہوئے ہیں

الْمَسِيْحِ الْمَشَاوِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مسیحا اور مشورے لینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْدَبِ الْمَشْرَدِ الْمَشْفَعِ الْمَشْفَعِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (درمیانے) پہلے جسم والے (اپنے وطن سے) نکالے ہوئے، سرخی مائل رنگت والے

الْمَشْفُوْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

حق شفاعت دئے ہوئے۔ شفاعت قبول کئے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ الْمَشِيحِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ

آل پر جو مشہور۔ بے داغ۔ چست و مستعد۔ پچھاڑنے والے اور در گذر کرنے والے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ

اَلْمُبْصِرِ الْمُبْدِقِ الْمُبْدِقِ الْمُبْدِقِ وَالْاَصْدَقِ الْمُبْدِقِ

روشن چراغ ہیں۔ بہت تصدیق کرنے والے (انبیاء و کتب سابقہ کی تصدیق کئے ہوئے ہیں۔ سچے مانے ہوئے ہیں، بہت سچے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْصِرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا مصلح ہیں محفوظ

وَالْمَبْصُورِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ

قدر و منزلت والے سردار اور منتخب ہیں جن پر درود بھیجا گیا ہے (خالق و خلق کی طرف سے) اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ حسنات کی درستی کرنے والے ہیں

اَلْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ الْمُبْصِرِ

مضر (قبیلہ) سے ہیں۔ ناقذ فرمانے والے ہیں (احکام شرع کو) اطاعت کئے ہوئے اور (خفاقی) اشیاء پر مطلع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پاک کرنے والے ہیں۔ خود پاک اور اطہر و

اَلطَّاهِرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ

ظاہر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ مُطَهِّرِ الْجَنَانِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ

جو آقا دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ الْمُبْطَرِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اطاعت گزار صاحب نظر، (حق کو) ظاہر کرنے والے۔ نامور و غلبہ دینے والے

اللَّهُمَّ الْعُقَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آخر میں آنے والے۔ آخری نبی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْطَى الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ وَمَعْلَمِ الْأُمَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو عطا کرنے والے۔ تعلیم دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دئے ہوئے۔ اعلان حق فرمانے والے۔ امت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معلم ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ

الْمَعْلَى الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بلندی بخشنے والے۔ مسلم مقتدا۔ اعانت فرما۔ عزیمت و بلند ہمتی بخشنے والے۔ سراپا نعمت۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِفْتَاخِ وَمِفْتَاحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کم رحل مشکلات کی، چابی ہیں۔ اور جنت کی

الْجَنَّةِ وَمِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

چابی اور رحمت کی چابی ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَغْنَى الْمَغْنَى الْمَغْنَى

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا غنی کرنے والے۔ تعظیم کئے ہوئے، بہت فضل فرمانے والے ہیں

الْمُفْضِلِ الْمُفْلِحِ الْمَقْتَصِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فضیلت دینے والے۔ کشادگی بخشنے والے۔ کامران۔ میان رو ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْتَدِسِ الْمَقْتَدِمِ الْمَقْتَدِمِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ آخر میں تشریف لانے والے۔ مقدس مرتبہ میں سابق۔ سبقت دینے

الْمُبْقِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا

والے قرابت کرانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْمَقْسُطِ الْمَقْسُطِ الْمَقْسُطِ اللَّهُمَّ

جو آقا کہ عادل۔ تقسیم کرنے والے۔ آخر میں آنے والے۔ سیدھا کرنے والے۔ مقصود (خالق و مالک) ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُؤَيَّدِينَ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے لغزشات سے درگزر

الْعَثْرَاتِ وَمُقِيمِ السُّنَّةِ بَعْدَ الْفِتْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کرنے والے ہیں اور سنت قدیمہ کو قائم کرنے والے ہیں انقطاعِ رسال کے بعد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَضَى الْمُرْتَمِّلِ الْمُرْتَمِّلِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے پاک کرنے والے محفوظ و مامون۔ چادر اور ڈھننے والے۔ عظمت بخشنے والے

الْمَجْتَمِلِ الْمَكْتَفِي الْمَسْبُوحِ سُبْحَانَ مِلْأِ الْمِيزَانِ وَمَنْتَهَى الْعِلْمِ

جمال و زینت دینے والے۔ اکتفا و انحصار کرنے والے۔ تسبیح کرنے والے ہیں اللہ سبحان کی مطابق میزان کی وسعت کے اور

وَمَبْلَغِ الرِّضَاءِ وَزِينَةِ الْعَرْشِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْ اللَّهِ

نتہائے صبر کے اور حد رضائے تک اور مقدار عرش اعظم کے۔ نہیں جائے پناہ اور مقام نجات اللہ تعالیٰ سے

إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ عَدَدِ الشَّفَعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدِ كَلِمَاتِ اللَّهِ

معرنہ اسی کے۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنت اور طاق کی تعداد کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات

التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

تمامہ کی تعداد کے مطابق۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے سلامتی کا بطفیل تیری رحمت کے۔ نہیں پھرنا اور نہ طاقت

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے جو بلند شان عظیم ہے۔ وہ مجھے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے اچھا

الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ

مولی اور اچھا مددگار ہے۔ بہت پاک، بہت مقدس ہے رب ہمارا، رب ملائکہ اور

وَالرُّوحِ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

روح کا۔ پاک ہے خالق نور کا۔ پاک ہے وہ جو نگران ہے ہر ایک کے

بِمَا كَسَبَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ أضعافَ مَاسَبَّحَهُ وَكَمُوتِهِمْ

اس کی کارکردگی میں۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی گنا اس سے جو تسبیح کی اور تسبیح کرے گی اس کی تمام

خَلِقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا

مخلوق جیسے کہ پسند فرماتا ہے رب ہمارا اور خوش ہوتا ہے اور جیسے کہ لائق ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی

وَعِزِّ جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَضْعَافٌ مَّا حِيدًا وَيُحْمَدُ أَجْمِيعٌ

اور غلبہ جلال کے۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی گنا اس سے جو حمد کی اور کرے گی اس کی تمام

خَلِقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا

مخلوق جیسے کہ پسند کرتا ہے رب ہمارا اور خوش ہوتا ہے اور جیسے لائق ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی

وَعِزِّ جَلَالِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَضْعَافٌ مَّا هَلَّلَهُ وَيُهَلَّلُهُ أَجْمِيعٌ

اور غلبہ جلال کے اور اقرار ہے لا الہ الا اللہ (کا) کئی گنا اس سے جو تمہیں کی اور کرے گی اس کی تمام

خَلِقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا وَعِزِّ

مخلوق جیسے کہ محبوب رکھتا ہے ہمارا پروردگار اور پسند کرتا ہے اور جیسے شایان شان ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی اور

جَلَالِهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَضْعَافٌ مَّا كَبَّرَهُ وَيُكَبَّرُهُ أَجْمِيعٌ خَلِقَهُ كَمَا يُحِبُّ

غلبہ جلال کے۔ اور (کہتے ہیں) اللہ اکبر کئی گنا اس سے جو کبریائی بیان کی اور کرے گی اس کی تمام مخلوقات جیسے کہ محبوب

رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا وَعِزِّ جَلَالِهِ وَلَا حَوْلَ

رکھتا ہے ہمارا پروردگار اور پسند فرماتا ہے اور جیسے شایان ہے اس کی ذاتی بزرگی اور غلبہ جلال کے۔ اور (کہتے ہیں) لا حول

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَضْعَافٌ مَّا مَجَّدَهُ وَيُسَبِّحُهُ أَجْمِيعٌ

ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کئی گنا اس سے جو بزرگی بیان کی اور کرے گی اس کی تمام مخلوق

خَلِقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا الْكَرِيمِ

جیسے محبوب رکھتا ہے ہمارا رب اور پسند فرماتا ہے۔ اور جیسے لائق ہے ہمارے کریم پروردگار کی ذاتی بزرگی اور

وَعِزِّ جَلَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

غلبہ جلال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ الْمَكْرَمِ الْمَكْفِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَكِينِ الْمَلْحِمِ الْمَلْدِي

آقا کہ صاحب تحریم و اکرام ہیں۔ کفایت کرنے والے۔ اور کلام کرنیوالے (روز محشر شفاعت کیلئے) مکی۔ صاحب اقتدار صاحب جہاد

اَلْمَلِكِي الْمَلْجَاۤءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جائے پناہ تلبیہ کہنے والے۔ آسمان و سہارا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَلِكِ الْمَلِكِي الْمَسْنُوۡجِ وَمُلَقٰى الْقُرْاٰنِ

آل پر جو آقا بادشاہ غنی۔ صاحب ملک۔ عطاؤ بخشش والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْمَسْنُوۡجِ الْمُنَادِي الْمُنَادِي الْمُنْتَخَبِ الْمُنْتَخَبِ اَللّٰهُمَّ

کہ معصوم ہیں۔ اعلان (توجید) کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء کرامت دئے ہوئے۔ منتخب اور عمدہ ترین ہیں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَخَبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بدلہ لینے والے

الْمُنْتَظَرِ الْمُنْتَقِي الْمُنْجِدِ الْمُنْجِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مہلت دینے والے۔ پاک کرنے والے۔ قوت بخشنے والے۔ نجات دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْجِبِ الْمُنْذِرِ الْمُنْزِلِ عَلَيْهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ لائق حمد و ثناء ہیں۔ ڈرانے والے ہیں۔ جن پر وحی نازل کی گئی ہے

الْمُنْصِيفِ الْمَنْصُوۡرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صاحب انصاف۔ بھرت دئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْقِذِ الْمُنِيۡبِ الْمُنِيۡرِ الْمُوۡذِ مُوۡذِ

آپ کی آل پر جو آقا کہ بچانے والے۔ پناہ دینے والے۔ روشن کرنے والے۔ موز موز

الْمُوۡحِيۡ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور وحی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُوۡصِلِ الْمُوۡصِلِ الْمُوۡصِلِ الْمُوۡصِلِ

کی آل پر جو وصال (خداوند تعالیٰ) پر فائز، وصال کا شرف بخشنے والے۔ مسلسل وعظ و نصیحت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جن کے حوض سے (سب اُمت) سیراب کی جانے والی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْقِرِ الْمَوْقِنِ الْمَوْلَى الْمُهَاجِرِ

آپ کی آل پر جو آقا کے صاحبِ توقیر و صاحبِ ایقان ہیں، محبوب اور صاحبِ بیعت اور مہاجر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے

الْمُقْتَدَى الْمُهْدَى الْمُهْدَى الْمُهْدَى اللَّهُمَّ صَلِّ

مقتدا اور ہدیہ (خالق) ہیں۔ ہدایت دینے والے۔ ہدایت یافتہ اور ہدایت عطا کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے منذب

الْمُهَيَّبِينَ الْمُؤْتَمِنِينَ الْمُؤَيَّدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیزان۔ نائق امانت۔ ایمان دینے والے اور قوت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَوْلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے جامع کلمات (کے مالک) نعمتیں دینے

التَّعَبَةِ وَمَوْلَى الرَّحْمَةِ وَمَجْلَى الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

والے۔ رحمت عطا کرنے اور ظلمتیں دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُشْرِعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے (سب انعامات) دے گئے۔ مالک تشریح (احکام)

الْمِيزَانِ الْمَيْسِرِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ترازوئے (عدل و انصاف) ہیں۔ آسانی مہیا کرنے والے بمقصد و مطلوب (خالق) اور میز میز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الثَّابِتِ الثَّابِتِ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے پھینکنے والے ہیں (باطل و ناحق) کے۔ فوری مہیا کرنے والے ہیں مقاصد کے

التَّاسِ التَّاسِعِ النَّاسِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بذات خود پوری نوع انسانی ہیں۔ نسخ کر نیوالے ہیں (شراخ سابقہ کو)۔ عبادات کے (طریقے) وضع کر نیوالے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَلِيحِ الْمُسْتَنْصِرِ الْمُقَرَّبِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا کہ صاحب ملاحیت ہیں، (اللہ تعالیٰ سے) طالب نصرت اور اس کے مقرب ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاشِرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ پھیلانے والے ہیں (احکام شرعیہ اور توحید کے)

النَّاصِبِ النَّاصِحِ النَّصِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نصب کر نیوالے ہیں (قواعد و اصول کے) اور بہت خالص و کامل ہمدرد و مخلص ہیں (مخوق کے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاصِرِ وَنَاصِرِ الدِّينِ وَالنَّاطِرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مددگار (خلائق ہیں) اور مددگار ہیں دین حق کے اور اس کے نگران۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

مُحَمَّدٍ نُورِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُطْفَأُ اللَّهُمَّ يَا نُورٌ تَنَوَّرَتْ بِالنُّورِ

کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نور ہیں جس کو بجھایا نہیں جاسکتا۔ اے اللہ۔ اے نور۔ تو روشن ہے ساتھ نور کے

وَالنُّورِ فِي نُورِ نُورِكَ يَا نُورُ اللَّهُمَّ يَا عَزِيزٌ تَعَزَّيْتُ

اور تیری بارگاہ نور ہی نور ہے اے نور نور۔ اے اللہ۔ اے غالب تو غلبہ والا ہے۔

بِالْعِزَّةِ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ يَا جَلِيلُ

ساتھ عزت و جاہ کے۔ اور عزت و جاہ تیری بارگاہ عزت میں ہی ہے۔ اے عز و جاہ والے۔ اے اللہ اے جلیل

تَجَلَّلْتَ بِالْجَلَالِ وَالْجَلَالُ فِي جَلَالِكَ يَا جَلِيلُ اللَّهُمَّ

تو بزرگ ہوا اپنے شان جلال کے ساتھ اور جلال و بزرگی تیری بارگاہ جلال میں ہی ہے اے جلیل۔ اے اللہ

يَا وَاحِدٌ تَوَحَّدْتَ بِالْوَحْدِ اِنِّيَّةً وَالْوَحْدُ اِنِّيَّةٌ فِي وَحْدِكَ

اے یکتا۔ تو یگانہ ہے اپنی وحدانیت کے ساتھ اور یکتائی صرف تیری بارگاہ وحدانیت میں ہی ہے۔

يَا وَاحِدُ اللَّهُمَّ يَا فَرْدُ تَقَرَّدْتَ يَا فَرْدُ انِّيَّةً وَالْفَرْدُ انِّيَّةٌ فِي فَرْدِ انِّيَّةٍ

اے یکتا۔ اے اللہ۔ تو مفرد و یکتا ہے اپنی یکتائی کے ساتھ اور انفرادیت صرف تیری یکتائی

فَرْدُ انِّيَّتِكَ يَا فَرْدُ اللَّهُمَّ يَا جَمِيلُ تَجَمَّلْتَ بِالْجَمَالِ وَالْجَمَالُ

اور انفرادیت میں ہی ہے۔ اے یکتا۔ اے اللہ اے جمیل تو بہت خوب ہے اپنے جمال کے ساتھ اور جمال و خوبی

فِي جَمَالِ جَمَالِكَ يَا جَمِيلُ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمٌ تَكْرَمْتَ بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ

صرف تیری بارگاہ جمال میں ہی ہے اے جمیل۔ اے اللہ اے کریم۔ تو صاحب کرامت و بزرگی ہے اپنے کرم کے

فِي كَرَمِ كَرَمِكَ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ يَا عَظِيمٌ تَعْظَمْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةُ

ساتھ اور کرم صرف تیری بارگاہ کرم میں ہی ہے۔ اے کریم۔ اے اللہ اے عظیم۔ تو عظیم و بزرگ ہے اپنی عظمت کے ساتھ

فِي عَظَمَةِ عَظَمَتِكَ يَا عَظِيمُ اللَّهُمَّ يَا جَبَّارٌ تَجَبَّرْتَ بِالْجَبَرُوتِ

اور عظمت صرف تیری بارگاہ عظمت میں ہی ہے اے عظیم۔ اے اللہ۔ اے جبار۔ تو بزرگ ہے اپنی صفات جلال کے ساتھ

وَالْجَبَرُوتُ فِي جَبَرُوتِكَ يَا جَبَّارُ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرٌ تَكَبَّرْتَ

اور جبروتیت و جلال صرف تیری بارگاہ جلال میں ہی ہے۔ اے جبار۔ اے اللہ اے کبریائی والے۔ تو بزرگ ہے

بِالْكِبْرِيَاءِ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي كِبْرِيَاءِكَ يَا كَبِيرُ اللَّهُمَّ يَا قَدِيرٌ

اپنی شان کبریائی کے ساتھ اور کبریائی صرف تیری بارگاہ کبریائی میں ہی ہے اے کبریائی والے۔ اے اللہ اے قدیر

تَقَدَّرْتَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ فِي قُدْرَتِكَ يَا قَدِيرُ اللَّهُمَّ يَا

تو بہت قدرت والا ہے ساتھ اپنی قدرت کے۔ اور قدرت و قوت صرف تیری بارگاہ قدرت میں ہی ہے اے قدیر۔ اے اللہ

قَهَّارٌ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ اللَّهُمَّ يَا

اے قہار۔ تو صاحب قہر ہے اپنے قہر کے ساتھ اور قہر و غلبہ صرف تیری بارگاہ قہارت کے شایان ہے۔ اے قہار۔ اے اللہ اے

مَالِكٌ تَمَلَّكَتْ بِالْمَلِكُوتِ وَالْمَلِكُوتُ فِي مَلِكُوتِكَ يَا مَالِكُ

مالک۔ تو بادشاہ ہے ساتھ اپنے وسیع ملک کے اور ملک و تسلط صرف تیری بارگاہ ملکوت کے ہی شایان ہے اے مالک

اللَّهُمَّ يَا قُدُّوسٌ تَقَدَّسَتْ بِالْقُدُّوسِ وَالْقُدُّوسُ فِي قُدُّوسِ

اے اللہ اے قدوس۔ تو پاکیزہ ہے ساتھ اپنی شان تقدس کے اور کامل طہارت صرف تیری بارگاہ قدس

قُدْسِكَ يَا قُدُّوسَ اللَّهِ يَا رَبُّ تَرَبَّيْتُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ

کے ہی شایاں ہے اے قدوس۔ اے اللہ۔ اے پروردگار۔ تو نے بہت پرورش فرمائی اپنی ربوبیت کے ذریعے

فِي رُبُوبِيَّةِ رَبُّوبِيَّتِكَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ يَا رَحِيمٌ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ

اور ربوبیت صرف تیری بارگاہ ربوبیت کے ہی شایاں ہے۔ اے پروردگار۔ اے اللہ۔ اے رحیم تو نے بہت رحمت فرمائی ساتھ رحمت

وَالرَّحْمَةُ فِي رَحْمَةِ رَحْمَتِكَ يَا رَحِيمٌ اللَّهُمَّ يَا عَدْلٌ تَعَدَّلْتُ

خاصہ کے اور رحمت کاملہ صرف تیری بارگاہ رحمت میں ہی ہے اے رحیم۔ اے اللہ اے سراسر عدل۔ تو نے بہت عدل کیا

بِالْعَدْلِ وَالْعَدْلُ فِي عَدْلِكَ يَا عَدْلٌ اللَّهُمَّ يَا شَكُورٌ

ساتھ اپنی عدالت خاصہ کے اور عدل و انصاف صرف تیری بارگاہ عدل میں ہی ہے۔ اے سراسر عدل۔ اے اللہ اے شکور

تَشَكَّرْتُ بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرُ فِي شُكْرِكَ يَا شَكُورٌ اللَّهُمَّ يَا سَمِيعٌ

تو نے بہت جزاء شکر دی اپنی شان شکور کے شایاں۔ اور جزائے شکر صرف تیری بارگاہ شکور میں ہی ہے اے شکور۔ اے اللہ اے سمیع

تَسَمَّعْتُ بِالسَّمْعِ وَالسَّمْعُ فِي سَمْعِكَ يَا سَمِيعٌ اللَّهُمَّ يَا بَصِيرٌ

تو بہت سننے والا ہے اپنی صفت سمع کے ساتھ اور حقیقی شنوائی تیری بارگاہ سمع و شنوائی میں ہی ہے اے سمیع۔ اے اللہ اے بینا

تَبَصَّرْتُ بِالبَصْرِ وَالبَصْرُ فِي بَصْرِكَ يَا بَصِيرٌ اللَّهُمَّ يَا حَنَّانٌ

تو بینا ہے ساتھ اپنی شان بینائی کے اور بینائی صرف تیری بارگاہ بصر میں ہی ہے اے بینا۔ اے اللہ۔ اے مہربان

تَحَنَّنْتُ بِالْحَنَنِ وَالحَنَنُ فِي حَنَنِكَ يَا حَنَّانٌ اللَّهُمَّ يَا

تو مہربان ہے اپنی شان حنائی کے مطابق اور حقیقی مہربانی صرف تیری بارگاہ حنایت میں ہی ہے اے حنان۔ اے اللہ اے

مَنَّانٌ تَمَنَّنْتُ بِالمِنَّةِ وَالمِنَّةُ فِي مَنَّاتِكَ يَا مَنَّانٌ اللَّهُمَّ

صاحب احسان۔ تو نے بہت احسان فرمایا اپنی شان منائی کے مطابق اور کامل منت و احسان صرف تیری بارگاہ احسان میں ہے۔ اے حنان

يَا حَكِيمٌ تَحَكَّمْتُ بِالحِكْمَةِ وَالحِكْمَةُ فِي حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمٌ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے صاحب حکمت تو حکیم ہے اپنی شان حکمت کے ساتھ اور حقیقی حکمت و دانش تیری ہی بارگاہ حکمت کے لائق ہے اے حکیم۔ اے اللہ

يَا وَهَّابٌ تَوْهَّبْتُ بِالْوَهْبَةِ وَالْوَهْبَةُ فِي وَهْبَتِكَ يَا وَهَّابٌ

اے عطا کرنے والے۔ تو نے بہت عطا فرمایا اپنے شان عطا کے لائق اور کامل عطا صرف تیری بارگاہ وہب ہی کے شایاں ہے۔ اے

وَهَابُ اللَّهِ يَا عَلِيمُ تَعَلَّمْتَ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ فِي عِلْمِهِ

عطا کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے عظیم تو بہت علم والا ہے اپنے شان علم کے ساتھ اور کامل علم تیری شان عیسیٰ کے ہی

عَلَيْكَ يَا عَلِيمُ اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةُ

شایان ہے۔ اے عظیم۔ اے اللہ۔ اے رحمن۔ تو نے بہت رحم کیا اپنی شان رحمت کے لائق اور رحمت کاملہ

فِي رَحْمَةٍ رَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنُ اللَّهُمَّ يَا خَالِقُ تَخَلَّقْتَ بِالْخَلْقِ

تیری شان رحیمی کے لائق ہے۔ اے رحمن۔ اے اللہ۔ اے خالق تو نے بہت پیدا کی (مخلوق) اپنی شان خالق کے ساتھ

وَالْخَلْقُ فِي خَلْقِ خَلْقِكَ يَا خَالِقُ اللَّهُمَّ يَا مَجِيدُ تَمَجَّدْتَ

اور خالقیت صرف تیری بارگاہ خالقیت کے ہی لائق ہے اے خالق۔ اے اللہ۔ اے مجید۔ تو بزرگی والا ہے

بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ فِي مَجْدِ مَجْدِكَ يَا مَجِيدُ اللَّهُمَّ يَا حَمِيدُ تَحْمَدُكَ

ساتھ ذاتی بزرگی کے اور حقیقی بزرگی صرف تیری ہی بزرگی ہے اے مجید۔ اے اللہ۔ اے حمید۔ تو بہت حمد والا ہے

بِالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ فِي حَمْدِ حَمْدِكَ يَا حَمِيدُ اللَّهُمَّ يَا حَفِيظُ

ساتھ ثنا (خالق) کے۔ اور کامل تعریف و ثنا تیری حمد میں ہے اے حمید۔ اے اللہ۔ اے حفیظ

تَحْفَظُكَ بِالْحِفْظِ وَالْحِفْظُ فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا حَفِيظُ اللَّهُمَّ

تو حفاظت والا ہے ذاتی حفظ کے ساتھ اور حفاظت و امان صرف تیری ہی حفاظت میں ہے اے حفیظ۔ اے اللہ

يَا وَاصِلُ تَوَصَّلْتَ بِالْوَصْلِ وَالْوَصْلُ فِي وَصْلِكَ يَا

اے صاحب وصل۔ تو نے ربط و تعلق پیدا فرمایا (مخلوق کے ساتھ) وصل خاص سے اور حقیقی وصل و ربط تیرے ہی وصل میں ہے

وَاصِلُ اللَّهُمَّ يَا سَلَامٌ تَسَلَّمْتَ بِالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةُ فِي سَلَامَةٍ

اے واصل۔ اے اللہ۔ اے سراسر سلامتی تو سالم ہے ساتھ ذاتی سلامتی کے اور کامل سلامتی تیری ہی بارگاہ سلامت

سَلَامَتِكَ يَا سَلَامٌ اللَّهُمَّ يَا غَفُورٌ تَغْفَرُكَ بِالْغُفْرَانِ وَالْغُفْرَانُ

کے شایان ہے اے سلام۔ اے اللہ۔ اے غفور۔ تو نے بخشنا اپنی مغفرت کاملہ کے ساتھ اور مغفرت کاملہ

فِي غُفْرَانِ غُفْرَانِكَ يَا غَفُورٌ اللَّهُمَّ يَا شَهِيدٌ تَشْهَدُكَ بِالشَّهَادَةِ

صرف تیری بارگاہ غفران کے لائق ہے۔ اے غفور۔ اے اللہ۔ اے شہید۔ تو مطلع ہوا اپنی ذاتی اطلاع کے ساتھ

وَالشَّهَادَةُ فِي شَهَادَةِ شَهَادَتِكَ يَا شَهِيدَ اللَّهِ يَا رَفِيعَ تَرَفَّتْ

اور کامل آگہی صرف تیری شہادت و اطلاع ذاتی کے شایان ہے۔ لے شہید۔ لے اللہ۔ لے رفیع۔ تو بلند مرتبت ہے

بِالرَّفْعَةِ وَالرَّفْعَةُ فِي رَفْعَةٍ رَفَعْتِكَ يَا رَفِيعَ اللَّهِ يَا قَدِيمَ

ذاتی رفعت کے ساتھ۔ اور کامل رفعت صرف تیری بارگاہ رفعت پناہ میں ہی ہے۔ لے رفیع۔ لے اللہ۔ لے قدیم

تَقَدَّمَتْ بِالْقَدَمِ وَالْقَدَمُ فِي قَدَمِ قَدَمِكَ يَا قَدِيمَ اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ

تو مقدم ہے۔ قدم ذاتی کے ساتھ۔ اور اولیت بلا ابتداء صرف تیری بارگاہ قدیم کے لائق ہی ہے۔ لے قدیم۔ لے اللہ

تَغْنَنَّتْ بِالْغِنَى وَالْغِنَى فِي غِنَى غِنَيْكَ يَا غَنِيَّ اللَّهُمَّ يَا رِزَاقِي

لے غنی تو غنی ہے ذاتی استغناء کی وجہ سے۔ اور حقیقی غنی صرف تیری غنا میں ہی ہے۔ لے غنی۔ لے اللہ۔ لے رزاق

تَرْتَرَقْتُ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا رِزَاقِي اللَّهُمَّ

تو نے بہت رزق عطا کیا اپنے رزق سے۔ اور حقیقی رزق صرف تیری بارگاہ رزاقیت میں ہی ہے۔ لے رزاق۔ لے اللہ

يَا صَبُورًا تَصَبَّرْتُ بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرُ فِي صَبْرِ صَبْرِكَ يَا صَبُورًا

لے صبور۔ تو نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر و علم تیری بارگاہ علم ہی کے لائق ہے۔ لے صبور

اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحًا تَفْتَحُتْ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحًا اللَّهُمَّ

لے اللہ۔ لے فتاح۔ تو نے حل فرمایا تمام اشکالات کو اپنی خاص کشائش سے اور حقیقی کشائش تیری ہی کشائش میں ہے۔ لے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا غَفُورًا يَا غَفُورًا يَا غَفُورًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فتاح۔ لے اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا غفور۔ یا غفور۔ یا غفور۔ نہیں معبود برحق مگر تو ہی

يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ كَأَنَّ يَا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ مُحِيطٌ يَا مَنْ هُوَ

لے وہ ذات والا کہ اپنے بلندی مرتبت پر فائز ہے۔ لے وہ ذات حسن کا علم محیط (کائنات) ہے۔ لے کہ اپنی

فِي عِزَّتِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي فِعْلِهِ

برتری و غلبہ میں لطیف ہے۔ لے کہ اپنے لطف و کرم میں شرافت پناہ ہے۔ لے کہ اپنے افعال میں لائق

حَمِيدٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ مُنِيرٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَطَائِهِ كَبِيرٌ يَا مَنْ

حمد و ستائش ہے۔ لے کہ اپنی بزرگی میں ضیاء بخش ہے۔ لے کہ اپنی عطا میں بہت بڑا ہے۔ لے کہ

هُوَ فِي ذَاتِهِ قَدِيمٌ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنی ذات میں قدیم ویسے ابتداء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاهِي النَّبِيَّ النَّجِيبَ النَّجِيدَ اللَّهُمَّ

کی آل پر جو آقا منع کرنے والے ہیں (برائیوں سے)۔ سراپا خیر ہیں (احکام و عیب کی) شریف و بہادر نبی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّجْمِ الثُّدْبِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ فضائل کی طرف بڑھنے والے ستارے

النَّسِيبِ التَّذْيِيرِ النَّعْمَةِ التَّصْيِيرِ التَّقِيْبِ النَّوْجِ النَّوْمِ وَالنُّوْمِ

ہیں عالی نسب۔ ڈرانے والے۔ سراپا نعمت خداوندی۔ مددگار۔ نگران و محافظ۔ پاکیزہ۔ سراپا نور

الْأُمَمِ وَالنُّوْمِ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام امتوں کے نور۔ اور انوار کو نورانی بنانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّجْمِ الثَّاقِبِ وَالنَّاطِقِ بِالْحَقِّ وَالنَّاطِرِ مَنْ

کی آل پر جو آقا کہ روشن ستارے ہیں حق کے ساتھ کلام کرنے والے۔ اور دیکھنے والے ہیں

خَلْفَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

پس پشت لوگوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالتَّوْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو کہ سرخ و سیاہ کے نبی ہیں اور نبی توبہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّاحَةِ وَالرَّحْمَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ نبی راحت و رحمت ہیں اور

الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

رحمت والے نبی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمَلَا حِمٍ وَالْمَلْحَمَةِ وَالْحَرَمَيْنِ وَالزَّمْزَمِ

جو آقا کہ حروب و جہاد اور حرمین و زمزم والے نبی ہیں۔

وَالصَّالِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور فتا فی اللہ کے مقام والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِ الْوَاسِطِ الْوَاسِعِ الْوَاصِلِ الْوَاضِعِ الْوَاعِدِ الْوَاعِظِ

جو آقا کہ مطلوب کو پانے والے۔ واسطہ (انعام خداوندی)۔ وسیع احسان والے (اللہ سے) واصل متواضع۔ وعدہ (جنت) دینے والے نصیحت

الْوَافِي الْوَالِي الْوَجِيهِ الْوَحِيدِ الْوُدُودِ الْوَرِيحِ الْوَسِيْلَةِ الْوَسِيْمِ

فرمانے والے۔ والی و مالک۔ آبرومند۔ یکتائے روزگار۔ بہت محبت کرنے والے۔ سراپا احتیاط و پرہیز۔ وسیلہ خلائق۔ خوب صورت ترین

الْوَصُولِ الْوَصِي الْوَفِي الْوَكِيْلِ الْوَرِي الْوَهَّابِ وَوَلِي الْفَضْلِ

بہت صلہ رحمی کرنے والے۔ وصیت والے۔ کامل جزاء دینے والے۔ کارساز۔ متولی امور اہم۔ بہت عطا کرنے والے۔ مالک فضل و احسان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ ہادی (خلائق) ہیں

الْهَاشِمِيِّ الْهَجُورِ الْهُدَى الْهُمَامِ الْهُيْنِ الْيَثْرِيِّ الْيَسِيْمِ

ہاشمی۔ صاحب ہجرت۔ مجسم ہدایت۔ بلند عزائم والے۔ نرم خو۔ یثرب (مدینہ) والے۔ یکتائے عالم

يَسِّ هَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

یسین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ السَّيْفِ الْمُخَدَّمِ اللَّهُمَّ قَلْدُنِي بِالتَّقْلِيدِ الشَّرِيْفِ

جو آقا کہ مزین تلوار ہیں۔ اے اللہ میرے گلے میں لٹکا مضبوطی کے ساتھ

يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ يَا جَبَّارَ سَيْفِ الْهَيْبَةِ وَالشَّدَّةِ وَالْقُوَّةِ

اے سخت گرفت والے۔ اے جبار ہیبت و شدت اور قوت و

وَالْقُدْرَةِ وَالْمَنْعَةِ مِنْ بَأْسِ الْجَبْرُوتِ وَمَا الْعِزَّةِ وَالنَّصْرِ

قدرت والی تلوار جو محفوظ رکھنے والی ہو جبروتی شدت سے اور عزت و نصرت

إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اضْرِبْ بِخَرْبِ شَدَّةِ الصَّيْفِ الْكَلْبَ

نہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بس سے۔ اے اللہ گم فرما شدید اعراض و روگردانی کی ویرانی کو



وَبَغِيرِیۡهِ النَّفْسِ الْهَلُوۡءِ الْاَلُوۡكِ الْعُرُوۡقِ الْعُرُوۡكِ وَبِهَجْرَةِ

اور غیرت نفسِ حریف کی جو بہت دوسے ڈانسنے والا، نوچنے والا اور جھگڑانے والا ہے اور محرومی و جدائی

الصَّرَاعِ الْاِحْتِنَاكِ وَبِاخْتِلَاطِ الصَّفَعِ الْاِدْرَاكِ وَبِحَوْلَقَةِ الصَّرِیۡعِ

پھیلانے جانے والے اور لگام دے جانے والے کی۔ اور ادراک و شور کے جمود کے اختلاط کو۔ اور پھیلانے والے کیندور

الْفُرُوۡكِ وَبِحَوْلَقَةِ الصُّلَعِ الصُّلَّكِ وَبِعُتْبَةِ الصُّلَاۡءِ الْعُرَاكِ وَ

کی بلا و مصیبت کو۔ اور بوڑھے بے بال کے سروالے اور اٹکتے گھٹنوں والے کی کمزوری کو (دور فرما) ناراضگی پھیلانے والے حملہ آور کی

بُطَّةِ الصَّبۡعِ الشُّوۡكِ وَبِظُلَّةِ الصَّعَاۡصِمِ الْعُنُوۡكِ وَبِفَاۡئِلَةِ

اور بہادروں کے ہتھیاروں کی تیزی کو پراگندہ ریتنے بند ٹیلوں کے تنگ سائبان کو۔ اور ہلاکت

الصُّمۡعِ الْعَكِّ وَبِفَاۡشَةِ الصُّوۡعِ الشَّامِكِ وَبِقُدْرَةِ الصُّنَعِ

گرم مزاج جو شیلے بہادر کی۔ اور احاطہ کر لینے والے حملہ آور کے گھیرے کو۔ اور دستکار مفلس کے

الصُّعُوۡكِ وَبِمِحَبَّةِ رَشِحِ الشَّيۡخِ الظَّالِعِ وَبِوَحْدَةِ الْعَاۡتِكِ

قادر ہونے کو۔ لنگڑے بوڑھے کے چلنے کی محنت کو۔ اور چھیننے والے سخت

لِفَاۡءِ الْمَلَعِ الْعَبِكِ الْعَبِقِ فِي الْوَحْدِ اِنِّيۡةِ الْخَالِصِ وَالْعِرْفَانِ

نیلگوں یا سیاہ و سفید میلے خوشبو دار کبیل کی وحدت و تنہائی کو خالص و حدانیت اور خالص

الْمُخْلِصِ اَعْطِنِيۡكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ لَيْسَ فِي

عرفان میں لے جگہ دینے والے لے قرار بخشنے والے۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ نہیں ہے

الرِّيَّاحِ مَرَّةً وَفِي السَّحَابِ قَطْرَةً وَلَا فِي الْبُرُقِ لَمَعَةٌ وَلَا فِي الرَّعْدِ

آنڈھیوں کا ایک بار چلنا۔ نہ بادلوں میں کوئی قطرہ۔ نہ بجلیوں میں کوئی چمک اور نہ گرج میں

زَجْرَةٌ وَلَا فِي الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ شَيْءٌ وَلَا فِي الْمَلِكِ اِيۡهٌ اِلَّا وَهِيَ

کوئی تنبیہ و سرزنش۔ اور نہ عرش و کرسی میں کوئی شئی اور نہ ملک (کونین) میں کوئی آیت (قدرت) مگر وہ سبھی

اِهْلَةٌ شَهِدَتْ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبُّ الْاَرْضِیۡنِ

ہلال ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے اس امر کی کہ تو ہی اللہ ہے کہ معبود برحق نہیں مگر تو ہی مالک ہے زمینوں کا

وَالسَّهْوَاتِ كَاشِفِ الْكُرُوبِ عَلَامِ الْغُيُوبِ وَمُخْرِجِ الْخُبُوبِ وَ

اور آسمانوں کا۔ رنج و آلام کو دور کرنے والا۔ غیوب کا جاننے والا۔ دانوں کو نکالنے والا اور

مُسْخِرِ الْقُلُوبِ لِمَنْ كَانَ مَهْجُورًا حَتَّىٰ يَعُودَ مَحْبُوبًا بِهَيُوبِ هَيُوبِ

قلوب (خلائق) کو مسخر کرنے والا واسطے محروم التفات لوگوں کے تاکہ وہ ہو جائیں محبوب بطفیل ہیوب ہیوب

بِطُفِ حَفِيٍّ بِسَوْسِمٍ سَوْسِمٍ دَوْسِمٍ حَوْسِمٍ وَبِصَعَصِ صَعَصِ وَ

بطفیل خبر گیری کرنے والے لطف کے۔ بطفیل سوسم سوسم۔ دوسم حوسم کے اور بطفیل صعصع صعصع اور

الْبَهَاءِ وَالنُّورِ الثَّامِ بِسَهْوِ سَهْوِ ذِي الْعِزِّ الشَّامِ

رونق و بہار اور نور کامل کے۔ بطفیل سہوب سہوب کے جو بلند عزت و مرتبت والا ہے

بِطَهْطِهِ لِهَوِّ اذُونَايَ اَحْبَاءِ وَاَلِ شَدَّايَ حَمَحَمِ

بطفیل طہوب ہوب۔ آذونای۔ احباد و آل۔ شداي۔ حمہ حمہ

كَهْوِ كَهْوِ الَّذِي سَخَّرَ كُلَّ شَيْءٍ بِرُكَاةٍ بِرُكَاةٍ اِهْيَا شَرَاهِيَا

کوب کوب کے جس نے مسخر کیا ہر چیز کو بطفیل کاہہ برکاہہ اہیا شراہیا کے اور

سَخَّرَ لِي قُلُوبَ عِبَادِكَ اَجْمَعِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَاَجْدَبُ لِي

مسخر فرما میرے لیے اپنے تمام بندوں کے قلوب کو جنوں اور انسانوں میں سے اور بچھنچ میرے لیے

خَوَاطِرَهُمْ مِنْ تَسْخِيرِ مَحَبَّتِكَ وَلُطْفِكَ وَتَسْأَلُكَ الْعِصْبَةَ فِي

ان کے دلوں کو اپنی محبت کی تسخیر اور اپنے لطف سے اور سوال کرتے ہیں تجھ سے عصمت کا

الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنْ

تمام حرکات و سکانات اور کلمات و ارادات اور خواطر قلبیہ میں

الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوبِ عَنِ مَطَالَعَةِ الْغُيُوبِ

تمام ظنون۔ شکوک اور اوہام سے جو دلوں پر پردے ڈالنے والے ہیں غیوب کے مطالعے سے

فَقَدْ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَاذِ يَقُولُ الْمُسَافِقُونَ

یس تحقیق آزمائے گئے ایمان والے اور جھنجھوڑے گئے جسے کہ جھنجھوڑے کا حق تھا اور جبکہ کہیں گے منافق اور

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللَّهُمَّ

وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نہیں وعدہ دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کیلئے۔ اے اللہ

لَا تَغْضَبْ عَلَيْنَا وَسَهِّلْ لَنَا طَرِيقًا بَيْنَنَا لِمَا قَدْ نَطَلْبُهُ مِنْكَ يَا رَبِّ

ناراض نہ ہونا ہم پر اور ہمارے لیے آسان فرما واضح راستہ کو طرف اس امر کے جسے ہم طلب کرتے ہیں تجھ سے اے رب

الْعَالَمِينَ هُوَ وَاحِبٌ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ وَمَانِعٍ وَحَاسِدٍ وَبَاغِضٍ

العالمین اور روک ہم سے ہر قطع کرنے والے اور منع کرنے والے اور حسد و بغض رکھنے والے کو

مِنَ الْخَلْقِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ

ساری مخلوق میں سے (بالعموم) اور جن و انس وغیرہ میں سے (بالخصوص) اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ اور اس کی ذات اقدس کے ساتھ

وَالِي اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ

اسی کی طرف اور اسی کی طرف اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے کہ مومنین توکل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ

عَلَى اللَّهِ تَوَجَّهْتُ إِلَى اللَّهِ فَوَضَّتْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِحْتَسَبْتُ

پر توکل کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میں نے اپنے ہر معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ میں نے ثواب کی

بِاللَّهِ وَتَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ اسْتَعْنَيْتُ بِاللَّهِ اسْتَفْتَيْتُ بِاللَّهِ

امید اللہ تعالیٰ سے رکھی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ و حفاظت حاصل کی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد و رسی چاہی ہے۔ میں نے اسی

اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ اسْتَنْصَرْتُ بِاللَّهِ اِعْتَضَمْتُ بِاللَّهِ اِقْسَمْتُ

عنا طلب کی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عصمت حاصل کی ہے۔ میں نے اللہ سے نصرت طلب کی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے عظمت طلب کی ہے میں نے

بِاللَّهِ الْجِدْرُ بِاللَّهِ الْقُرْآنُ بِاللَّهِ الْحَوْلُ بِاللَّهِ الْقُوَّةُ بِاللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ قسم کھانی ہے۔ حفظ و امان اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ صفائی اور نظہیر اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے۔ پھرنا و نصرت اللہ تعالیٰ کے

اِقْسَمْتُ وَعَظَمْتُ عَلَيْكُمَا يَا رِزْغِ خَيْلٍ يَا غِيْشِفَيْلٍ بِحَقِّ

ذریعے ہے اور قوت نیکی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں تمہیں (اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اور اس کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں) اے رزغ خیل اے غیشفیل بطفیل حق

طَلِسْمِ الْأَعْظَمِ يَا وَهَّابُ أَنْتَ تَهَبُ الْجَزِيلَ وَتُعْطِي

اسم اعظم کے طلسم کے، اے عطا کرنے والے تو ہی بخشتا ہے بہت بڑی نعمتیں اور عطا کرتا ہے

الْجَلِيلِ وَتَهْدِي عِبَادَكَ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جلیل انعامات اور ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو دار سعادت کی طرف۔ ساتھ نام اللہ سبحانہ

الْبَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بصیر کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی ہر شئی کو ہمیشہ کے لیے جانتے والا ہے۔ ساتھ نام اللہ

الْخَالِقِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خالق علیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی (مشکلات کو) حل کرنے والا، دائمی علم والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْغَنِيُّ

ساتھ نام اللہ سمیع وعلیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی غنی

الْقَدِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

قدر ہے۔ ساتھ نام اللہ عزیز کریم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

غالب، کرم والا ہے، ساتھ نام اللہ سمیع وعلیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ

وہی باطن اور ظاہر کی خیر رکھنے والا ہے۔ ساتھ نام اللہ عزیز رحیم کے جس کی مانند

شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی شئی نہیں ہے وہی غالب (اور) بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو

خَطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى الْأَحَادِيَةِ الْوَاحِدَةِ

آقا کہ قاب قوسین او ادنیٰ (قوس و جوب اور قوس امکان) کے درمیان خط وحدت، احدیت اور واحدیت و

الْوَحْدَانِيَّةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

واحدانیت ہیں۔ فرمادیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا۔ (کسی کو) اور نہ وہ جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہم پایہ اور ہم پلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
كَمَدِينِ بَابِ نِعْمَتِ افْتِرَاقِ نَفْضِ
الْحَمْدِ لِلّٰهِ الْمُتَمِّمِ

ایزومنان تحفہ عجائب و صدیہ غرائب الی اللہ
مقبول یا رکاب شاہ کونین حضرت سید محمد
مُسَمَّیٰ بِہ

مجموعۃ الرسائل

الجزء الثامن ۸

فِی سِیَادَتِهِ وَسِیْدِهِ ﷺ

از تصنیف جناب مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

حضرت خواجہ نورجان محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَكْرَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَبِأَعَمِّ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بزرگترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل عامترین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَبِأَدْوَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل استثنائی دائم اور باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لِكَ یَوْمِ

سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے ایسے ہیں۔ جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک ہے روز

الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

جزا کا۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے طلبگار توفیق ہیں ہمیں چلا راہ

المُسْتَقِیْمِ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ

راست پر (جو) راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی راہ پر جن پر غضب

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ النَّبِیِّیْنَ وَ

جو تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اور صلوٰۃ و سلام بھیج تمام انبیاء کے سردار محمد پر

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُسْلِمِیْنَ

اور صلوٰۃ بھیج مومنین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج تمام اہل اسلام کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُتَّقِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصَّالِحِیْنَ

اور صلوٰۃ بھیج متقین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج صالحین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُصْلِحِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصَّادِقِیْنَ

اور صلوٰۃ بھیج مصلحین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج صادقین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَصْدِ قَيْنِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سب تصدیق کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سردار ہیں

الصَّابِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تمام صابریں کے اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو تمام شہادت دینے والوں کے سردار ہیں اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر

سَيِّدِ الْمَشْهُودِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُرَابِطِينَ وَصَلِّ عَلَى

جو سردار ہیں گواہ بنائے جانے والوں کے اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سرحداۃ اسلام کے محافظین کے سردار ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَجِّينِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُلُجِينَ وَصَلِّ

نجات دلانے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج کامرانوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج (دعوت)

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُرْجِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ

قبول کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج زاہدین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

اور صلوٰۃ بھیج تائبین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج ارباب خوف خداوندی کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِيْنَ

اور صلوٰۃ بھیج مہربانی سے پیش آنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج (خوف خداوندی سے) رونے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّكَعِينَ

اور صلوٰۃ بھیج (نمازوں میں) قیام کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج رکوع کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَصِلِينَ

اور صلوٰۃ بھیج سجدہ کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج نمازیوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَارِئِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِلِينَ

اور صلوٰۃ بھیج قراءت کرنے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج فقہ کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزْهَدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُرَابِطِينَ

اور صلوٰۃ بھیج بہت بڑے زاہدین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج ارباب یقین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِعِينَ

اور صلوٰۃ بھیج مناجات کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج ارباب قناعت کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ

اور صلوٰۃ بھیج حافظوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج حمد کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاطِرِينَ

اور صلوٰۃ بھیج مرشدین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج نگرانوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَارِكِينَ

اور صلوٰۃ بھیج (قرنفس کے لیے) بھوکے رہنے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج ارباب برکت کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْحِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِينَ

اور صلوٰۃ بھیج موحدین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج قبول کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاصِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ

اور صلوٰۃ بھیج ناصرین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج غلبہ پانے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّافِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِينَ

اور صلوٰۃ بھیج ارباب ظفر کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج وارثین کے سردار محمد پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَى الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا و مولانا اور مولائے کائنات محمد پر

عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ

قرآن مجید کی آیات کے حرف حرف کی گنتی کے مطابق اور آپ کی آل کرام پر۔ اصحاب عظام

وَسَادَاتِهِ الْفَخَامِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي بِنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

اور سادات معظمین پر اور کامل سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ بنادے مجھے بطفیل اپنے نبی و رسول کے جو

سَيِّدِ الْخَلْقِ بِسَيَادَتِكَ عَلَيْهِمْ وَبِسَيَادَاتِ مُطِيعًا

سب مخلوق کے سردار ہیں بسبب تیری سیادت کے ان سب پر اور بطفیل سید السادات کے فرمانبردار اور

وَأَجْعَلِنِي صَبُورًا شَكُورًا وَأَجْعَلِنِي مِمَّنْ يَذُكُرُكَ ذِكْرًا كَرِيمًا

بنا دے مجھے بہت صابر و شاکر اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو تیرا بہت ذکر کرتے ہیں اور

يَسْبِحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری تسبیح کرنے میں صبح و شام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِينَ وَالرَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو سب زاہدین اور عارفین کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبِقَاتِ حَيِّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں فیصلے کرنیوالوں اور

وَالْمُبَشِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشارت دینے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْمَقْبُولِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جو آقا سردار ہیں مقربین اور مقبولین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنِيِّينَ وَالْبَتِّيِّينَ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اہل انابت (رجوع الی اللہ) اور بیٹیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِ الْقَائِمِينَ وَالْحَافِظِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو سردار ہیں اہل قیام اور حافظوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَالْمُقَاصِدِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب جہان والوں اور ناصرین کے سردار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِ الْحَامِلِينَ وَالْخَاشِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا سردار ہیں حاملینِ روحی کے اور اربابِ خشوع کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَرِّ وَوَقِينِ وَالرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو سردار ہیں رزق دے ہوؤں اور راہِ راست پانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِعِينَ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں (اللہ کی طرف) رغبت رکھنے والوں

وَالْمَجْتَبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور منتخب حضرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سردار

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّائِعِينَ وَالْعَابِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ہیں رکوع کرنے والوں اور عبادت گزاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْذَّاكِرِينَ وَالْمَسْعُودِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اربابِ ذکر اور سعادت مندوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَطْمَرِينَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اربابِ تطہیر و

وَالظَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنْ مَّحَبَّةِ الدُّنْيَا قُلُوبَنَا وَبَصِّرْ عِيُونََنَا

اصحابِ طہارت کے۔ اے اللہ پاک فرما دنیاوی محبت سے ہمارے قلوب کو اور دکھلا ہمارے عیوب

فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ تَرَيَنَّ ظَوَاهِرَنَا بِطَاعَتِكَ وَبِوِاطِنَا بِخَشْيَتِكَ

ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ مزین فرما ہمارے ظاہر کو اپنی اطاعت کے ساتھ اور ہمارے باطن کو اپنی خشیت

وَمَعْرِفَتِكَ اللَّهُمَّ صَغِرِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِنَا وَأَعْظِمِ جَلَالَكَ فِي

اور معرفت کے ساتھ۔ اے اللہ حقیر بنا دے دنیا کو ہماری نظروں میں اور عظیم بنا دے اپنے جلال کو

قُلُوبِنَا بِحُرْمَتِ رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَإِلَّاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

ہمارے قلوب میں بطفیلِ حرمت کے اے رب ہمارے ہمیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لیگئے ایمان کے ساتھ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اور نہ پیدا فرما ہمارے دلوں میں کینہ اہل ایمان کے لیے اے ہمارے پروردگار بیشک تو بہت رؤفت و رحمت والا ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بطفیہ تیری رحمت کے لیے سب زیادہ رحمت فرمانے والے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الصَّائِمِينَ وَالْغَائِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزہ داروں کے سردار ہیں اور تمام باقی رہنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمُصَدِّقِينَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو ارباب اجتہاد و اصحاب تصدیق کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ارباب

السَّالِمِينَ وَالْبَطِيعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سلامت اور اطاعت گزاروں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفِقِينَ وَالْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو سردار ہیں شفقت فرمانے والوں کے اور تمام مخلوق کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَصِدِينَ وَالْجَائِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو آقا درمیانہ رو لوگوں اور (قرنفس کی خاطر) بھوکے رہنے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَدِّينَ وَ

و سلام نازل فرما مرشدین و مبارک لوگوں کے سردار محمد پر اور

الْمُبَارَكِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کی آل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّالِمِيْنَ وَالْمُظَفَّرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ظفر مند اور ارباب ظفر کے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِيْنَ وَالسَّارِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور آل محمد پر جو قبولہ کرنے والوں اور سیاحت والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُوَافِقِيْنَ وَالْمُؤَرِّدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

موافقت کرنے والوں کے اور وارو کئے جانے والوں کے (جو حق کو ٹر پر) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ وَالْمَذْكُوْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں ذکر خداوند کرنے والوں اور ذکر کئے جانے والوں کے۔ اے اللہ

اجْعَلْ اَلْسِنَتَنَا رَطْبًا يَدْكُوكُ وَنَفْسَنَا مُطِيعَةً لِاَمْرِكَ وَقُلُوْبَنَا

ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھ اور ہمارے نفوس کو اپنے حکم کا فرمانبردار بنا۔ اور ہمارے قلوب کو

مَمْلُوْةً لِّمَعْرِفَتِكَ وَاَرْوَاحَنَا مَكْرَمَةً بِشَاهِدَتِكَ وَاَسْرَارَنَا

اپنی معرفت سے بھر پور فرما۔ اور ہماری روحوں کو اپنے مشاہدہ سے مشرف فرما اور ہمارے اسرار و بواطن کو

مُنْعِمَةً بِقُرْبِكَ وَاَرْزُقْنَا زُهْدًا فِيْ دُنْيَاكَ وَمَزِيْدًا لِّدِيْنِكَ اِنَّكَ

اپنے قرب خاص سے نعمت یافتہ بنا۔ اور ہمیں اپنی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما۔ اور اپنے ہاں مزید انعامات عطا فرما۔ بیشک تو

عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہر چیز پر ہمیشہ کے لیے قدرت والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر جو آقا (احکام خداوند) قبول کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَاقِلِينَ وَالْمُتَعَدِّينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ارباب عقل و دانش اور عبادت گزاروں کے سردار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُحْرِضِينَ وَالْمُقْتَرِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ترغیب دینے والوں اور قرب پانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسِيحِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا مسیح کہنے والوں اور (قرآن کو) خوش اسلوبی سے پڑھنے والوں کے سردار ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمَأْمُولِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امید دلائے ہوئے لوگوں کے اور ارباب تحقیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِينَ وَالرَّاكِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں دعا کرنے والوں اور صالحین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِينَ وَالْمُحَطِّبِينَ

و سلام نازل فرما سابقین اور عظیم تر لوگوں کے سردار محمد پر اور ان کی آل پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو آقا کے سردار ہیں ارباب توفیق

وَالْعَافِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اور درگزر کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو آقا

الْمَبْتُولِينَ وَالْمَحْرُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سردار ہیں ارباب تجرید اور معصومین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ وَالْمُتَبَتِّلِينَ وَالْمُتَوَاضِعِينَ اللَّهُمَّ

جو آقا سردار ہیں ارباب تنزیل۔ اصحاب تجرید اور ارباب تواضع کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَكِّرِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اہل تفکر

وَالْمُبْجَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور اہل تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

وَالْمُتَوَسِّمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارباب فراست کے اور مہاجرین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُظْهَرِيِّينَ وَالْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں مظاہر تجلیات اللہ کے اور مغفرت سے کام لینے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْرُهِنِيِّينَ وَالسَّابِحِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں ارباب براہین اور اصحاب تسبیح کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں ارباب عفت اور

الْمَرْضِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

پسندیدگان بارگاہ الوہیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں

الْمَادِحِينَ وَالْأَرْفَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مدح کرنے والوں کے اور ارباب رفعت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَبِّرِينَ وَالْمُنْشِئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو آقا کہ سردار ہیں اصحاب تدبیر کے اور دستور حیات وضع کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اصحاب رجا و امید کے اور امید لانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَرِّعِينَ وَالْمَعْرُوفِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل تقویٰ و احتیاط کے اور مشہور لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَدِيِّينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ہدایت یافتگان کے

وَالْمُقْتَبِسِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور الوار کا استفادہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُخْبِرِينَ وَالْمُفْضِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارباب بصیرت کے اور اہل فضیلت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَهْلِيِّينَ وَالْعَاكِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو سردار ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے اور متکفین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِظِينَ وَالْمُشَاهِدِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب فوقیت اور اہل شہود کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں صدقہ دینے والوں کے اور

الْمُخْتَارِينَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِكَ وَبِخَلْعَةِ وَصَالِكَ

پسندیدگان حضرت حق کے۔ اے اللہ ہمیں مشرف فرما اپنے جمال کے مشاہدہ اور اپنے وصال کی خلعت کے ساتھ

وَأَرْضُنَا نِعْمَةَ لِقَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور ہمیں عطا فرما اپنی ملاقات کی نعمت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَاضِرِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو سردار ہیں سابقین کے اور ارباب طہارت کاملہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْلُوفِينَ وَالْمُدَقِّقِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو باہم الفت پیدا کرنے والوں اور ارباب تدقیق کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَفْلُوحِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اہل نفلح کے سردار اور

وَالْمَسَاكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

مساکین کے حاجت روا پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُسْتَجِيرِينَ وَالْمُخَيَّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللہ تعالیٰ کی اپنا ہ حاصل کرنے والوں کے اور ارباب خیرات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ

محمد پر جو سردار ہیں اہل توبہ کے۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں ہر اس گناہ کے لیے

النِّسْيَانَ لِيَذْكُرَكَ أَوْ يَعْقِبُ الْغَفْلَةَ عَنْ تَحْذِيرِكَ وَيَتِمَّ أَدَى

جو موجب ہو تیرے ذکر کے بھولنے کا یا انجام کار غفلت لانے والا ہو تیرے ڈرانے اور تخریف سے اور مجھے لے جانے والا

بَنِي إِلَى الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِكَ وَيُؤَسِّنِي مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَلِكُلِّ

ہو تیری خفیہ تدبیر سے بے خوفی کی طرف اور مجھے باؤس کرنے والا ہو تیری خیرات سے اور ہر اس گناہ

ذَنْبٍ لِحَقَّتْ بِي سَبَبِ عَتَبِي عَلَيْكَ فِي أَحْبَابِ الرِّزْقِ عَلَى

کے لیے جو مجھے لاحق ہوا بسبب میری ناراضگی کے تیرے رزق روکنے پر مجھ سے

وَشِكَايَتِي مِنْكَ وَإِعْرَاضِي عَنْكَ وَمِيلِي إِلَى عِبَادِكَ بِالْإِسْتِكَانَةِ

اور تجھ سے شکایت کے اور روگردانی کے تجھ سے اور رغبت کرنے کے طرف تیرے بندوں کے اور

لَهُمُ وَالْتَضَرُّعُ إِلَيْهِمْ وَقَدْ أَسْعَتَنِي قَوْلُكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ

ان کے سامنے مسکنت کے اظہار اور زاری و انکساری کے حالانکہ تو نے مجھے سنا دیا تھا اپنا یہ فرمان اپنی محکم کتاب میں

فَمَا اسْتَكَانُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَزِمَنِي

”جیسی نہ مسکنت ظاہر کی انہوں نے اپنے پروردگار کے لیے اور نہیں زاری کرتے“ اور ہر اس گناہ کے لیے جو مجھے لازم ہوا

بِسَبَبِ كُرْبَةٍ اسْتَعْتْتُ عِنْدَهَا بِغَيْرِكَ وَاسْتَعْنْتُ عَلَيْهَا بِمَوَالِكِ

بسبب اس تنگی و زحمت کے جس پر استغاثہ کیا تیرے اعتبار کے ساتھ اور استعانت کی تیرے ماسوا کے ساتھ

وَاسْتَمَدْتُ بِأَحَدٍ فِيهَا دُونَكَ اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنَا مَكَرَكَ وَلَا تَنْسِنَا

اور توفیق و اعانت طلب کی اس میں کسی بھی شخص سے تجھ سے تجاوز کرتے ہوئے۔ اے اللہ ہمیں نہ بے خوف کر اپنی خفیہ تدبیر سے

ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ اللَّهُمَّ

اور نہ بھلا ہمیں اپنا ذکر اور نہ پھاڑ ہم پر سے اپنا پردہ اور نہ داخل فرما ہمیں غافلوں میں۔ اے اللہ

اجْعَلْ سِرِّي رَاقِي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً

بنامیرے باطن کو بہتر میرے ظاہر سے اور بنا دے میرے ظاہر کو نیک۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ عِبَادِكَ الْمُخْبِتِينَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَالْوَفِيَّ

اے اللہ بنا ہمیں اپنے ان بندوں سے جو فروتنی و انکساری والے ہیں، روشن چہروں، نورانی اعضاء والے اور قبولیت

الْمُتَّقِبِلِينَ اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَأَعِزُّ مِرِّي عَلَى أَرْشِدِ أَمْرِي

پانے والے وفد ہیں۔ اے اللہ مجھے بچا شر نفس سے اور مجھے عزیمت بخش درست ترین امر پر

اللَّهُمَّ لَا تَكْلِفْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَلَاحَ

اے اللہ نہ سونپ مجھے میرے نفس کی طرف آنکھ چھیننے کی دیر اور نہ سلب فرما مجھ سے اچھی نعمت

مَا أَعْطَيْتَنِي فَإِنَّهُ لَا تَارِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَعْصِمُ ذَلِكَ مَوْلَاكَ

جو تو نے عطا فرمایا کیونکہ نہیں چھیننے والا کوئی اسے جو تو عطا کرے اور نہیں بچا سکتا کسی بخت و اقبال والے کو تجھ سے اس کا

الْجَدُّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبَلْ مَعْنِي بِرَأْفَتِكَ

بخت و اقبال۔ اے اللہ بیشک تو جانتا ہے میرے باطن اور ظاہر کو پس قبول فرما میری معذرت کو۔ اور

تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤَالِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَعْفِرْ لِي

تو جانتا میری حاجت پس عطا فرما مجھے میرا مطلوب اور تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے پس میرے

ذُنُوبِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

گناہ بخش اور مجھ پر رحم فرما اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَقِنِينَ وَالْمُرِيدِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب یقین اور اہل ارادت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَفِيثِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں فریاد رسی اور

الْمُسْتَعِينِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

مدد طلب کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَحَابِّينَ وَالْمُتَحَابِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں مقام حیرت والوں کے اور باہمی محبت والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجْتَبِينَ وَالْمُصْلِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں رکن و بد عملی سے دور کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَدِّبِينَ وَالْمُكَبِّرِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں آداب سکھانے والوں کے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْتَصِمِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل عصمت کے اور راہ خدا

وَالْمُبَارِزِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

میں آرمگاہ کی طعن نکلنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاطِرِينَ وَالْمُسْتَبْشِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

پر جو آقا سردار ہیں (اخفاق حق کے لیے) مناظرہ کرنے والوں کے اور اہل بشارت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مفسرین کے اور نیکو کاروں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْصِنِينَ وَالْمُجْتَبِينَ

صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پاکبازوں کے اور پسندیدگان حضرت حق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ الْمُرْسَلِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں متکلمین کے

وَالْبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور ارباب بیان و تشریح کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جنت کی بشارت دینے والوں اور دوزخ سے ڈرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْسِطِينَ وَالْمُوحِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں اہل انصاف کے اور موحدین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَتَّبِعِينَ وَالْمُجَلِّينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں اہل اتباع کے اور نورانی اعضاء والوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُقَدْحِيِّينَ وَالْمُتَهَلِّلِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل فلاح اور ارباب تہلیل کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسِيحِيِّينَ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب مسیح اور

الْمُحَقِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اصحاب تحقیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُتَحَقِّقِينَ وَالْمُتَهَجِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مقام تحقیق پر فائز لوگوں اور شب بیداروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ وَالْمُسَجِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر جو سردار ہیں پشت پناہی کرنے والوں اور بزرگی خالق بیان کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں حج و عمرہ میں بالوں کے اقص اور حلق کرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَرَّمِينَ وَالْمُعْبَدِينَ

سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں احرام والوں اور بہت عبادت گزاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُتْشَهَدِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں شہادت توحید دینے والوں

وَالْمُسْتَشْهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے اور گواہ بنائے جانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو سردار ہیں اہل تقویٰ اور ارباب احسان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِينَ وَالْبُصَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں (راہ خداوند تعالیٰ میں) خرچ کرنے والوں کے اور نمازیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدَّسِينَ وَالْمُؤْتَكِفِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنیوالوں اور اس کی آتش عشق میں جلنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُجَيْرِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل جرأت کے

وَالْمُعْظَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اور ارباب تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُبْلَغِينَ وَالْمُقَابِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں تبلیغ کرنے والوں کے اور مقابلہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِينَ وَالْمُعْرِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل اخلاص کے اور (حق کی) پہچان کرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَارِكِينَ وَالْمُبَلِّغِينَ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل برکت کے اور زاری کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلَائِكَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تلبیہ کہنے والوں کے اور

الْمُسْتَأَقِينَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

شوق رکھنے والوں کے رب العالمین کی ملاقات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرَّاقِبِينَ وَالْمَرَّاقِبِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں رفیق و مدارات والوں کے اور نگہبانوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْصِفِينَ وَالْمُنْصِفِينَ

صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں منصفین کے اور نجات دلائیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِبِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مناجات والوں کے اور

الْمُعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

عرفان والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُرِيحِينَ وَالْمُنْعِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

راحت رسانوں اور انعام بخشنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسِيرِينَ وَالْمَسِيرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں کارسازوں کے اور رہائی دلانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَجَلِّينَ وَالْمُتَجَلِّينَ

سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں نورانی لوگوں کے اور اعلان حق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُحْرِضِينَ وَالْمُفْرِحِينَ اللَّهُمَّ تَبَتَّنِي

آمادہ اطاعت کرنے والوں کے اور فرحت بخشنے والوں کے۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ پھسلنے سے اور ہدایت پر رکھ

أَنْ أَضِلَّ اللَّهُمَّ كَمَا حُلَّتْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي فَحُلْ بَيْنِي

تاکہ گمراہ نہ ہو سکوں۔ اے اللہ جیسے تو حائل ہوا درمیان میرے اور میرے دل کے پس حائل ہو درمیان میرے

وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ

اور درمیان شیطان اور اس کے عمل کے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اپنے فضل سے اور

لَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِمَا رِزْقَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا فِي

محروم نہ فرما اپنے رزق سے اور برکت دے ہمارے لیے اس میں جو تو نے عطا فرمایا اور پیدا فرما ہمارے لیے غنا کو ہمارے

أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيهَا عِنْدَكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ

نفوس میں اور بنا ہماری رغبت صرف اس میں جو تیرے پاس ہے۔ اے اللہ بیشک تو نے مطالبہ کیا ہم سے

أَنْفُسِنَا مَا لَا نَبْلُكُهُ إِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يَرْضِيكَ عَنَّا اللَّهُمَّ

ہمارے نفوس کے ان افعال کا جو ہمارے ملک میں نہیں ہیں مگر ساتھ تیری توفیق کے پس عطا فرما ہمیں ان سے وہ قدرت و طاقت جو تجھے ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَتُّ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ

میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی پھر اس کی طرف رجوع کیا اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں

لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤْفِكْ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ

اس عہد سے جو میں نے دیا پھر اس کے ساتھ وفانہ کی۔ اور استغفار کرتا ہوں

لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ

ان نعمتوں کی وجہ سے جن سے میں نے تقویت حاصل کی تیری معصیت پر اور استغفار کرتا ہوں تجھ سے واسطے ہر اس خیر کے

أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي

جس کے ساتھ میں نے تیری رضا مندی کا قصد کیا پس شامل ہو گیا اس میں وہ قصد جو تیرے لیے نہیں تھا۔ اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما

فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبُنِي فَإِنَّكَ عَلِيمٌ قَادِرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

بیشک تو میرے متعلق جاننے والا ہے اور مجھے عذاب نہ دے پس تحقیق تو مجھ پر قادر ہے۔ اے اللہ تو بنا دے مجھے

مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَاكْفَيْتَهُ وَأَسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَأَسْتَنْصِرُكَ

اپنے اوپر توکل کرنے والوں سے جنہیں تو نے کفایت فرمائی اور تجھ سے طالب ہدایت ہوئے پس تو نے انہیں ہدایت دی اور تجھ سے نصرت طلب کی

فَنَصْرَتَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي خَشِيَّتَكَ وَذِكْرَكَ

پس تو نے انہیں نصرت دی۔ اے اللہ تبدیل فرما میرے قلبی وسوسوں کو اپنی خشیت اور ذکر سے۔ اور بنا دے

اجْعَلْ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيهَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ وَابْتَلِيَّتِي

میری ہمت اور خواہش کو ان امور میں جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اے اللہ اور تو نے آزمائش میں ڈالا مجھے

بِهِ مِنْ شَرِّ خَائِفٍ وَشِدَّةٍ فَمَسْكِنِي بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ

جس فراموشی اور تنگی کے ساتھ تو روکے رکھ مجھے سنت حق کے ساتھ اور شریعت اسلام کے ساتھ۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے محبوب اور پسندیدہ عمل و قول اور فعل و

وَالنِّيَّةِ وَالهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

نیت اور ہدایت کی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْبَلْبِيسِيِّنَ وَالْمُنْظِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لباس پہنانے والوں اور ایک لڑی میں پرونے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْتَمِلِينَ وَالْمُسْكِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو سردار ہیں پائیدار عزت والوں اور اقتدار بخشنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَمَكِّنِينَ وَالْمُبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب اقتدار کے اور اہل بیان و توضیح کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَبَسِّبِينَ وَ

صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تبسم فرمانے والوں کے اور

الْمُبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

روشن و نورانی لوگوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُتَفَرِّعِينَ وَالْمُسَلِّحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بلند مرتبت لوگوں کے اور شہریں گفاروں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور

إِلٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَيَّدِيْنَ وَالْمُرْمَلِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں درستی و اصلاح کرنے والوں کے اور کبیل پوشوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُدْتَرِيْنَ وَالْبَصَافِحِيْنَ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں چادر اوڑھنے والوں اور مصافحہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُتْفَاخِرِيْنَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل بخرو

وَالْبَهَارِحِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

ناز کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِيْنَ وَالْبُعَاهِدِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جو سردار ہیں مقابلہ کرنے والوں کے اور معاہدہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ اللَّهُمَّ ارِنِي

محمد پر اور آل محمد پر جو استغفار کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ میں تجھ

أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِكَ أَوْ

سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس پر آمادہ کیا مجھے غیر اللہ کے خوف نے یا

دَعَانِي إِلَى التَّضَرُّعِ لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتِهَالِنِي إِلَىٰ

دعوت دی اس نے زاری کی کسی بھی مخلوق کی طرف یا مائل کیا مجھے طرف

الطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَ غَيْرِكَ فَأَثَرْتُ طَاعَتَهُ فِي مَعْصِيَتِكَ

طمع و لالچ کے ان اشیاء میں جو تیرے غیر کے پاس ہیں پس میں نے تریج دی اس کی اطاعت کو تیری معصیت میں

اسْتَجْلِبُ بِأَلْيَابِي فِي يَدَيْهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِي إِلَيْكَ لِمَا لَا

واسطے حاصل کرنے اس چیز کے جو اس کے ہاتھوں میں تھی حالانکہ میں جانتا ہوں اپنی محتاجی کو طرف تیرے ایسے امور میں کہ نہیں

غَنِي لِي عَنْكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ مَّثَلْتُ لِي نَفْسِي اسْتِقْلَالَهُ وَ

بے نیازی میرے لیے تجھ سے ان میں اور ہر اس گناہ کی کہ مزین کیا میرے لیے نفس نے اس کی قلت کو اور

صَوَّرَتْ لِي إِسْتِصْفَارًا وَقَلَّتْهُ حَتَّى وَرَّطَنِي فِيهِ وَرَأَى

متصور کیا اس کی ضرورت و حاجت کو اور اسے حقیر قرار دیا حتی کہ اس ہلاکت و بھنور میں ڈال دیا اور سر

ذَنْبٍ جَرَى بِهِ قَلْبُكَ وَأَخَاطِبُهُ عَلَيْكَ فَوَيْلٌ لِي إِلَىٰ آخِرِ

اس گناہ کے لیے کہ جاری ہوا ساتھ اس کے تیرا قلم تقدیر اور محیط ہے اسے تیرا علم ازلی جو متعلق ہے میری عمر کے

عُمُرِي وَلِجَمِيعِ ذُنُوبِي كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا عَمْدًا وَخَطَايَا

آخری حصے تک اور اپنے تمام گناہوں اول و آخر اور عمد و خطا کے لیے

قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا قَدِيرِهَا

قلیل و کثیر، صغیر و کبیر، باریک و بڑے، پرانے اور نئے

حَدِيثِهَا سِرِّهَا وَجَهْرِهَا خَفِيَّتِهَا وَعَلَانِيَّتِهَا وَلِمَا أَنَا مُذْنِبٌ

سری اور جہری خفیہ اور علانیہ کے لیے اور ان تمام گناہوں کے لیے جن کا میں مرتکب ہو سکتا ہوں

فِي جَمِيعِ عُمُرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ

اپنی تمام عمر میں - اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور

قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّسِبِعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

اس دل سے جو خشوع نہ کرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برائی والے دن سے اور رات سے اور

سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي مَطَلَعِ

بری ساعت سے اور بڑے ساتھی سے اور بڑے پڑوسی سے دار اقامت

الْبَقَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُقِيمِينَ وَالْمُرْدِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

اقامت گزرنوں کے اور پیچھے سوار کرنے والوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور

اَلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَسِبِينَ وَالْمُفْتُونِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں نصیب پانے والوں کے اور محبوب حقیقی کی محنت کے مفتونین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَبْعِينَ وَالْمُرْهَنِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں غور سے سننے والوں کے اور رہن رکھنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْفِرِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں روشن و نورانی لوگوں کے

وَالْمُسْكِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ

اور دست گیری کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَوَكِّلِينَ وَالْمُعْتَكِفِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں اہل توکل اور ارباب اعتکاف کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ اَللّٰهُمَّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں متقدمین کے اور متاخرین کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَبِّلِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں بردباروں کے اور

الْمُسْتَعِدِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ

مستعد لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْبَطِيعِينَ وَالْبَصِيرِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں اہل طاعت کے اور ارباب بصیرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْتَبِينَ وَالْمُتَدَيِّنِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل فتویٰ کے اور ارباب دین و مذہب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفَعِينَ اَللّٰهُمَّ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِحِيلَةٍ تُدْنِي مِنِّي

میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر اس گناہ کے لیے جس پر میں نے استعانت کی ایسے حیلہ سے جو قریب کرتا ہے

غَضَبِكَ أَوْ اسْتَظْهَرْتُهَا لِنَيْدِهِ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَوْ اسْلَبْتُ

تیرے غضب کے یا میں نے غلبہ حاصل کیا اس پر اس گناہ کے پانے میں تیرے اہل طاعت پر یا حوالے کیا

بِهَا أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ إِلَى مَعْصِيَتِكَ أَوْ رَمْتَهُ وَرَأَيْتُ بِهِ عِبَادَكَ

اس حیلہ سے کسی بھی مخلوق کو طرف تیری معصیت کے یا میں نے اس گناہ کا قصد کیا اور تیرے بندوں سے ریاکاری

أَوْ لَبَّسْتُ عَلَيْهِمْ بِفَعَالِي كَأَنِّي بِحِيلَتِي أُرِيدُكَ وَالْمُرَادُ بِهِ

کی یا ان پر اشتباہ پیدا کیا اپنے افعال کے ذریعے گویا کہ میں اپنے حیلہ سے تیری رضا کا ارادہ رکھتا ہوں حالانکہ میری مراد

مَعْصِيَتِكَ وَالْهَوَىٰ مُنْصَرَفٌ بِئِي عَنْ طَاعَتِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیری معصیت اور خواہش نفس مجھے پھیرنے والی ہے تیری طاعت سے۔ اور واسطے ہر اس گناہ کے

كَتَبْتَهُ عَلَى سَبَبٍ عَجَبٍ كَانَ مِنِّي بِنَفْسِي أَوْ بِرِيَاءٍ أَوْ سَعَةٍ

جو تو نے لکھا مجھ پر بسبب میرے فخر و ناز کے ساتھ اپنے نفس کے یا ریاکاری یا شہرت

أَوْ حَقْدٍ أَوْ شَحْنَاءٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ خِيَلَاءٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ مَرَجٍ أَوْ تَرَجٍ

یا کینہ یا بعض و حسد یا خیانت یا تکبر کی وجہ سے یا فرحت و شادمانی یا ناز و فخر سے یا رنج و غم

أَوْ عِنْدٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ أَشْرٍ أَوْ بَطْرٍ أَوْ حِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ أَوْ غَضَبٍ

یا عناد یا حسد یا غرور یا تحقیر یا حیت یا تعصب کی وجہ سے یا غضب

أَوْ مِرْضَاءٍ أَوْ رَجَاءٍ أَوْ شَيْءٍ أَوْ سَخَاءٍ أَوْ ظَلَمٍ أَوْ حِيلَةٍ أَوْ سُرْقَةٍ

یا رضاء یا رجاء و امید یا بخل یا سخاوت یا ظلم یا حیلہ گری یا چوری کی وجہ سے

أَوْ كَذِبٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ لَغْوٍ أَوْ نَيْمَةٍ أَوْ لَعِبٍ أَوْ نَوْمٍ

یا جھوٹ یا غیبت یا لہو یا بیہودہ گئی یا چٹاخوری یا کھیل کود یا کسی بھی

مِّنَ الْأَنْوَاءِ مِمَّا يَكْتَسِبُ بِمِثْلِهِ الذُّنُوبُ وَيَكُونُ مِنَ الْبَلَاءِ

اسے قسم کے فعل سے جس قسم کے افعال سے گناہ کئے جاتے ہیں اور ان کے درپے ہونے سے

الْعَطْبُ وَالْحُوبُ وَاعْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا خَيْرَ

ہلاکت اور گنہگاری لازم آتی ہے اور مغفرت فرما میرے لیے اور تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے اے بہتر

الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

تمام بخشنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَحَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

(احکام خداوندی کے ساتھ مکلف لوگوں کے اور اطمینان کو) حلال ٹھہرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْضِعِينَ وَالْمَسَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آل محمد پر جو سردار ہیں (بوجھ) ہلکا کرنے والوں کے اور سیر و سفر زنی اللہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَيْرِ أَوْلِي الْعِزْمِ وَعَلَى

محمد پر جو سردار ہیں تمام رسولوں کے اور برتر ہیں تمام اولوالعزم سے اور تمام

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

انبیاء و مرسلین پر اور سب ملائکہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور

الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْغُرَبَاءَ وَ

صدیقین و شہداء اور علماء و اولیاء پر اور غریبوں و

الصَّالِحِينَ وَعَلَى كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

صالحین پر اور تمام مومن مردوں عورتوں پر روز قیامت تک

مِنْ أَهْلِ الْمَمَاتِ وَالْحَيَاتِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ صَلَوَاتٍ

فوت شدگان ہوں یا زندہ انسان ہوں یا جن ایسی صلوٰۃ اور رحمتیں

مُعْطَرَاتٍ دَائِمَاتٍ تَأْتِي لَاتٍ عَلَيْهِمْ بِأَعْدَادِ مَخْلُوقَاتِكَ

جو معطر و دائم ہوں نازل ہوں ان پر تیری تمام مخلوق کے اعداد و شمار کے مطابق

تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مِثْلًا الْعَالِمِ مَعَ بَرَكَاتٍ لَا تَزِيدُ

جن میں سے ہر صلوٰۃ پورے عالم کی مقدار ہو مع برکات لازم کے

مُطِيبَاتٍ بِكَافُورٍ رِضْوَانِكَ وَتَحِيَّاتٍ تَرَاكِيِبَاتٍ مُطَعَّفَاتٍ

جو خوشبودار کی گئی ہوں تیری رضامندی کے کافور کے ساتھ اور پاکیزہ تحفے اور ہدیے جو کئی گنا بڑھائے گئے ہوں

مَعْجُونَاتٍ بِعَنْبَرِ فَضْلِكَ وَتَسْلِيْمَاتٍ مُسَلِّمَاتٍ لِهَذَا وَجَدِكَ

اور گوندھے گئے ہوں تیرے فضل و احسان کے عنبر کے ساتھ اور مسلسل تسلیات جو مخلوط ہوں

بِسُكِّ كَرَمِكَ وَمَرَحْمَةٍ فَائِحَةٍ فِي الْعَالَمِ تَكُونُ مُنْظَرًا

تیرے کرم کی کستوری کے ساتھ اور ایسی رحمت جو مہکنے والی ہو سارے عالم میں اور جگے نظرہ ہو

لِسَكَّانِ الْفِرْدَوْسِ وَعَرْشِ عَظِيمِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَلَمَحَّةٍ

ساکنانِ فردوس اور عرشِ عظیم کے لیے ہر لمحہ اور ہر لمحو

أَبَدًا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ أَعْنِي النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْقُرْآنُ

ہمیشہ ان تمام کے ساتھ ہو۔ میری مراد ہے (اس رحمت سے) نبی امی جن کا (سرچشمہ) علم قرآن ہے

وَعَلَيْهِ الرَّحْمَنُ بِهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَخْصُوصٌ وَيَا خَلْقَ

اور انہیں اللہ رحمن نے تعلیم دی ہے جو اس عظیم فضل کے ساتھ مخصوص ہیں اور خلق

الْعَظِيمِ مَوْصُوفٌ وَإِسْمُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عظیم کے ساتھ موصوف اور اسم گرامی ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ الْعَلِيمُ وَعَالِمُ دَقَائِقِ الْأَسْرَارِ وَالْخَفِيَّاتِ

اے اللہ تو عالم و علیم ہے۔ اور اسرار و خفیات کے دقائق اور بارکیوں کا عالم ہے

الْمُحْصِي لِكُلِّ ذَرَّةٍ وَتَفْصِيلِ الْمُؤْتَكِفَاتِ بِمَا قَدَّرْتَ وَرَبُّكَ

اساط کرنے والا ہے ہر ذرہ کا اور الٹی ہوئی بستیوں کی تفصیل کا جیسے کہ تیری تقدیر میں ہے اور تو نے مرتب

فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنَ الْمَوْجِبَاتِ أَسْأَلُكَ بِأَحَاظِلِكَ

فرمایا ظاہر و باطن میں ان کے موجبات و اسباب کو۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم محیط کے واسطے

وَتَفْصِيلِ شَكْلِ قَدَمِكَ وَنُفُوزِ قُدْرَتِكَ وَبِحَطَائِكِ

اور تیری شانِ قدیمی کی تفصیلِ شکل و کیفیت اور تیری قدرت کے نفوذ و تاثیر کے واسطے۔ اور بطریق تیرے خطاب کے

ارْتِعَابِ حِكْمَتِكَ أَنْ تَحْرِقَ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْحِجَابَ

ساتھ تیری حکمت کے میلان و رغبات کے انوار کے کہ تو پھاڑ دے میرے اور اپنے درمیان حجاب کو

لَا ظِلِّعَ عَلَيَّ مَا تَحْتَهُ ذَرَّةٌ مِّنْ ذُرَّاتِ الْوُجُودِ فَأَبْتَهَجِرْ بِسِرِّ

تاکہ میں مطلع ہو سکوں ان حقائق و اسرار پر جو موجودات کے ہر ذرہ کے نیچے مستور ہیں پس میں خوش ہو جاؤں ساتھ سیر

الْقَدَمِ وَتَزُولَ عَنِّي الْعَدَمُ وَأَسْأَلُكَ بِسِرِّ قُوَّتِكَ أَنْ تَقْضِيَ

قدم کے اور زائل ہو جائے مجھ سے عدم و فناء (بوجہ بقا بالشرکے) اور میں سوال کرتا ہوں تیرے سیر قدرت کے وسیلے سے کہ پورا کرے

حَاجَتِي وَتَكُونَ عَوْنًا لِّي فِيْمَا أُرِيدُ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ قَابِضُ

میری ہر حالت کو اور میرا معاون ہو ان ارادوں میں جو میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے اللہ تو قبضہ میں کرنے والا ہے

السَّمَوَاتِ وَبَاسِطُ الْأَرْضِينَ وَالْجَمِيعِ بِهَيْبَتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَ

تمام آسمانوں کا اور پھیلانے والا ہے تمام زمینوں کا اور جمیع مخلوق کا ساتھ اپنی ہیبت اور عظمت و

قُدْرَتِكَ قَدَّرْتَ الْأَشْيَاءَ بِقُوَّةٍ مُرَادِ الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ

قدرت کے تو نے مقدر فرمایا تمام اشیاء کو پسندیدہ لوگوں کی قوت مراد کے ساتھ۔ اے اللہ اے کہ جس نے

قَبْضَ وَبَسَطَ الْأَخْيَارَ وَأَمَدَّ النُّورَ الْمَحْقُوقَ بِالْحَيَاةِ فِي الْأَرْضِ

سکڑا اور پھیلایا پسندیدہ اشیاء کو اور بڑھایا نور کو جو منصف ہے ساتھ حیات کے زمین

وَالسَّمَوَاتِ وَأَظْهَرَ بِقُوَّةِ التَّدْبِيرِ خَفَايَا التَّدْبِيرِ فِي بَسْطِ الْحَرَكَاتِ

و آسمانوں میں اور ظاہر فرمایا قوت تدبیر سے ان مخفی انتظامات کو جو حرکات کے بسط اور پھیلاؤ

وَقَبْضِ السَّكَنَاتِ وَسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْبِضَ قَلْبِي

اور سکنت کے قبض میں اور دیگر موجودات میں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے دل

وَجَوَارِحِي بِمَا يَبْعِدُنِي عَنِ الْبِعَاصِي وَأَنْ لَا يَحْجِبَنِي عَنْ نُورِ

اور اعضاء کو روکنے کا ایسے امور کے ساتھ جو مجھے دور کریں گناہوں سے اور مجھے نہ حجاب میں رکھیں نور

حَيَاتِي وَإِخْلَاصِي وَأَقْبِضْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ مُعَانِدٍ وَمُتَكَبِّرٍ وَضَرَرِ

حیات و اخلاص سے اور روک رکھ مجھ سے ہر معاند و متکبر کا شر اور ہر

كُلِّ حَاسِدٍ مُّتَحَدِّرٍ وَاجْعَلْ قَبْضَتِي عِنْدَ وَقَاتِي مَسْرُورًا اَلَا

حیرت زدہ حاسد کے ضرر کو اور بنا دے میرے قبض روح کو بوقت وفات میرے لیے سرور کا باعث نہ

مَفْتُونًا وَلَا مَغْبُورًا اَللّٰهُمَّ اَبْسُطْ رِزْقِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَمَا

فتنہ میں پڑنے اور خسارہ میں پڑنے والا۔ اے اللہ میرا رزق وسیع فرما اور میرے امر کو اور جو بھی

قَدَّرْتَهُ لِيْ اَبَدًا اَللّٰهُمَّ بِاَبْرَارِكَ لِيْ بِاَمْتِنَانِكَ وَاَسْأَلُكَ

تو نے میرے لیے مقدر فرمایا اسے ہمیشہ کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ برکت دے میرے لیے اپنے خاص احسان کیساتھ اور

بِسِرِّ النَّشَاطِيْنِ وَسِرِّ الْقَبْضَتِيْنِ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْقَابِضِ وَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا و آخرت کی تخلیق کے راز کے طفیل اور تیرے دو مرتبہ قبض ارواح کے راز کے طفیل اور تیرے اسم قابض کے طفیل اور

اَلْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَنْ تُنَوِّرَنِيْ وَتُلِيْسَنِيْ نُوْرًا مِّنْ اَنْوَاہِرِ

ملائکہ مقربین کے طفیل کہ مجھے نورانی بنا دے اور مجھے انوار خاص سے نور کا لباس عطا کرے

يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ فِيْ جَمِيْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ

اے اللہ۔ اے اللہ تو تمام موجودات میں ہے زمینوں والے ہوں

وَالسَّمَوَاتِ وَبِمَا تَخْتَارُهُ مِنْ غَامِضِ الْاَشَارَاتِ وَالْاِرَادَاتِ

یا آسمانوں والے اور بظیفانکے جنہیں تو اختیار فرمائے گا غامض و دقیق اشارات و ارادات سے

سُبْحَانَكَ تَخْفِضُ اَعْدَاءَكَ وَتُعْطِيْ مَحَلَّ الْقُرْبِ بَعْدَ

تو پاک ہے، اپنے اعداء کو پست کرتا ہے اور عطا کرتا ہے مقام قرب بعد

وَاٰيَتِكَ فَتَرْفَعُ اَحْبَابَكَ اِلَى وُجُوْدِ نِعْمَاتِكَ فَيُفْهَمُ جَمَالَ جَنَابِكَ

اپنی ولایت کے پس بلند فرماتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے نعمات دائمہ کی طرف پس سمجھا جاتا ہے تیرا جمال

بَلَدِيْذِ الْخَطَابِ فِيْ صُوْرَةِ جَمَائِكَ وَاَسْأَلُكَ بِسِرِّ اَبْرَحْمٰطِ اَرَادِكَ

بارگاہ تیرے لذیذ خطاب کے ذریعے اپنے محل تصرف خاص میں رہیں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل اپنی مراد کے اسرار محفوظ کے

فِيْ اَنْزَالِ الْمَحْفُوْظَاتِ وَرَفِعْ اَقْدَارِ اسْرَائِيْرِكَ فِيْ عَلْوِ الْمَرْفُوْعَاتِ وَ

ازل محفوظات میں اور بظیفیل اپنے اسرار کی اقدار کی رفعتوں کے رفیع المرتبت اشیاء میں اور

الْجَامِعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي خَفَايَا دَقَائِقِ الْمَغْيِبَاتِ أَسْأَلُكَ أَنْ

بطفیل ان دونوں امور کے جمع کرنے والے امر کے منیبات دقیقہ کے پردوں میں میں سوال کرتا ہوں کہ

تُخَفِّضَ عَنِّي الْإِرَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةَ وَالْخَوَاطِرَ الْهَوَائِيَّةَ وَالنَّفَثَاتِ

تو پست کرے میرے نفسانی ارادوں کو اور شہوانی خیالات کو اور شیطان

الشَّيْطَانِيَّةَ وَأَنْ تَرْفَعَهُ عَن قَلْبِي حُجُبَ الْكُثَافَةِ الظُّلْمَانِيَّةِ وَ

تصرفات کو اور دور کرے میرے دل سے کثافت ظلمانیہ کے حجابات کو اور

الْحُجُبِ السَّمَاوِيَّةِ النَّوْمَانِيَّةِ حَتَّى يَشْرُقَ فِي سَرَائِرِ قَلْبِي

سماوی نورانی حجابات کو حتی کہ روشن ہو جائے میرے قلب کی گہرائیوں میں

نُورِكَ الْمُنِيرَةِ فِي حَظَائِرِ قُدْسِكَ فَيُشَاهِدُ فُؤَادِي مِنَ التَّحْقِيقِ

تیرا پاکیزہ نور جو لامکان کی مقدس محفوظ بارگاہ میں ہے پس مشاہدہ کرے میرا دل تحقیق کا

وَيَسْمَعُ جَمِيعَ الْبُؤَابِطِ مِنْ غَيْرِ أذِنٍ صَبِيحًا عَلَى اِخْتِلَافِ اصْنَافِ

اور سنے تمام بوابوں کو بغیر سوراخ والے کانوں کے باوجود مختلف اقسام کی

اللُّغَاتِ فَلَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا هَجَسَ فِي الضُّبَائِرِ وَمَا نَطَقَتْ

بولیوں کے پس نہ مخفی رہے مجھ پر کوئی شے دلوں میں کھٹکنے والی اشیا سے اور خفیات و اسرار

بِهِ السَّرَائِرُ يَا مَنْ أَحْطَى عَلَى جَمِيعِ الْمَسْمُوعَاتِ وَأَحْطَى

کی دالتوں سے، اے کہ جس نے تمام مسموعات کا احاطہ کر رکھا ہے

بِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَتَسْمَعُ دَبِيبَ التَّمَلَّةِ السُّودَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ

اور تمام موجودات کو محیط ہے اور سنتا ہے آواز پاسبانہ چیونٹی کی سخت پتھر پر چلتے وقت

الصَّبَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِي بِحَقِّ اسْمِكَ

تاریک رات میں بھی۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ سنے تو میری دعا کو بطفیل اپنے اسم

السَّبِيحِ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا يَا رَبِّ وَتُعَامِلَنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ

صبح کے اور میرے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کرے اے میرے پروردگار اور میرے ساتھ اپنے لطف مخفی کے ساتھ

وَتُبَدِّدَنِي بِرَفِيقٍ مِّنْ رُّفَقَائِكَ وَأَوْصَلَنِي بِكُلِّ شَيْءٍ يُقَرِّبُنِي

سلوک فراوے اور مجھے امداد دے اپنے رفقاء میں سے خاص رفیق کے ساتھ۔ اور مجھے ہر اس شئی سے ربط و تعلق عطا کرے جو مجھے تیرے

وَيَرْفَعُنِي بَيْنَ أَقْرَانِي حَتَّىٰ أَشْرَفَ بِالْحَضُورِ بَيْنَ يَدَيْكَ

قریب کرے اور مجھے بلند کرے میرے ہمعصروں کے درمیان حتیٰ کہ میں مشرف ہو جاؤں تیری بارگاہ کی حاضری کے ساتھ

فَتَبْسِطَ قَلْبِي عِنْدَ الْأُنْسِ بِجَمَالِكَ وَشُهُودِ كَمَالِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

پس کشادہ ہو جانے میرا دل تیرے جمال اور شہود کمال کے ساتھ انس پانے کی وجہ سے۔ اے اللہ تو

الْبَصِيرُ يَدَا قَائِقِ جَوَاهِرِ الْمَوْجُودَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ كَأَبْصَارِكَ

نگاہ میں رکھنے والا ہے موجودات جسمانیہ کے جواہر حقیقت کے دقائق کو جیسے کہ دیکھنے والا ہے

بِظَوَاهِرِ حَقَائِقِ الْمَوْجُودَاتِ الْحِسِّيَّةِ فَتَرَى تَفَاصِيلَ الْأَعْرَاضِ

موجودات محسوسہ کے حقائق ظاہرہ کو پس دیکھتا ہے تفصیلات مختلف اعراض اور

وَالْأَلْوَانِ فِي مَوْجُودَاتِ الْأَكْوَانِ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا يُشْغَلُهُ

الوان کی تمام موجودات کائنات میں۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے کہ جسے نہیں مشغول رکھتی

شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا يَحِلُّ بِمَكَانٍ يَأْذُ الْجُودِ وَالْإِحْسَانَ تَوَرُّ

ایک حالت دوسری سے اور نہ قرار پذیر ہوتا ہے کسی بھی مکان میں اے مالک جود اور احسان کے کہ متور فرمائے

بَصْرِيَّ وَبَصِيرَتِي بِنُورِ بَصْرِكَ الْبَاقِي وَعَلَيْكَ الرَّبَّانِي حَتَّىٰ

میری ظاہری اور باطنی نگاہ کو اپنے دائمی نور نظر اور علم ربانی کے ساتھ حتیٰ کہ

يَكُونُ لِي سُبْعًا وَبَصْرًا وَوَيْدًا أَوْ رَجُلًا وَلِسَانًا وَقَلْبًا وَنُورًا

وہ میرے لیے سمع و بصر ہو اور ہاتھ پاؤں اور زبان و قلب اور مجھے اپنے

بِأَنْوَارِكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا عِلْمُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

انوار مخصوصہ کے ساتھ متور فرمائے اللہ۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان دعاؤں کا جو سکھلائی سید المرسل اور

النَّبِيِّونَ وَالْمُرْسَلُونَ أَمْبَهُمْ مِّنَ الدَّعَوَاتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ

انبیاء و مرسلین نے اپنی امتوں کو صلوات اللہ و

سَلَامَةٌ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَسْأَلُكَ مَا سَأَلَ مِنْكَ الصَّالِحُونَ آمِينَ يَا

سلام علیہم اجمیعین اور سوال کرتا ہوں تجھ سے جو سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے آمین یا

رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

رب العالمین یا ارحم الراحمین ، یا اکرم الاکرمین - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَبِينَ الْبَالِكِينَ

وسلام نازل فرما اوپر محمد کے اور آل محمد کے جو آقا کہ سردار ہیں مقربین ، ارباب ملک

الْمُرَافِقِينَ الْبُحْتَسِبِينَ الْبُخَاطِبِينَ الْمَشْفَعِينَ الْمُسْتَبِينَ

مزم نحو ، طالبان رضا کے اہل خطاب کے ، ارباب شفاعت - قلوب خلاق کو مسخر کرنے والوں

الْمَكْرَمِينَ الْمُتَوَسِّطِينَ الْمُتَوَلِّينَ الْمُقْبُولِينَ الْمَرْحُومِينَ

مکرم لوگوں کے ، میانہ رو ، ارباب اختیار کے مقبولین ، مرحومین

الْمُرِيدِينَ الْمُحْفُوظِينَ الْمَغْفُورِينَ الْمَشْكُورِينَ الْمَطْلُوبِينَ

اصحاب ارادت ، محفوظ و معصوم اور مغفور و مشکور حضرات کے مطلوبان حضرت

الْمَحْبُوبِينَ الْمَسْبُوقِينَ الْمَسْئُولِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَكْتُوبِينَ

محبوبان بارگاہ ، سبقت دئے ہوئے ، ذمہ دار و جواب دہ لوگوں کے در راہ خدا میں ظلم سنے والوں کے ، دیوان خاص

الْمَسْرُورِينَ الْمَحْزُونِينَ الْمَحْرُوسِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَوْجُودِينَ

میں نکلے ہوؤں کے مسرور و محزون ، محفوظ و معصوم اور موجودات کے ،

الْمَشْغُولِينَ الْمَقْصُودِينَ الْبَالُوفِينَ الْمَعْشُوقِينَ الْمَجْهُودِينَ

مشغولان حق کے ، مقصود خلاق ، مرکز ہائے الفت ، معشوق و محمود اور

الْمُكْرَمِينَ الْمُجِيبِينَ الْأَمِينِينَ الْأَسْمِينِينَ الْبَارِعِينَ الْبَاكِرِينَ

ارباب تکریم کے دعوت کو شرف قبولیت بخشنے والوں ، ارباب طمانیت و سکون ، شیریں گفتار - ارباب فوقیت ، نوجوان اور

الْبَازِلِينَ الْبَاطِنِينَ التَّابِعِينَ الْجَامِعِينَ الْكَاشِرِينَ الْكَاضِرِينَ

طاقتور حضرات کے ارباب اسرار - اطاعت گزاروں - جامع الکلمات حضرات - جمع کرنے والوں - حاکموں اور

الْحَاسِبِينَ الْحَارِبِينَ الْخَافِقِينَ الْحَائِرِينَ الْكَابِدِينَ الْخَاضِعِينَ

حساب لینے والوں کے (راہِ خدا میں) جنگ لڑنے والوں۔ ضرب لگانے والوں۔ چکا چوند والوں۔ اربابِ حکومت۔ حمد کرنے والوں

الْخَاطِبِينَ الْخَالِصِينَ الرَّاقِبِينَ الرَّاسِخِينَ الرَّاجِحِينَ الرَّافِعِينَ

اور اربابِ حضور کے خطبہ دینے والوں۔ اصحابِ اخلاص۔ نگرانوں۔ ثابِتِ قدم۔ رحم کرنے والوں اور رفعت بخشنے والوں کے

الرَّاجِحِينَ الْفَائِضِينَ الْعَاشِقِينَ الْعَاطِفِينَ الْعَامِلِينَ الْقَاسِمِينَ

منع کرنے والوں۔ فیض رسالوں۔ اربابِ عشق۔ مہربانوں۔ اصحابِ عمل اور عطا کرنے والوں کے

الْقَانِتِينَ الْقَامِعِينَ الْقَاهِرِينَ الْقَاعِدِينَ الْقَانِعِينَ الْكَاسِبِينَ

عبادت گزاروں۔ (کفر و شرک کے) اکھڑنے والوں۔ غالب (حرب کے لیے) تیار کرنے والوں۔ قناعت پیشہ اور محنت کرنے والوں

الْمَانِحِينَ النَّافِعِينَ النَّازِلِينَ النَّاسِخِينَ النَّاقِلِينَ الْكَامِلِينَ

ہبہ کرنے والوں۔ نفع دینے والوں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) نزول فرمانے والوں۔ نسخ کرنے والوں۔ نقل کرنے والوں۔ اربابِ کمال کے

النَّادِمِينَ الْفَاضِلِينَ الْفَائِزِينَ الْفَارِسِينَ الْعَاقِبِينَ الْعَادِلِينَ

مصائبین و رفقاء۔ اربابِ فضیلت، کامیاب۔ شہسواروں۔ آخر میں آنے والوں اصحابِ عدل کے

الطَّائِفِينَ الطَّالِبِينَ الطَّائِعِينَ الظَّاهِرِينَ الْفَاتِحِينَ الْقَابِلِينَ

طواف کرنے والوں، طالبانِ (رضائے خداوند) طاعت گزاروں۔ فتح مندوں۔ اربابِ فتح اور قبول کرنے والوں کے

الْقَادِرِينَ الْقَادِرِينَ الْعَانِمِينَ الْغَانِمِينَ الرَّاهِدِينَ السَّاجِدِينَ

قدرات کرنے والوں۔ قدرت والوں، سرخ رنگت والے حسینوں۔ اربابِ غنیمت۔ زاہدوں اور سجدہ ریزوں کے

السَّاكِنِينَ السَّابِقِينَ السَّاجِحِينَ السَّائِلِينَ السَّائِرِينَ السَّالِكِينَ

اربابِ تسکین۔ سبقت لے جانے والوں۔ چھا جانے والوں۔ دعا کرنے والوں۔ سیرانی اللہ اور سیرالی اللہ والوں کے

الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ الصَّابِرِينَ الشَّافِعِينَ الصَّالِحِينَ الطَّاهِرِينَ

گواہوں۔ شکر گزاروں۔ صبر کرنے والوں۔ شفاعت کرنے والوں اور اربابِ صلاح و اصحابِ صدق کے

الصَّافِحِينَ الصَّابِطِينَ الْمَفَارِقِينَ الشَّامِلِينَ الْفَاحِشِينَ الْغَارِمِينَ

درگزر کرنے والوں۔ ضبط کرنے والوں۔ جدائی اختیار کرنے والوں۔ شامل ہونے والوں۔ اربابِ فخر اور اہلِ عشق کے

التَّائِبِينَ التَّائِقِينَ التَّائِكِينَ التَّائِحِينَ التَّائِغِينَ التَّائِغِينَ

تگزانوں - پرکھنے والوں - نکاح کرنے والوں - مددگاروں - عبادت گزاروں اور ارباب نعمت کے اور

التَّائِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

آیات حق کے ساتھ بولنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں

الْوَاحِدِينَ وَالْوَاسِطِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یکمٹے روزگار اور بلند مرتبت لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاصِلِينَ الْوَارِثِينَ الْوَاعِظِينَ الْوَاقِفِينَ

جو محبوب سردار ہیں واصلین کے اور وارثین (اوصاف خداوندی) نصیحت کرنے والوں بھفت کرنے والوں اور حقائق پر مطلع

الْبَاكِينَ الْبَارِئِينَ الرَّاعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رخوت خدا سے (رونے والوں - دراہ وصول کے) راگنزدوں تگزانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِينَ الرَّاجِينَ الرَّاضِينَ الْعَارِفِينَ الْغَائِبِينَ الْهَادِينَ

پر جو محبوب سردار ہیں دعوت دینے والوں - امید رکھنے والوں - راضی ہونے والوں - ارباب عرفان - مجاہدین اور اصحاب ہدایت

النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكِيَّاتِ

انبیاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پاکیزہ صفات لوگوں

الصِّدِّيقِينَ الشَّرِيفِينَ الشَّهِيدِينَ السَّلِيمِينَ الْحَنِيفِينَ السَّعِيدِينَ

صدیقین - شرفاء - شہیدوں - ارباب سلامت - حق پرستوں اور نیک بختوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَرَاءِ الْبُحْدِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں فقراء اور ارباب بھد کے

الْكَبِيرِينَ الْأَمِيرِينَ الْجَلِيلِينَ الْجَمِيلِينَ الْخَلِيلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بزرگوں، امیروں - اصحاب جلالت - ارباب جمال اور دوستان خداوند تعالیٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَطِيبِينَ الْفَصِيحِينَ السُّدُودِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں خطباء - فصحاء، پختہ آراء والوں کے

الرَّقِيبِينَ الْأَمِينِينَ الْقَدِيمِينَ الْعَرِيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نجرانوں ، صاحب امن - قدیم ، شریف الاصول لوگوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَمِيدِينَ النَّظِيفِينَ الْحَرِصِينَ الْأَطْمِينِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ذمہ داروں - پاکیزگی والوں (ہدایت خلق پر) حریص اور بلند مقام لوگوں کے

الرَّفِيعِينَ الرَّبِيعِينَ الْعَلِيِّينَ الْقَرِيبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

بلند مرتبت - بہار آفرین - ارباب علم ہمعصروں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَرِيبِينَ الْبَعِينِينَ الشَّفِيعِينَ الْكَلْبِيِّينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں مقربین ، اعانت فرماؤں - شفیعوں ، کلبیوں -

الشَّرِيعِينَ الْعَزِيزِينَ الطَّرِيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ

بہاوردن - عزت والوں (ہدایت کی) راہوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَقِيقِينَ الْحَسِيبِينَ الْأَفْعَلِينَ الْأَقْدَمِينَ

آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں ارباب حقوق و اصحاب شرافت ، کارگزاروں - سبقت لے جانے والوں

الْأَظْهَرِينَ الْأَخْشَعِينَ الْأَشْرَفِينَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بہت واضح و روشن ، بہت خشوع کرنے والوں - شرافت مآب اور ارباب کرامت - اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْفَحِينَ الْأَمْلَحِينَ

سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں درگزر کرنے والوں - ارباب ملاحت و جذب کے

الْأَحْمَدِينَ الْأَرْقَمِينَ الْأَوْضَحِينَ الْأَشْفَقِينَ الْأَزْهَدِينَ اللَّهُمَّ

بہت حمد کرنے والوں - رزق دینے والوں - روشن و نورانی - مشفق اور زاہد ترین لوگوں کے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْبَعِينَ الْأَكْبَلِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں بہت سننے اور قبول کرنے والوں - کامل ترین

الْأَكْبَرِينَ الْأَوْجِدِينَ الْأَوْرَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بزرگترین - ارباب وجد - پرہیزگاروں اور پاکیزہ ترینوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْفَانِ الْأَسْعَدِينَ الْأَعْقَلِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں لطیف ترین، سعادت مندوں - انتہائی عقلمندوں

الْأَعْرَفِينَ الْأَوْاهِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بہت بڑے عارفوں - دراری کرنے والوں بظلمت عظیمہ والوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَجْدِينَ الْأَظْفَرِينَ الْأَنْوَارِيِّينَ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اربابِ مجد - اصحابِ ظفر - نورانیوں - روشن

الْأَزْهَرِينَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ترین - مقرب ترین اور باہم ملے ہوئے ابروں والوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ الْأَجْوَدِينَ الْأَجْمَعِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کے سردار ہیں عمدہ اصل والوں - بہت سخاوت کرنے والوں - اربابِ جمعیت

الْأَشْجَعِينَ سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ يَا نَاصِرَ إِلَيْكَ يَعُودُ أَمْرُنَا

انتہائی بہادر لوگوں کے - تو پاک ہے، بابرکت ہے اے نصرت دینے والے تیری ہی طرف لوٹتا ہے امر ہمارا

مِنْ أَمْرِكَ يَا إِلَهَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ وَالْبَسَائِطِ وَالْمُرَكَّبَاتِ اتَّوَجَّهُ

تیرے ہی امر سے اے الہ کل و جز کے اور بسائط و مرکبات کے توجہ کرتا ہوں تیری

إِلَيْكَ بِصَدَقِ الْقَلْبِ وَالسِّرِّاجِ جَعَلَنِي مُسْتَفْرَقًا فِي إِقْتِبَاسِ

طرف صدق قلب و روح کے ساتھ کہ بنا دے مجھے عرق ہونے والا اپنے انوار کی

لذَاتِ أَنْوَارِكَ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالٍ وَاحْتِلَاطٍ وَلَا انْفِصَالٍ بَارِعَةٍ

لذات کے حصول میں بغیر اتصال و حلول اور انفصال (شکیف) کے جن پر چمکنے والے ہوں

عَلَيْهَا أَنْوَارُ قُدْرَتِكَ عَلَى عَكْسِ شُعَاعٍ مِّنْ فُرُوعِ أَنْوَارِكَ يَا وَاجِبَ

تیرے انوار قدرت تیرے انوار و تجلیات صفا تیرے عکس و پرتو سے اے واجب الوجود اور

الْوُجُودِ وَيَا فَيَاضَ الْجُودِ مِنْ خَزَائِنِكَ الْمَخْزُونَةِ تَحْتِ حَيْطَةِ

اے جو عالم والے اپنے ان خزانوں سے جو محفوظ ہیں تیری صفات کے احاطہ

صَفَاتِكَ وَكَيْسٍ لِأَحَدٍ قَبُولُ تَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ الْجَلَالِيَّةِ فَكَيْفَ يَكُونُ

میں اور نہیں ہے کسی کے لائق تیسری ذات کے تجلیات جلالیہ کو قبول کرنا ورنہ جل جائے گا

أَحْتَرَقَ جَبَلٌ مُوسَى فَصَدَّعَ وَدَكَ وَلَا قَبُولُ تَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ

جیسے کہ جل گیا موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ، پس پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور نہ ہی تیسری تجلیات جلالیہ ذاتیہ کے

الْجَمَالِيَّةِ فَيَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْبَلَدُ فِي الْمَاءِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ كَهَيْعَتِهِ

قبول کرنے کی اہلیت ہے ورنہ گل جلے گا جیسے کہ نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اے اللہ کھٹھن کے طفیل

سَخَّرْنَا الْأَرْوَاحَ الْقُدُسِيَّةَ السَّمَاوِيَّةَ وَالْقُوَى الْعَالِيَةَ بِإِذْنِكَ

ہمارے لیے مسخر فرما آسمان کے ارواح قدسیہ اور قوائے عالیہ کو اپنے اذن و ارادہ

الْعَالَمِ وَعَلَيْكَ الْقَدِيمِ وَسَخَّرْنَا الْأَرْضِيَّةَ لِإِعَانَةِ بَدَانِيَّةِ

عالم اور علم قدیم سے اور مسخر فرما ہمارے لیے ارواح ارضیہ کو واسطے بدنی اعانت کے

لِلْإِسْتِعْدَادِ الْلاهُوتِيِّ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى الَّتِي هِيَ كُلُّهَا

واسطے استعداد لاهوتی کے پھر مجھے عروج عطا فرما ان سے طرف ملأ اعلیٰ کے جو کہ تمام کے تمام

أَنْوَارٍ لَطِيفَةٍ سَارِيَةٍ أَيْنَمَا وَجَّهْتُ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى الصُّورِ الْكَلْبِيَّةِ

انوار لطیفہ ہیں چلنے والے ہوں جہر کہ میں متوجہ ہوں۔ پھر مجھے عروج عطا فرما ان سے طرف صور کلبیہ کے

الْقَائِمَةِ بِأَمْثَلَةِ نُورِيَّةٍ قَاهِرَةٍ مَانِعَةٍ لِلْحَوَادِثِ الطَّارِيَةِ عَلَى الظُّلُمَاتِ

جو قائم ہیں ساتھ اشخاص نوریہ غالبہ کے جو مانع ہیں ان حوادث کے لیے جو طاری ہونے والے ہیں اور ظلمات

الْبَشَرِيَّةِ الْهَلِكَةِ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى مَقَامِ جَبْرُوتِي شَامِلٍ لِكُلِّ صِفَاتِ

بشریہ کے جو ہلاکت آفرین ہیں پھر وہاں سے مجھے عروج عطا فرما طرف مقام جبروتی کے جو شامل و محیط ہے کلیات

إِجْمَالِيَّةٍ مُسَاوِيَةٍ فِي جُزْئِيَّاتِ كَائِنَةٍ مُسَبَّأَةٍ بِحَقَائِقِ الْاَلْهَمِ

اجمالیہ مساویہ کو جو مستحق ہیں جزئیات موجودہ میں جو کہ موسوم ہیں ساتھ حقائق کے۔ اے اللہ

اَكْشِفْ عَلَيَّ أَسْرَاحَنَا كَمَا كَشَفْتَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ الْبُشْرَى الْبَرِيَّةِ

کشف فرما مجھ پر ہمارے ارواح کو جیسے کہ ان کا کشف فرمایا تو نے اپنے اولیاء مقررین پر جو کہ

كَانُوا جَالِسِينَ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ لَا يُسَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ

ہم نشین تھے اس صاحب اقتدار بادشاہ کے جو نہیں سوال کیا جاسکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور وہ (مخلاق) سوال کئے جائیں گے

عَمَّا يَفْعَلُونَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ أَسْمَاءِ الْحُرُوفِ الَّتِي هِيَ أَصُولُ وَ

اس کے متعلق جو وہ کرتے ہیں۔ اے اللہ بظہیر اسماء ان حروف کے جو کہ ایسے اصول اور

كَلِمَاتٍ مُّحْتَوِيَةٍ لِتَحَقُّقَاتِ الرُّسُومِ وَالْفُهُومِ بِهَا تَعْرِجُ عِبِيدَكَ

کلمات ہیں جو کہ محیط ہیں رسوم و فہوم کے تحقیقات و وجودات پر کہ جن کی بدولت ترقی کرتے ہیں تیرے بندے

إِلَيْكَ أَفْضُ عَلَيْنَا بَرَكَاتِ الْأَمْوَاحِ الْبَرَسْرَةِ الْمُتَكُونَةِ مِنْ

تیری طرف فیضان فرما ہم پر اپنے نیوکار ارواح کی برکات جو پیدا ہونے والے ہیں ان

الْأَنْوَارِ الْعَلِيَّةِ الْهَادِيَةِ الْبَرَّاقَةِ الْمُتَحَلِّيَةِ التَّجَلِّيَةِ عَلَى

انوار عالیہ جو ہدایت اور روشنی مہیا کرنے والے ہیں اور سبب زینت و نورانیت بننے والے ہیں

صَوَاحِبِ الْكُشُوفِ وَالْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطْنِي الْحَبَّ الظُّلْمَانِيَّةَ

ارباب کشف و اسرار کے لیے۔ اے اللہ نہ مسلط فرما مجھ پر حجابات ظلمانیہ

الَّتِي هِيَ الْحُجُبُ الْمَانِعَةُ الْقَاهِرَةَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى كُلِّ كَوْنٍ يَا كَيِّنَانِ

جو کہ حجاب و مانع قوی ہیں وصول سے طرف تمام موجودات کے اے موجود حقیقی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَرِيمِينَ وَالرَّحِيمِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں کریموں اور رحیموں کے

رَبِّ ارْحَمْ مَنْ عَظَمَ مَرَضَاهُ وَعَزَّ شِفَائُهُ وَكَثُرَ آئُهُ وَضَعُفَتْ

اے اللہ رحم فرما ہر اس شخص پر جس کا مرض عظیم ہو گیا اور اس کی شفا مشکل ہو گئی اور بیماری زیادہ ہو گئی اور اس کی چارہ سازی

حِيلَتُهُ وَقَوِيَ بَلَاءُهُ وَأَنْتَ مُدْجَاهُهُ وَرَجَاءُهُ وَعَوْنُهُ وَشِفَائُهُ

ضعیف و ناتوان ہو گئی اور اس کی آزمائش قوی ہو گئی اور تو ہی اس کی جائے پناہ اور امید گاہ ہے اور معاون و شفا بخش اور

وَدَّوَأْتُهُ يَا مَنْ عَبَّرَ الْعِبَادَ فَضْلُهُ وَعَطَاءُهُ وَوَسِعَ الْبَرِّيَّةَ جُودُهُ

دوا ہے۔ اے کہ آباد کیا بندوں کو اس کے فضل اور عطا نے اور محیط ہو گیا سب مخلوق کو اس کا جوہ اور

وَنِعْمَاءَهُ هَا أَنَا عَبْدُكَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ مُّحْتَاَجٌ إِلَىٰ مَا عِنْدَكَ

انعام۔ ہاں میں تیرا بندہ فلاں بن فلاں ہوں محتاج و فقیر ہوں طرف ان نعمتوں کے جو تیرے پاس ہیں

أَنْتَ تَنْظُرُ جُودَكَ وَبِرْفَادِكَ مَذُنِبٌ أَسْأَلُ مِنْكَ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ عَافِيَةً

میں منتظر ہوں تیرے جود و عطا کا، گناہگار ہوں سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و مغفرت کا۔ خوفزدہ ہوں

أَطْلُبُ مِنْكَ الصَّفْحَ وَالْإِمَانَ مِثْلِي عَاصِيٌ فَعَسَىٰ تَوْبَتِي كَتَابَتِي

طلب کرتا ہوں تجھ سے درگزر اور امان۔ زیاں کار و گنہگار ہوں۔ امیدوار ہوں ایسی نظر رحمت کا جو مشادے

ظَلَمَ الْإِسَاءَةَ وَالْعِصْيَانَ سَائِلٌ بِأَسْطِئِدِ الْكَلْبَةِ يُطْلَبُ

سیاہ کاری و گنہگاری کی ظلمتوں کو، سوالی ہوں پھیلائے ہوئے ہوں ہاتھ مکمل محتاجی کا جو طلبگار ہے تیرے

مِنْكَ الْجُودُ وَالْإِحْسَانُ مَسْجُونٌ مُّقِيدٌ فَعَسَىٰ يُفَكُّ قَيْدَكَ

جود و احسان کا۔ قید و بند میں ہے پس امید ہے کہ کھول دی جائے بندش اس کی اور

يُطْلَقُ مِنْ سِجْنِ حِجَابِهِ إِلَىٰ فَيْسِ حَضْرَاتِ الشُّهُودِ وَالْعِيَانِ جَانِعٌ

رہا کیا جائے حجاب کے قید خانہ سے شہود و معائنہ کی وسیع و عریض بارگاہوں کی طرف (یہ بندہ) بھوکا اور

عَارِفَعَسَىٰ يُطْعَمُ مِنَ التَّقْرِيبِ وَيُكْسَىٰ مِنْ حُلِيِّ الْإِيمَانِ ظَلَمَانَ

برہنہ ہے پس امید ہے کہ کھلایا جائے اس کو طعام قرب اور پہنایا جائے اس کو حلقہ ایمان۔ پیاسا ہے

ظَبَانٌ ظَبَانٌ وَأَيُّ ظَبَانٍ يَتَلَجُّجِبِ فِي أَحْشَاءِهِ لَهْيَبُ النَّدَىٰ

پیاسا ہے، پیاسا ہے، ایسا پیاسا کہ بھڑک رہے ہیں اس کی انتڑیوں میں شعلے آگ کے۔

فَعَسَىٰ تُبْرَدُ عَنْهُ زِيرَانُ الْكُرْبِ وَيُسْقَىٰ مِنْ شَرَابِ الْحُرْبِ

پس قریب ہے کہ ٹھنڈی کی جائیں اس سے درد و کرب کی آتشیں اور پلایا جائے اس کو شراب محبت

وَيُكْرَمُ مِنْ كَأْسَاتِ الْقُرْبِ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْبُؤْسُ وَالْأَلَامُ

اور سیراب کیا جائے قرب کے کاسوں سے اور دور کی جائیں اس سے شدتیں اور آلام

وَالْأَسْقَامُ وَالْأَحْزَانُ وَيَنْعَمُ مِنْ بَعْدِ بُؤْسِهِ وَالْأَلَامِ

بہاریاں اور غم اس کو راحت و سہولت سے بہرہ ور کیا جائے شدت و آلام کے بعد اور شفا دی جائے

مَرَضُهُ وَسَقَمُهُ حَتَّى يَزُولَ مَا بِهِ كَانَ مَا كَانَ هَا أَنَا عَبْدٌ تَائِبٌ

امراض و اسقام سے تا آنکہ زائل ہو جائے اس سے جو کچھ بھی اس کو لاحق ہوا۔ ان میں تیرا بندہ ہوں جو بارگاہِ قرب سے دور ہوں

غَرِيبٌ مُّصَابٌ قَدْ بَعُدَ عَنِ الْاَهْلِ وَالْاَوْطَانِ فَعَسَى يَزُولُ

غریب اور مصیبت زدہ۔ خویش و اقرباء اور وطن سے دور پس قریب ہے کہ اس سے زائل ہو جائے

عَنْهُ هَذَا التَّعَبُ وَالشَّقَاءُ وَيَعُودُ لَهُ الْقُرْبُ وَاللِّقَاءُ وَيُتَرَاوِي لَهُ

یہ تھکان اور شقاوت اور لوٹ آئے اس پر سعادت، قرب اور دیدار کی اور نظر آنے لگے اس کو

سَلْعٌ وَالتُّقَا وَيَلُوحُ الْاِثْلُ وَالْبَانُ وَيَنَالُهُ اللُّطْفُ وَالْاِحْسَانُ

سلع (مدینہ کا پہاڑ) اور ریتلے ٹیلے اور نمودار ہوں جھاؤ اور بان کے درخت اور پہنچے اسے لطف و احسان

وَتَجَلُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ يَا عَظِيمُ يَا مَنَّانُ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَانَ

اور اترے اس پر رحمت و رضوان۔ اے عظمت والے۔ اے احسان والے۔ اے کریم۔ اے رحمان

يَا صَاحِبَ الْجُودِ وَالْاِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ وَالْغُفْرِ اِنَّ اللّٰهَ صَلَّى وَسَلِّمَ

اے جوود احسان والے اور رحمت و غفران والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَطُوفِيْنَ وَالرَّءُوفِيْنَ اَللّٰهُمَّ

نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں عنایت اور رافت و رحمت کرنے والوں کے۔ اے اللہ

صَلَّى وَسَلِّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ فِي يَوْمِ الدِّينِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں اعلیٰ علیین میں قیامت کے دن میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَّامِيْنَ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں بہت ذمہ داریاں نبھانے والوں

الرَّبَّابِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور پرورش کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں

الْاَوَّابِيْنَ وَالصَّوَّامِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں اور روزہ داروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو سردار ہیں ربانیوں اور روحانیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَيَاتِيَّةِ وَالطَّيِّبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں وقت کی قدر کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِعِينَ وَالْفَرِحِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے اور ارباب فرحت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْكُونَيْنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں قبلوں۔ دونوں جہانوں

وَالثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَافِقِينَ

اور جن وانس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں مشرق و مغرب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلْتَيْنِ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں ملتوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَرَمَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں حرموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْشُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تمام قبور سے اٹھائے جانے والوں کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید انبیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْفِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سید اصفیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو سید اولیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَتْقِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آل محمد پر جو سید اتقیا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْخِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد پر جو سید اسخیا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَجْزَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو محبوب کہ سردار ہیں کفایت کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّؤُوسَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو آقا کہ سرداروں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ سردار ہیں علماء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُضَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ فضلاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ فقراء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغُرَبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ غرباء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّعَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جو کہ سعادت مندوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جو کہ فقہاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَرْتَكِبُهُ

آل محمد پر جو کہ شفیعوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر گناہ سے کہ جس کو کیا میں نے

بِسْمُولِ عَافِيَتِكَ أَوْ تَمَكَّنْتُ مِنْهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ أَوْ لَقِيَكَ بِسَبَبِ

بِسَبَبِ تِيرِي عَافِيَتِ عَامِرِ كَيْ يَاقَادِرُ هُوَ فِي اس پَرِ سَبَبِ تِيرِي رُوزِ اَفْزُولِ نِعْمَتِ كَيْ يَاقُوْتِ حَاصِلِ كِي اس پَرِ

عَلَى دَفْعِ نِقْمَتِكَ عَنِّي أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي لِسَلَابِغِ رِزْقِكَ

بِسَبَبِ دُورِ رِكْحَتِي تِيرِي اِسْنِي اَنْتِقَامِ كُو مِجْهَسِي يَاطْرُحَا يَاطْرُفِ اس كِي فِي سِنِي اِنَا يَاطْحِي سَبَبِ تِيرِي كَامِلِ رِزْقِ اُورِ رُوزِي كِي

عَلَى أَوْ خَيْرٌ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ فَخَالَطَنِي فِيهِ شَيْءٌ نَفْسِي

يَا اِيسِي خَيْرُ كِي جِسْمِي سِي نِي تِيرِي ذَاتِ كَرِيمِي (كِي رِضَا) كَا اِرَادِي كِيَا پَسِ شَامِلِ هُو كِيَا اس فِي مِيرَا بَخْلِ طَبِيعِي

بِمَالِيْسٍ فِيهِ رِضَاكَ وَلكُلِّ ذَنْبٍ دَعَا نِي إِلَيْهِ الرَّخِصُ أَوِ الْحَرِصُ

جِسْمِي تِيرِي رِضَا نِيْسِي نِھِي نِھِي۔ اُورِ اسْتِغْفَارِ كَرْتَا هُوں وَاِسْطِي هَرِ اس كِنَاھِ كِي جِسْمِي كِي طَرَفِ رَاغِبِ كِيَا رِخْصَتُوں نِي يَاطْرُحِي نِي

فَرَعِبْتُ فِيهِ وَحَلَلْتُ لِنَفْسِي مَا هُوَ مُحْرَمٌ عِنْدَكَ وَلكُلِّ ذَنْبٍ خَفِي

پَسِ فِي اس كِي طَرَفِ مَاطِلِ هُوَا اُورِ حَلَالِ مِطْھَرَا يَاطْرُفِي ذَاتِ كِي لِي كِي جُو كِي تِيرِي نَزْدِيكِ حَرَامِ نِھَا اُورِ هَرِ اس كِنَاھِ كِي جُو مِخْفِي رِھَا

عَلَى خَلْقِكَ وَلَمْ يَعْرُبْ عَنكَ فَاسْتَقَلْتِكَ مِنْهُ فَأَقَلْتَنِي ثُمَّ عُدْتُ

مِخْلُوقِ پَرِ اُورِ تِجْھِ سِي پُو شِيدِي نِيْسِي نِھَا۔ مِي نِي تِجْھِ سِي اس فِي دَرُكْرِ طَلَبِ كِي پَسِ تُو نِي دَرُكْرِ فَرْمَانِي پِھَرِ مِي نِي اس كِي طَرَفِ

فِيهِ فَسَتَّرْتَهُ عَلَيَّ وَلكُلِّ ذَنْبٍ خَطُوتُ إِلَيْهِ بِرَجُلِي أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ

رُجُوعِ كِيَا لِيكِنِ تُو نِي پِھَرِ پِھَرِ دَارِي فَرْمَانِي۔ اُورِ هَرُودِي كِنَاھِ كِي چَلَا مِي طَرَفِ اس كِي پَاؤُوں كِي سَاھِ يَاطْرُفِ اس كِي طَرَفِ يَاطْحِي بَرُحَا يَاطْحِي

يَدِي أَوْ تَأَمَّلْتَهُ بِبَصَرِي أَوْ أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ بِأُذُنِي أَوْ نَطَقْتُ بِهِ

يَا اِسِي بِنُورِ دِيكْھَا يَاطْرُفِ اس كِي طَرَفِ كَانِ لَكَا يَاطْرُفِ اس كِي نَطْقِ كِيَا

بِلِسَانِي أَوْ أَتَلَفْتُ فِيهِ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ اسْتَرَزَقْتِكَ عَلَى عَصَاكَ

زَبَانِ كِي سَاھِ يَاطْرُفِ اس فِي تِيرِي اِعْطَا كَرْدِي رِزْقِ پِھَرِ مِي نِي نَافَرْمَانِي دَارِي كِي بَاوُجُودِ رِزْقِ طَلَبِ كِيَا

فَرَزَقْتَنِي ثُمَّ اسْتَعَنْتُ بِرِزْقِكَ عَلَى عَصَاكَ فَسَأَلْتُكَ

تُو تُو نِي رِزْقِ اِعْطَا فَرْمَا يَاطْرُفِ مِي نِي قُوْتِ حَاصِلِ كِي تِيرِي رِزْقِ كِي سَاھِ تِيرِي نَافَرْمَانِي پَرِ پَسِ تُو نِي پَرُودِي دَارِي فَرْمَانِي

وَسَأَلْتُكَ الزِّيَادَةَ فَلَمْ تَحْرُمْ مِنِّي ثُمَّ جَاهَرْتُكَ بِعَدْوِي

اُورِ مِي نِي تِجْھِ سِي مَزِيدِ كَا سُوَالِ كِيَا پَسِ تُو نِي مَحْرُومِ نِي فَرْمَا يَاطْرُفِ مِي نِي اِعْلَانِي مِخْلُوقِ كِي حِصُولِ مَزِيدِ كِي بَعْدِ

فَلَمْ تَفْضَحْنِي فَلَا أَنْزَالُ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَلَا تَزَالُ عَائِدًا

پس نے مجھے رسوا نہ کیا تو میں ہمیشہ سے مصر رہا تیری معصیت پر اور تو ہمیشہ مجھ پر متوجہ رہا

عَلَى بِحَبْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور رہے گا اپنے علم اور کرم کے ساتھ اے سب کرمیوں سے بڑے کریم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُلْغَاءِ الْخُطَبَاءِ الصُّلَحَاءِ

محمد پر اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں بلغاء خطباء صلحاء

الْحُكَمَاءِ الْخُلَفَاءِ الشُّرَفَاءِ الْكُرَمَاءِ الظُّفْرَاءِ الْفُصَحَاءِ الشُّهَدَاءِ

علماء خلفاء شرفاء کرماء عقلاء فصحاء اور شہداء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّقَبَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں نگرانوں

النُّجَبَاءِ الرَّحَمَاءِ الْقُرَبَاءِ الْعُتَقَاءِ الْكِبَرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

شریف النسب۔ رحیموں۔ قریبوں۔ مردان حر اور بزرگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْنَاءِ الْمُبَارِكِ الطَّيِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں روشن و نورانی، مبارکت اور پاکیزہ لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلَكُوتِ الْجَبَرُوتِ الْكَائِنَاتِ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ملکوت و جبروت کے اور کائنات

الْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

و موجودات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْأَوْتَادِ الزُّهَادِ الْعُبَادِ الذَّاكِرِ الظَّاهِرِ الْبَشِيرِ التَّذِيرِ الْأَبْرَارِ الْاٰخِيَارِ

اوتاد۔ زاہدوں۔ عابدوں کے، ذکر کرنے والوں۔ پاکیزہ۔ بشارت دینے والوں۔ ڈرانے والوں کے بخوبی اور نخب بیت

الْاٰخِيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ

اور منتخب لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اشراف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَبْدَانِ وَالْقَبَائِلِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ابدال کے اور قبائل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ساری مخلوق کے اور رؤف

الرَّحِيمِ هَيْسَ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مخلوق کے

إِذَا حُشِرُوا وَمُبَشَّرَهُمْ إِذَا أَيَسُّوا وَشَفِيعَهُمْ إِذَا حُبِسُوا اللَّهُمَّ

جبکہ تمام مخلوق کو جمع کیا جائیگا اور مژدہ سنانے والے ہیں انہیں جب مایوس ہوں گے اور ان کے شفیع ہیں جب حساب کیے روکے جائیں گے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمَصْطَفَى الْبِجْتَبَى الرَّتَقَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ

الْمَطَهَّرِ الْمَعْلَى الْمَرْكُزِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مطہر - بلند مرتبت اور پاکیزہ ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

السَّيِّدِ النَّبِيِّ الشَّامِيِّ الْوَلِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَيْشِيِّ الْحَرَمِيِّ الْحِجَازِيِّ

جو سید، نبی، شامی، ولی، ہاشمی، قریشی، صاحب حرم، صاحب حجاز

الْبُرَائِيِّ التَّهَامِيِّ الْأَبْطَحِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

صاحب بزاز، صاحب تھامہ اور صاحب بطحاء مکہ ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الْبُرَائِيِّ التَّهَامِيِّ الدَّاعِيِّ التَّوَّاصِيِّ

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید (خلائق) نبی - میدانوں میں بسیر کرنے والے - منع فرمانے والے - دعوت دینے والے (خلائق کی) پیشانیوں

الرَّضِيِّ الْعَلِيِّ السَّخِيِّ الْجَلِيِّ الْحَفِيِّ الْوَفِيِّ الصَّفِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر تھرون والے پسندیدہ (خلائق و خلق) بلند مرتبت سخی - ظاہر پوری طرح چھان بین کرنے والے - وفا والے - باصفا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الْغَنِيِّ الْهَدْرِيِّ الْبُرْهَانِيِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید نبی، غنی، متقی، ہدایت یافتہ - پاکیزہ

الْمَقْرَبِي النَّجِيِّ الْمُقْتَدِي الْهُدَى الْمُتَّقِي الْمَغْنَى الْأَرْقَى الْمَكِّيَّ الْمَدَنِيَّ

(اعلیٰ مقام میں) قرار پانے والے۔ ہیکلامی کا شرف پانے والے۔ (اوصاف کمال میں انبیاء کی) موافقت کرنے والے۔ ہدیہ بخشنے والے متقی۔ غنی کنیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بِحَقِيقَتِهِ

آئی مکی مدنی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب باعتبار اپنی حقیقت کے

وَإِسْطَةَ الْوُجُودِ وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

واسطہ و برزخ ہیں وجود (خالق) اور شہود (خالق) کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فِي الْعَجَمِ وَالْكَلِّ

آل محمد پر جو آقا عربوں کے سردار ہیں عرب میں اور عجمیوں کے عجم میں۔ اور سب کے سردار ہیں

فِي الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہر جگہ اور ہر زمانہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں

الْخَلْقِ بِسَيَادَتِكَ وَكُلِّ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ سَيَادَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

تمام مخلوق کے بسبب تیری (عطا کردہ) سرداری کے۔ اور ہر اس شئی کے سردار ہیں جس پر تیری سرداری ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِينَ وَسَيِّدِ

سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں انبیاء و مرسلین کے اور سردار ہیں

أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

تمام آسمان و زمین والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِّيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں تیری تمام مخلوق کے سرداروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آل محمد پر جو تمام بندوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْعَلِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید ہیں علم (ظاہر و باطن) کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِكُلِّ مَسِيودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں ہر سیادت والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْيَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو سادات کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجُنُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں شکروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید اعظم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَوْلِيَاءِكَ الْعَارِفِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں تیرے اولیاء عارفین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَلَائِكَتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں تیرے ملائکہ

الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا

مقربین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو ہمارے سردار

رَسُولٍ مُّسْتَعِيثٍ مُّقْتَصِدٍ حَلِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کہ رسول (اللہ سے) طالب امداد۔ درمیانہ رو اور حلیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُونِيْنَ وَالْثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں کونین اور جن و انس اور فریقین (عرب و عجم) کے

فَتْاحِ فَاتِحِ اللَّهِ نَصْرُ مَنْ أَلَىٰ اللَّهُ وَفَتْحُ قَرِيبِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

مشکلات حل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب فتح، اللہ تعالیٰ کی مجسم نصرت اور قریب ترفیح۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج



عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْرَارِ الْمَلَكُوتِ وَالْعَالَمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ ملک ہیں اسرار ملکوت اور تمام جہان کے ساتھ اور عالم ہیں

بِغَايَةِ الرَّغْبَةِ وَالْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

غایت رغبت اور جبروت و جلال خداوندی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں دنیا و آخرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا الْأَكْمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو ہمارے سید اکمل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْفَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں بچوں کے (بچپن میں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّيُوخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں شیوخ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُهُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں ادھیڑ عمر والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ اللَّيِّنِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو نرم مزاج سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الرَّتَبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں عالی مرتبت

الْفَاضِلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ

لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ چودھویں کے

الْبَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

چاند ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا فریقین

الْفَرِيقَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

(عرب و عجم کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو

سَيِّدِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آقا سردار ہیں تمام جہانوں کے علی الاطلاق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آل محمد پر جو آقا سید الوجود ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو محبوب سردار ہیں تمام ارباب فضیلت اور اصحاب جود و نوال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سید ازل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَبَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید الابد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید الوری (مخلوق) ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْمَشَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اہل مشرق کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْمَغَارِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اہل مغرب کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلَا أَعْلَى اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ ملا اعلیٰ کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَبَاتِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ بلند مرتبت سردار ہیں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَبَاتِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ بلند مرتبت سردار ہیں اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید امت ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْكَامِلِ النَّبِيِّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید کامل عظیم المرتبت ہیں

الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو وحی انہی اور کلام منزل لائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہر چھوٹے اور بڑے کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمَعْلَى الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید معلی و اعلیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِ بَيْنَنَا

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں جن و انس کے۔ منع فرمانے والے ہیں درانیوں سے آہٹ

رَسُولُ صَاحِبِ النُّعْمَةِ هَاشِمِيٌّ كَرَامَةٌ اللَّهُ فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ

نبی۔ رسول۔ مالک نعمت۔ ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ کی مجسم عنایت اور کرم۔ پس اے میرے رب صلوات و سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْ لِي وَ

اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور میرے لیے مغفرت فرما اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَجْمَعِينَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا

تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے اے بہت بخشنے والے۔ اے اللہ بے شک ہم

نَسَأُكَ الرِّضَا وَالْعَفْوَ عَنَّا مَضَى يَا مَنْ يَعْفُو عَنِ الزَّلَّاتِ وَ

سوال کرتے ہیں تجھ سے رضاد کا اور عفو کا ان تمام لغزشات سے جو ہو چکیں۔ اے کہ درگزر فرماتا ہے لغزشوں سے اور

يُرْحَمُ الْعَصَاةَ وَيُدْحُوا السَّيِّئَاتِ يَا إِلَهِي عَلَى الذُّنُوبِ نَدَامُنَا

رحم فرماتا ہے گناہگاروں پر اور مٹاتا ہے سیئات کو۔ اے میرے خدا، گناہوں پر ہم نادم ہیں

وَعَلَى عَدَمِ الْعُودِ عَزَمْنَا وَبِنَبِيِّكَ تَوَسَّلْنَا وَإِلَيْكَ تَقَرَّبْنَا فَلَا تَكْرِهًا

دوبارہ نہ کرنے پر عازم ہیں، تیرے نبی کے ساتھ توسل کرتے ہیں اور تیری بارگاہ کا قرب طلب کرتے ہیں پس میں روز

وَلَا تَقْطَعُ حَبْلَ رَجَائِنَا وَلَا تَوَاخِذُنَا بِمَا وَقَعْنَا فِي صَبَاحِنَا وَسَائِنَا

فرما اور ہماری امید ورجا کے اسباب قطع نہ فرما۔ اور ہم سے مواخذہ نہ فرما ان امور پر جو سرزد ہوئے ہماری صبحوں اور شاموں میں

يَا إِلَهِي إِنْ طَرَدْتَنَا عَنْ بَابِكَ فَعَلَى بَابِ مَنْ نَقِفُ وَإِنْ قَطَعْتَ

اے میرے خدا اگر تو نے ہمیں ٹھکرا دیا اپنے دروازے سے تو پس کون سے جس کے در پر ہم ٹھہریں اور اگر تو قطع کرے

رَجَائِنَا مِنْ جَنَابِكَ فَسَنْ تَرْتَجِيهِ وَنَسْتَعِظُ كَيْفَ وَقَدْ أَطْمَعْتَ

ہماری رجاء و امید کو تو کون ہے جس سے امید رکھیں اور لطف و کرم کی بھیک مانگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ تو نے امید دلائی ہے

كُلَّ شَقِيٍّ هَالِكٍ فَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلَىٰ بِدَلِكِ يَا إِلَهِي سَارَتِ السُّفُنُ

ہر بد بخت۔ تباہ حال کو تو مومن زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ اے میرے خدا چل پڑیں سب کی کشتیاں (سوئے منزل)

وَسَفِينَتِي وَقَفْتُ وَأَنْتَهتِ النَّفُوسُ وَنَفْسِي مَا أَنْتَهتِ

اور میری کشتی کھڑی ہے اور باز آگئے تمام نفوس (اپنی خواہشات سے) اور میرا نفس باز نہیں آیا

إِلَهِي أَسْأَلُكَ فَتَحَالِلًا بِوَابِ تَرْجِيئًا بِالطَّلَابِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ

اے میرے الہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے (بارگاہ کرم کے) دروازوں کے کھولنے کا سائلوں کو خوش آمدید کہنے کیلئے۔ اے اللہ دوری

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّرِكِ بَعْدَ الْإِسْ لَهْ حَدًّا وَاخْتِمُ لَنَا بِالْإِيمَانِ وَ

پیدا فرما درمیان میرے اور درمیان شرک کے اتنی دوری کہ جس کی حد ہی نہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر منسب اور

أَمْزِجْهُ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي بِرِضَاكَ ضَعِيفٌ

ایمان کو ملا دے ہمارے روح اور جسم کے ساتھ۔ اے اللہ میں کمزور ہوں پس قوی فرما مجھے اپنی رضا کے ساتھ اور بناوے

وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَىٰ رَغْبَتِي وَيَلْغِي بِرَحْمَتِكَ الْبُغْضَ أَرْجُو

اسلام کو میری رغبت کا منتہی اور پہنچائے مجھے بطفیل اپنی رحمت کے جس کا میں امید دار ہوں

رَحْمَتِكَ وَخُذْ لِي الْخَيْرَ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلْ لِي وَدَّائِي صِدْقًا وَرِثَةً

اپنی رحمت خاص تک۔ اور پکڑ کر متوجہ کر طرف خیر کے میری پیشانی کو اور سدا فرما میری محبت ایمان داروں کے سینوں

اٰمَنُوْا وَعٰهَدُوْا عِنْدَكَ فِيْ قُلُوْبِ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ

میں اور میرا عہد اپنے ہاں تمام مومنین کے قلوب میں لے دو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْلَمِيْنَ وَالْمُتَعَلَّمِيْنَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں معلموں کے اور راہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم پانہوالوں کے

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَالِمُ وَاَنَا الْغَافِلُ فَمِنْ يَّدِ الْغَافِلِ اِلَّا الْعَالِمُ

اے اللہ تو ہی عالم ہے اور میں ہی غافل ہوں پس کسی کو پکارے غافل سوائے عالم کے

يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَاَنَا الْبَاطِلُ فَمِنْ يَّدِ الْبَاطِلِ اِلَّا

اے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو ہی حق اور دائم ہے اور میں زائل و فنا پذیر ہوں تو کس کو پکارے فانی سوائے

الْحَقِّ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَادِلُ وَاَنَا الْمَظْلُوْمُ فَمِنْ يَّدِ

باقی و دائم کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی عادل ہے اور میں مظلوم ہوں پس کس کو پکارے مظلوم

الْمَظْلُوْمِ اِلَّا الْعَادِلُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَعْبُوْدُ وَاَنَا الْعَابِدُ

سوائے عادل کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی معبود ہے اور میں عابد ہوں

فَمِنْ يَّدِ الْعَابِدِ اِلَّا الْمَعْبُوْدُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَائِمُ وَاَنَا

پس کس کو پکارے عابد سوائے اپنے معبود کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی قائم اور ابدی ہے اور میں

الْمَعْدُوْمُ فَمِنْ يَّدِ الْمَعْدُوْمِ اِلَّا الْقَائِمُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ

معدوم ہونے والا ہوں تو کس کو پکارے معدوم سوائے قائم کے اے میرے رب۔ اے اللہ

اَنْتَ الْقَاسِمُ وَاَنَا الْمَقْسُوْمُ فَمِنْ يَّدِ الْمَقْسُوْمِ اِلَّا الْقَاسِمُ يَا رَبِّ

تو ہی قاسم ہے اور میں قسمت و نصیب دیا جانے والا ہوں تو کس کو پکارے طالب قسمت سوائے قاسم کے اے میرے

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْمَرْبُوْبُ فَمِنْ يَّدِ الْمَرْبُوْبِ اِلَّا الرَّبُّ يَا رَبِّ

رب۔ اے اللہ تو پالنے والا ہے اور میں پرورش پانے والا ہوں تو کس کو پکارے پرورش پانے والا سوائے اپنے رب کے اے میرے رب

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ وَاَنَا الْمَقْدُوْرُ فَمِنْ يَّدِ الْمَقْدُوْرِ اِلَّا الْقَادِرُ يَا رَبِّ

اے اللہ تو ہی قادر ہے اور میں تیرے تصرف میں ہوں تو کس کو پکارے ماتحت سوائے اپنے مالک قدرت کے اے میرے رب

يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا حَمِيدًا أَنْتَ الْمَحْمُودُ وَرَبُّكَ الْمُسْتَعْتَبُ

اے عجائب کو خیر کے ساتھ ایجاد فرمانے والے۔ اے حمید تو ہی محمود ہے اور رب ہمارا معبود ہے۔ اے دوست

أَنْتَ الْمُدُّودُ وَفَضْلُكَ الْمَعْرُودُ وَيَا بَرًّا أَنْتَ الْبَارُ وَبِكَ الْمَرْغُودُ

تو ہی مستحق مودت و محبت ہے اور تیرا فضل معلوم و معروف ہے اور اے احسان کرنے والے تو ہی محسن ہے اور تیرا احسان ہو مورد

خَيْرِكَ الْمَشْهُودِ يَا حَيُّ كُنْتَ حَيًّا حِينَ لَا حَيٌّ وَتَكُونُ حَيًّا حِينَ لَا حَيٌّ

اور تیری خیر دیکھی بجا ہے۔ اے حئی تو زندہ تھا جبکہ کوئی بھی زندہ نہیں تھا اور زندہ ہو گا جبکہ کوئی زندہ نہیں ہو گا

يَا قَائِمٌ أَنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمُبَازِي بِمَا عَمِلَتْ

اے نگران تو ہی نگرانی فرمانے والا ہے ہر نفس پر اس کی کمائی میں۔ اور جزا دینے والا ہے اس کے عمل کی

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا جَمِيلٌ أَنْتَ الْمَجْمَلُ الْجَمِيلُ فَلَا يَحِقُّ هَذَا

اے مالک جلال و اکرام کے۔ اے جمیل تو ہی جمال بخشنے والا، بزرگی والا ہے پس نہیں لائق یہ

الْإِسْمُ إِلَّا لَكَ وَلَا يَلِيْقُ إِلَّا بِكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْمَكْرَمُ وَأَنْتَ الْجَوَادُ

اسم مگر تیرے ہی اور نہیں موزوں مگر ساتھ تیرے۔ تو کریم مکرم ہے اور تو صاحب جود و

الْمَنْعَمُ وَخَيْرِكَ كَثِيرٌ وَفَضْلُكَ كَبِيرٌ يَا كَبِيرَ الْمُسْتَكْبِرِ لَكَ التَّسْبِيحُ

صاحب انعام ہے اور تیری خیر عام ہے اور تیرا فضل بہت بڑا ہے۔ اے کبیرے مالک کبریائی کے تیری ملک میں ہی

الْكِبْرِيَاءُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الْخُشُوعُ إِلَّا لَكَ وَالتَّوَكُّلُ إِلَّا عَلَيْكَ وَ

نعمتیں اور کبریائی، نہیں زیبائی کسی کو خشوع مگر تیرے لیے اور نہ توکل مگر تجھ پر اور نہ

الْإِعْتِصَامُ إِلَّا بِكَ وَالتَّفْوِيضُ إِلَّا إِلَيْكَ يَا فَرْدُ يَا وَرَثَةُ الرَّبِّ

عصمت حاصل کرنا مگر ساتھ تیرے۔ اور نہ امور کو سونپنا مگر طرف تیرے۔ اے فرد اے بکتا تو ہی رب سے

وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا نَدُّ عُوْلُوكَ وَالِدًا وَالْأَوْلَادُ لَكَ

اور ہم سب تیرے عباد، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ ہم تیرے لیے والد مانتے ہیں اور نہ اولاد اے

أَحَدٌ يَا حَيُّ أَحْيَيْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَأَسْقِنِي مِنْ شَرَابِ الْمَعْدِنِ

یکانہ، اے حئی مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما اور مجھے پلا اپنے شراب محبت سے شریں تر

وَاطْيَبَهُ يَا حَبِيبُ إِلَهِي حَقَّقْ حَيَاتِي بِكَ تُحَقِّقْنِي بِحَقَائِقِهَا فَهِيَ

اور پاکیزہ تر شراب لے حبیب۔ اے میرے خدا میری حیات کو پائیدار بنا ساتھ اپنی توفیق کے مجھے قائم فرمے اس کے حقائق کے

بِحَقَائِقِهَا أَيضًا سِوَاكَ كَمَا أَنَّهَا بِصُورِهَا سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ساتھ اور یہ حیات (مخوفہ) اپنے حقائق کے لحاظ سے بھی تیری غیر ہے جیسے کہ باعتبار صورت کے تیری غیر اور سوا ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلَامٌ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ لَّهُ نَسَبَةٌ إِلَيْهِ صُورَةً أَوْ مَعْنَى

سلام اور برکات نازل فرما ان پر اور ہر اس شخص پر جسے ان سے کسی طرح کی نسبت ہو صوری ہو یا معنوی

دِينِيَّةً قَلْبِيَّةً أَوْ رُوحِيَّةً نَبَوِيَّةً أَوْ وَلَوِيَّةً اللَّهُمَّ اعْفُفْنِي فِي

دینی قلبی ہو یا روحی نبوی خواہ ولایت والی۔ اے اللہ مجھے عفو سے بہرہ ور فرما

الدَّارَيْنِ بِسَيِّدِي وَسَيَادَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَقَبُولِهِ فِي الْكُونَيْنِ وَكُلِّ

دارین میں بطفیل میرے آقا اور ان کی سیادت کے اور بطفیل ان کی عزت و قبولیت کے کونین میں اور سبھی

يَرْجِعُ إِلَيْكَ وَلَا يَجْرِي الْفَنَاءُ وَلَا الزَّوَالُ عَلَيْكَ يَا بَارِيُّ يَا مَصُورُ

تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں اور نہیں جاری ہو سکتی فنا اور زوال تجھ پر اے صیغ و سالم پیدا کرنے والے

أُحْدِثْتُ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاكَ كَمَا أَرَدْتُ وَبَرَاتٌ فَأُحْكِمْتُ وَ

اے صورتیں بنانے والے، تو نے ہی پیدا کیا ہے اپنے علاوہ ہر موجود کو جیسے ارادہ فرمایا اور تو نے پیدا فرمایا پس مضبوطی بخشتی اور

صَوَّرْتُ وَخَلَقْتُ فَأَحْسَنْتُ وَسَوَّيْتُ فَعَدَلْتُ يَا وَاحِدُ يَا

صورتیں بنائی اور وجود بخشتا پس خوب بنایا اور درستی بخشتی پس موزوں ترین بنایا اے واحد اے

أَحَدًا لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا مِثْلَ لَكَ وَلَا نَظِيرَ لَكَ يَا غَنِيُّ وَلَا وَزِيرَ لَكَ وَ

احد۔ نہیں شریک تیرے لیے اور نہ مثل تیری اور نہیں ہے نظیر تیری اے بے نیاز اور نہ کوئی تیرا وزیر ہے اور

لَا مُشِيرَ لَكَ وَلَا مُعِينَ لَكَ وَلَا نِدَّ لَكَ وَلَا جَارَ لَكَ وَلَا حَدَّ لَكَ وَلَا

نہ کوئی تیرا مشیر اور نہ مددگار۔ نہ کوئی مد مقابل۔ نہ پڑوسی۔ اور نہ کوئی تیری حد ہے نہ

كُفُولَ لَكَ وَلَا ضِدَّ لَكَ وَلَا مُنَازِعَ لَكَ وَلَا مُدَبِّرَ لَكَ وَلَا مُعِينَ

تیری کفو ہے اور نہ ہی ضد اور نہ کوئی تیرے ساتھ نزاع کرنے والا اور نہ تدبیر کرنے والا اور نہ اعانت کرنے والا

لَكَ وَلَا ظَهِيرَ لَكَ بَلْ كَانَ قَبْلَ وُجُودِ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ

اور نہ پشت پناہ - بلکہ (تو) تھا تمام جہانوں سے قبل اور ہمیشہ سے تھا

وَلَمْ يَزَلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَلِكًا كَرِيمًا قِيَوْمًا ابَدًا لَا يَدِينُ وَدَهْرًا

اور ہمیشہ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب ملک، صاحب کرم، قائم رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جب تک اہل دہر موجود

الدَّاهِرِينَ فَهُوَ أَحَاطَتِي مِنْ جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَالسَّلَاطِينِ وَعَوْنُ

رہیں گے پس وہی میری نگہداشت کرنے والا ہے تمام شیاطین و سلاطین سے اور میرا مددگار ہے

لِي مِنْ جَمِيعِ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ يَا مَا جَدِيَا بِحَيْدِكَ الْبَدَاكَ

تمام تر قریبوں اور دور کے رشتے والوں سے - اے ماجد - اے مجید - بزرگی تمام تر تیرے ہی لیے ہے

وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَكَانَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور تیرے ہی لیے ہے حمد تمام تر اور تیرے لیے ہی ہے مخلوق سبھی اور تیری طرف ہی لوٹتا ہے ہر امر تمام تر حمد اللہ کیلئے

الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِنشَاءِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْأَخْرَبَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَلِيَّةِ الَّذِي

ہے جو پہلے ہے (ہر چیز کی) ایجاد اور احیاء سے اور آخر و باقی ہے تمام اشیاء کی فنا کے بعد بھی - ایسا علیم ہے کہ

لَا يَنْسَى مِنْ ذِكْرَةٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ شُكْرَةٍ وَلَا يَخِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ

نہیں بھلاتا اپنا ذکر کرنے والوں کو اور نہیں کمی کرتا شکر گزاروں کی جزا میں اور نہیں محروم رکھتا اپنے دعا کرنے والوں کو اور نہیں قطع

رَجَاءَ مَنْ رَجَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأَشْهَدُ جَمِيعَ

کرتا امید رکھنے والوں کی امید کو - اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو کافی ہے بطور گواہ کے اور گواہ بناتا ہوں تیرے تمام

مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَحَبَلَةَ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ

ملائکہ اور آسمانوں میں بسنے والوں کو - اور حاملین عرش کو اور جنہیں تو نے مبعوث فرمایا یعنی

أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

انبیاء و رسل کو اور جنہیں ایجاد فرمایا یعنی تمام اقسام کی مخلوق کو اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تو

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا عَدْلُكَ وَلَا

ہی اللہ ہے نہیں معبود برحق مگر تو ہی اکیلا تیرا شریک نہیں اور نہ ہم پلہ اور تیرے قول کا

خُلفَ لِقَوْلِكَ وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ تیرے کلمات میں تبدیلی اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَذَى مَا حَبَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ عَزَّ

و سلم تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں، انہوں نے ادا کر دیا بندوں کی طرف تیرا بار رسالت اور انہوں نے جہاد کیا اللہ

وَجَلَّ حَقُّ الْجِهَادِ وَأَنْتَ بَشَرٌ بِمَا هُوَ حَقٌّ مِنَ الثَّوَابِ وَأَنْذِرْ بِمَا هُوَ

عزوجل کی راہ میں جیسے کہ حق تھا جہاد کا اور یہ کہ انہوں نے بشارت دی ثواب برحق کی۔ اور ڈرانا اس سے

صَدَقٌ مِنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ تَبَتَّنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَلَا

اس عذاب و عقاب کے جو سچا اور واقعی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب تک مجھے زندہ رکھے اور نہ

تَزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

ٹیرھا کر میرے دل کو بعد ہدایت دینے کے اور عطا فرما مجھے اپنی طرف سے رحمت خاصہ بے شک تو

أَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے وہاب۔ اے وہاب۔ اے وہاب۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر

وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَشْيَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَأَحْشِرْنِي فِي زَمَرَتِهِ

اور آل محمد پر اور مجھے ان کی جماعت اور گروہ سے بنا اور مجھے انہیں کی جماعت میں اکٹھا کرنا

وَوَفَّقْنِي لِإِدَاءِ فُرْضِ الْجُمُعَاتِ وَمَا أُوجِبَتْ عَلَيَّ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ

اور مجھے توفیق دے فرض جمعوں کی اور ان میں واجب و لازم طاعات کی ادائیگی کی اور

قَسَبَتْ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جو قسمت فرمائی اہل طاعات کے لیے عطا سے یوم جزاء میں بیشک تو غالب حکمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا

تمام تر حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو لے گیا تاریک رات کو اپنی قدرت سے اور لے آیا روشن دن کو

بِرَحْمَتِهِ وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَأَتَانِي نِعْمَتَهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ

اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور مجھے اسکی روشنی اور ڈھائی اور اپنی نعمت عطا فرمائی۔ اے اللہ پس جیسے تو نے باقی رکھا مجھے اس دن کیلئے

فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَلَا تَفْجَعْنِي وَوَلِيٍّ

مجھے اس جیسے دوسرے دنوں کے لیے باقی رکھ اور رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر اور نہ مجھے غمزدہ کر اس میں اور

فِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ يَا رَبِّ تَكَاثُرَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَابِ الْمَبْرُورِ

نہ دوسری راتوں اور دنوں میں حرام کاموں کے سرزد ہونے سے اور گناہ کمانے سے

وَأَرْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ وَشَرَّ مَا

اور مجھے نصیب فرما اس کی خیر۔ جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور اس کے بعد کی خیر اور مجھ سے دور فرما اس کا شر۔ اور جو اس

فِيهِ وَشَرَّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَبِحُرْمَةِ

میں ہے اس کا شر اور اس کے بعد والے شر سے۔ اے اللہ میں ذمہ اسلام کے ساتھ تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور حرمت

الْقُرْآنِ أَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قرآن کے ساتھ تجھ پر اعتماد کرتا ہوں اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَأَعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا قَضَاءَ

شفاعت طلب کرتا ہوں تیرے ہاں تو اے اللہ محفوظ رکھ میری اس ضمانت کو جس کی بدولت میں نے امید رکھی ہے تجھ سے قضاء

حَاجَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْخَيْرِ مِنْ خَلْقِكَ

حاجات کی اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ فیصلہ فرما میرے لیے خیر میں پانچ مطالب کا

لَا يَنْتَسِعُ لَهَا إِلَّا كَرَمُكَ وَلَا يُطِيقُهَا إِلَّا نِعْمَتُكَ سَلَامَةً أَوْ

کہ نہیں گنجائش رکھتا ان کی مگر تیرا کرم اور نہیں استطاعت رکھتی ان کی مگر تیری نعمت (اول) سلامتی جس کی بدولت میں

بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَعِبَادَةِ اسْتَحِقُّ بِهَا جَزِيلٌ مَثُوبَتِكَ وَسِعَةً

تقویت پاؤں تیری طاعت پر (دوم) عبادت جس کی بدولت مستحق ٹھہروں تیرے ثواب جزیل کا (سوم) وسعت

فِي الْحَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَأَنْ تُؤْمِنَنِي فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ

رزق حلال کی فوری طور پر۔ (چہارم) مجھے امن میں رکھے مقامات خوف میں اپنے

بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ طَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغَمُومِ فِي حَضْرَتِكَ

خاص امن کے ساتھ۔ پنجم۔ مجھے اپنے قلم حفظ میں رکھے طاری ہونے والے ہوم و غموم سے۔ اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوْسُلِي بِهِ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور میرے ان کے ساتھ وسیلہ پڑنے کو بنا دے

شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ هَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

شافع و نافع بروز قیامت۔ بیشک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں

الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

جس نے رات کو لباس (کی مانند) بنایا۔ اور نیند کو موجب آرام و سکون اور دن کو سبب نشور اور کام کا ج کے لیے بنایا

لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَلَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا أَحَدًا

تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے نیند سے بیدار کیا اور اگر تو چاہتا تو اس کو ہمیشہ کی نیند بنا دیتا

دَائِمًا لَا يَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا يُحْصَى لَهُ الْخَلْقُ عَدَدًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

ایسی حمد کہ دائم اور مسلسل اور تمام مخلوقات اس کے اعداد کا احاطہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

أَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ وَأَمَتَّ وَأَحْيَيْتَ وَأَمْرَضْتَ

کہ تو نے پیدا کیا پس درست بنایا اور اندازہ لگایا اور عمل مندرمایا اور موت دی اور زندہ فرمایا اور مریض

وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَأَبْلَيْتَ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمَلِكِ

بنایا اور شفا دی۔ عافیت دی اور آزمائش میں ڈالا۔ اور عرش پر غالب ہوا اور ملک کائنات پر

إِحْتَوَيْتَ أَدْعُوكَ دَعَاءً مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ وَأَنْقَطَعَتْ

حاوی اور غالب ہوا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مانند ضعیف وسیلے والے کی دعا کے کہ منقطع ہو چکے ہوں

حِيلَتُهُ وَاقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَتَدَانِي فِي الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَاشْتَدَّتْ إِلَيَّ

جس کے اسباب و حیلے اور اس کی موت قریب آچکی ہو اور قریب آچکی ہو دنیا میں آرزو اس کی اور سخت ہو چکی

رَحْمَتِكَ فَاقْتَرَبَتْ وَعَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ وَكَثُرَتْ نَزْلَتُهُ وَ

تو تیری رحمت کی طرف محتاجی اس کی اور عظیم ہو چکی ہو بوجہ کوتاہیوں کے حسرت اس کی اور بہت ہوں لغزشیں اس کی

عَثُرْتُهُ وَخَلَصْتُ بِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

اور گراؤ میں اور بہت ہو چلیں تیرے تصدق میں توبہ اس کی۔ پس رحمت کاملہ نازل فرما محمد آخر الزمان نبی پر

وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ

اور ان کے طیب و طاہر اہل بیت پر اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَكَ إِنَّكَ أَنْتَ أَمْرٌ حَمْدُ

اور مجھے ان کے شرف صحبت سے محروم نہ فرما بے شک تو ارحم الراحمین

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْأَرْبَعَاءِ أَرْبَعًا جَعَلَ قُوَّتِي فِي

بے۔ اے اللہ میرے لیے فیصلہ فرما بدھ کے دن میں چار چیزوں کا میری قوت صرف فرما

طَاعَتِكَ وَنَشَاطِي فِي عِبَادَتِكَ وَرَغْبَتِي فِي ثَوَابِكَ وَنَهْدِي

اپنی طاعت میں اور میری مسرت و شادمانی اپنی عبادت میں اور میری رغبت اپنے ثواب میں اور میری بے رغبتی

فِيهَا يُوْجِبُ لِي إِلَيْمُ عِقَابِكَ إِنَّكَ لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ وَصَلَّى اللَّهُ

ان امور میں بنا جو عذاب الیم کے موجب ہوں بے شک تو احسان فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہے اور رحمت کاملہ نازل

عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَشِيرَتِهِ

فرمائے اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب اور اہل بیت اور عزت پر اور قریبی برادری پر

وَأُظْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ أَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ أَحَدًا

اور آپ کے معاونین و انصار تمام پر۔ تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو گواہ نہ بنایا

حِينَ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا اتَّخَذَ مَعِينًا حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ

جبکہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور نہ کسی کو معاون بنایا جبکہ ارواح و نفوس کو پیدا فرمایا

لَمْ يَشَارِكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ

نہ کوئی اس کی الوہیت میں شریک اور نہ اس کی وحدانیت میں معاون۔ زبانیں گنگ ہیں اس

عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَتَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ

کی کامل تعریف سے اور عقول عاجز ہیں اس کی معرفت حقیقت اور سرنگوں ہو گئے سرکش

لِهَيْبَتِهِ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ وَاللَّهُ

اس کی ہیبت کی وجہ سے اور جھک گئے چہرے اس کی خشیت اور تابعداری کی ہر صاحب عظمت نے اس کی عظمت کی وجہ سے پس نہ

الْحَمْدُ مَتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْثِقًا وَصَلَوْتُهُ عَلَى رَسُولِهِ

یہی حمد ہے پے درپے، مسلسل اور لگاتار و مربوط اور اس کی رحمت کاملہ ہو اس کے رسول پر

أَبَدًا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا

ہمیشہ اور اس کا سلام ہو دائمی و سرمدی۔ اے اللہ بنا دے میرے اس دن کا پہلا حصہ

صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ

بہتری و درستگی۔ اور درمیانی حصہ کامیابی اور آخری حصہ خلاص اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے دن سے

أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَآخِرُهُ وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ

کہ اس کا اول گھبراہٹ و بے چینی ہو اور درمیان بے صبری اور آخر دروالم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں

لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَكُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتُهُ ثُمَّ

ہر اس نذر کی جو میں نے مانی اور ہر اس وعدہ سے جو میں نے کیا اور ہر اس عہد سے جو میں نے کیا پھر

لَمْ أُؤْفِ بِهِ وَأَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي فَأَيُّهَا عَبْدٌ مِّنْ

میں نے اس کو پورا نہ کیا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بندوں کے حقوق کے متعلق جو میرے پاس ہیں کہ جس تیرے

عَبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِّنْ أُمَّتِكَ كَانَتْ لَهُ قَبْلِي مُظْلِمَةٌ ظَلَمْتُهَا أَيَّامًا

بندے یا باندی کا میرے پاس حق ہے جس میں میں نے ظلم کیا ہے اس پر

فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عَرَضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ غَيْبَةً

اس کی ذات میں یا عزت میں یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد میں یا غیبت ہو

أَغْتَبْتُهُ بِهَا أَوْ تَحَامَلْتُ عَلَيْهَا بِمَيْلٍ أَوْ هَوًى أَوْ انْفِقَةً أَوْ حَمِيَّةً أَوْ

جو میں نے کی یا کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی بسبب میلان یا خواہش نفس یا تکبر یا حمیت یا

رِيَاءٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ غَائِبًا كَانَ أَوْ شَاهِدًا حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَقَصُرَتْ

ریاکاری یا بیجا طرف داری کی وجہ سے غائب ہو یا حاضر، زندہ ہو یا فوت شدہ پس قاصر ہو گیا

يَدَايَ وَضَاقَ وَسُعِيَ عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُ فَاسْأَلُكَ

میرا ہاتھ اور تنگ ہوئی میری وسعت اس کے لوٹانے سے یا معان کرانے سے پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

يَا مَنْ يَبْلُغُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيئَتِهِ وَمُسْرِعَةٌ إِلَى

اے کہ مالک ہے تمام حاجات کا جبکہ وہ حاضر ہیں اس کی مشیت کے آگے اور جلدی کرنے والی ہیں اس کے

إِزَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرَضِّيَهُ عَنِّي

ارادے کی طرف کہ صلوٰۃ بھیجے محمد اور آل محمد پر اور یہ کہ راضی کرے انہیں مجھ سے

بِمَا شِئْتَ وَتَهَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُكَ

جس طرح چاہے اور عطا کرے مجھے اپنی طرف سے رحمت، تحقیق شان یہ ہے کہ کوئی کمی پیدا نہیں کرتی تجھ میں

الْمَغْفِرَةَ وَلَا تَضُرُّكَ الْمَوْهَبَةُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

میری مغفرت۔ اور نہ ضرر پہنچاتی ہے تجھے میرے لیے عطا و بخشش اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ

أُولِنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِثَنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثَلَاثِينَ سَعَادَةً فِي

عطا فرما مجھے ہر سوموار کے دن اپنی طرف سے دو نعمتیں۔ سعادت مندی ساٹھ تیری

أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ وَنِعْمَةً فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ وَلَا

طاعت کے اس کے آغاز میں اور نعمت اندوزی ساتھ تیری مغفرت کے اس کے آخر میں۔ اے کہ وہی معبود برحق ہے

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ

اور نہیں بخشتا گناہوں کو سوائے اس کے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حمد اسی کا حق ہے جیسے کہ اس کے لائق ہے

حَمْدًا كَثِيرًا وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

بہت زیادہ حمد۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کی اپنے شر نفس سے۔ بیشک نفس بہت حکم دینے والی ہے برائی کا مگر

مَا رَحِمَ رَبِّي وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذُنُوبًا إِذْ

یہ کہ رحم کرے میرا رب اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اس کی شر شیطان سے جو اضافہ کرتا ہے میرے گناہوں میں

ذُنُوبِي وَأَحْتَرِزُ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعَدُوٍّ

اور میں حفاظت حاصل کرتا ہوں اس سے اور ہر سرکش فاجر اور جور پیشہ بادشاہ سے اور غالب دشمن سے

قَاهِرٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْعَالَمُونَ

اے اللہ مجھے اپنے خاص لشکر سے بنا دے کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب ہے اور

وَاجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ

مجھے اپنی جماعت میں سے بنا دے کیونکہ تیری جماعت ہی فلاح پانے والی ہے اور مجھے اپنے دوستوں

أَوْلِيَاءِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ

میں سے بنا دے کیونکہ تیرے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے اللہ

اصْلِحْ لِي فِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِأَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ

درست فرما میرے دین کو کیونکہ وہ بچاؤ کا موجب ہے میرے امور کے لیے اور درستگی فرما میری آخرت کی کیونکہ وہی میرا دار قرار ہے

مَقَرَّتِي وَإِلَيْهَا مِنْ مُجَاوَرَةِ اللَّعَامِ مَقَرَّتِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي

اور اسی کی طرف میرا سفر ہے کمینہ لوگوں کے پڑوس سے اور بنا دے زندگی کو میرے لیے موجب اضافہ کا

كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہر خیر میں اور موت کو سبب میری راحت کا ہر شر سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَتَمَامِ عُدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

جو سب انبیاء کے خاتم ہیں اور مرسلین کی گنتی کو مکمل کرنے والے اور ان کی طیب و طاہر آل پر

الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنتَخِبِينَ وَهَبْ لِي فِي الثُّلَاثِ ثَلَاثًا لَا

اور منتخب و پسندیدہ اصحاب پر اور عطا فرما مجھے ہر (شکل) میں تین اشیا

تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا غِنًا إِلَّا أَذْهَبْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا

نہ چھوڑ میرے لیے کوئی گناہ بغیر بخشش کے اور نہ کوئی غم مگر اسے دور کر دے اور نہ کوئی دشمن مگر

دَفَعْتَهُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ

اسے دفع کر دے بطفیل بسم اللہ کے جو تمام اسماء سے بہتر ہے۔ ساتھ نام اللہ کے جو رب ہے ارض و

السَّمَاءِ اسْتَدْفِعْ كُلَّ مَكْرُوهٍ أَوْ لَهْ سَخَطَةٍ وَاسْتَجِبْ كُلَّ حُبُوبِ

سما کا۔ طلب کرتا ہوں دفاع ہر نا پسندیدہ امر کا جن میں سے اولین اس کی ناراضگی ہے اور طلب کرتا ہوں ہر محبوب

أَوْلَاهُ رِضَاةً فَأَخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَليَّ الْإِحْسَانِ بِاسْمِ

امر کے حصول کو جن میں سے اولین امر اس کی رضا ہے پس خاتمہ فرما میرے لیے اپنی مغفرت کے ساتھ اے مالک احسان کے۔ ساتھ نام

اللَّهُ كَلِمَةً الْمُعْتَصِمِينَ وَمَقَالَةَ الْمُتَحَرِّزِينَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے جو کلمہ ہے عصمت حاصل کرنے والوں کا اور قول ہے حرز و پناہ حاصل کرنے والوں کا اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

مِنْ جُورِ الْجَائِرِينَ وَكَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَبَغْيِ الظَّالِمِينَ وَأَحْمَدُكَ

ظالموں کے جور سے اور حاسدوں کے مکر سے اور ظالموں کے ظلم سے اور میں حمد کرتا ہوں

فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيكَ وَالْمَلِكُ

اس کی سب حمد کرنے والوں سے زائد۔ اے اللہ تو واحد ہے بغیر شریک کے اور بادشاہ ہے

بِلَا تَمْلِيكَ لَا تَصَادُ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ

بغیر کسی کے بادشاہ بنائے تیرے حکم میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاسکتی اور تیرے ملک میں نزاع نہیں کیا جاسکتا

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَنْ تُوزِعَنِي

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوٰۃ نازل فرمائے اپنے عبد خاص اور رسول برحق محمد پر اور توفیق دے مجھے

مِنْ شُكْرِ نِعْمَاتِكَ مَا تَبْلُغُنِي غَايَةَ رِضَاكَ وَأَنْ تُعِينَنِي عَلَى

اپنی نعمتوں کے شکر کی جو کہ مجھے پہنچائے تیری رضا کی انتہا تک اور میری اعانت فرمائے اپنی

طَاعَتِكَ وَكَزُومِ عِبَادَتِكَ وَأَسْتَحِقُّ مَثُوبَتَكَ بِلُطْفِ عِنَايَتِكَ

اطاعت پر اور عبادت کے التزام پر اور اپنے ثواب کے استحقاق پر اپنے لطف و عنایت سے

وَتُرْحِمَنِي بِصِدْقِي عَنْ مَعْصِيَتِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَتُوفِّقَنِي لِمَا

اور مجھ پر رحم فرمائے مجھے روک کر اپنے گناہوں سے جب تک کہ مجھے زندہ رکھے اور مجھے توفیق دے نفع دینے والے

يُنْفَعَنِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَنْ تُشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتُحَظَّ بِتِلَاوَتِهِ

امور کی جب تک مجھے باقی رکھے اور کشادہ فرمائے میرے سینے کو اپنی کتاب کے ساتھ اور گرائے اس کی تلاوت کیساتھ

وَنُورِي وَتَمْنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي وَلَا تُوحِشْ رِيحِي

میرا بارگناہ اور عطا کرے میرے دین اور نفس میں سلامتی۔ اور نہ وحشت میں ڈالے میری وجہ سے میرے

أَهْلَ أُنْسِي وَتُتِمَّ أَحْسَانُكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا أَحْسَنْتَ لِي

ساتھ انس رکھنے والوں کو اور اپنا احسان کامل فرمائے میری بقیہ عمر میں جیسے کہ احسان فرمایا

مَضَى مِنْهُ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجَاءَكَ

گزی عمر میں لے حسین ترین خالق و موجد - لے اللہ ڈال میرے دل میں اپنی امید و رجاء

وَاقْطَعْ مَا جَاءَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ

اور قطع فرما میری امید کو اپنے ماسوا سے حتی کہ نہ امید رکھوں میں تیرے علاوہ کسی سے - لے اللہ

مَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنِّي عَمَلِي وَلَمْ يَنْتَه إِلَيْهِ

جس سے ضعیف و ناتواں ہے قوت میری اور قاصر ہے اس سے عمل میرا اور نہیں پہنچی اس تک

رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي وَلَمْ يَجِرْ عَلَي لِسَانِي مِمَّا أُعْطِيتْ

رغبت میری اور نہ پہنچا اس تک سوال میرا اور نہیں جاری ہوا میری زبان پر یعنی اس یقین سے جو عطا کیا تو نے

أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْبَاقِينَ فَاتِنِي وَخُصِّنِي بِهِ

کسی بھی شخص کو اولین و آخرین میں سے پس مجھے عطا کر اور مخصوص ٹھہرا مجھے ساتھ اس کے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَجِيبُ وَأَنَا الدَّاعِي

ساتھ اپنی رحمت کے لے ارحم الراحمین - لے اللہ تو قبول کرنے والا ہے اور میں دعا کرنے والا ہوں

فَمَنْ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَّا الْمَجِيبُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا

تو کس کو پکارے دعا کرنے والا سوائے قبول کرنے والے کے لے رب میرے لے اللہ تو ہی عزت والا ہے اور میں

الدَّلِيلُ فَمَنْ يَدْعُ الدَّلِيلُ إِلَّا الْعَزِيزُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ

ذلیل ہوں تو کس کو پکارے ذلیل سوائے عزیز کے لے رب - لے اللہ تو ہی

الْمُعْطِيُ وَأَنَا السَّائِلُ فَمَنْ يَدْعُ السَّائِلُ إِلَّا الْمُعْطِيُ يَا رَبِّ

عطا کرنے والا ہے اور میں سوال ہوں تو کس کو پکارے سوالی سوائے عطا کرنے والے کے لے میرے رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَأَنَا الْبَائِسُ فَمَنْ يَدْعُ الْبَائِسُ إِلَّا الْوَهَّابُ

لے اللہ تو ہیہ کرنے والا ہے اور میں مشقت میں مبتلا ہوں تو کس کو پکارے مبتلائے شدت سوائے بخشنے والے کے

يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبُغْرَجُ وَأَنَا الْمَغْمُومُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَغْمُومُ

لے میرے رب لے اللہ تو ہی کشائش فرمانے والا ہے اور میں مغموم ہوں تو کس کو پکارے غمزدہ سوائے

إِلَّا الْمَفْرَجَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنَجِّيُّ وَأَنَا الْغَرِيقُ فَسَلِّمْ

غم و الم دور کرنے والے کے لئے میرے رب۔ اے اللہ تو نجات دہندہ ہے اور میں غرق ہونے والا ہوں تو کسے پکارے غرق

الْغَرِيقُ إِلَّا الْمُنَجِّيُّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَفَّارُ وَأَنَا الْمَتَّصِرُ فَسَلِّمْ

سوائے نجات دہندہ کے لئے میرے رب۔ اے اللہ تو مغفرت فرماتے والا ہے اور میں زاری کرنیوالا ہوں تو کس کو پکارے

الْمَتَّصِرُ إِلَّا الْغَفَّارُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّافِيُّ وَأَنَا الْمَرِيضُ فَسَلِّمْ

زاری کرنے والا سوائے غفار کے لئے میرے رب۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے اور میں مریض ہوں تو کس کو

يُدْعُ الْمَرِيضُ إِلَّا الشَّافِيُّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاسِطُ وَأَنَا

پکارے مریض سوائے شافی کے لئے میرے رب۔ اے اللہ تو کشادگی فرماتے والا ہے رزق کی اور میں

الْمَبْسُوطُ فَسَلِّمْ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

وسعت رزق دیا ہوا ہوں تو کس کو پکارے وسعت دیا ہوا سوائے وسعت بخشنے والے کے لئے میرے رب۔ اے اللہ

اقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَتُوبَتِي وَأَوْصِدْ لِي إِلَى مَقْصُودِي بِحُرْمَةِ

قبول فرما میری معذرت اور توبہ اور مجھے واصل فرما میرے مقصود تک بطفیل حرمت و عزت

حَبِيبِكَ سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ أَنْ تُرِيَنِي فِي مَنَامِي لِقَاءَ

اپنے حبیب سید اولین و آخرین کے کہ دکھلائے مجھے خواب میں دیدار اپنے

حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَمَا رَجَوْتُ مِنْكَ وَأَكْرَمِي بِسُغْفَرِكَ خَطِيئَتِي

حبیب اور نبی کا اور جس کی میں نے تجھ سے امید رکھی ہے اور مجھے عزت و اکرام بخش میرے گناہوں کی مغفرت کے

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ الْكُفْيُ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

ذریعے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ مجھے کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام کے

وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنِ بَدْوَالِكَ

اور اپنی طاعت کے ذریعے اپنی معصیت سے اور بے نیاز فرما مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوائے

إِلَهِي خَلَقْتَنِي وَلَمْ أَكُ شَيْئًا ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَرْتَكِبُ الْكَبَائِرَ

لے میرے خدا تو نے مجھے پیدا کیا اور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور گناہ کئے

وَأَنَا مُقِرٌّ بِذُنُوبِي يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ غَفَرْتَ لِي يَا رَبِّ فَلَا يَنْقُصُ

اور میں اپنے گناہ کا اقرار ہی ہوں۔ اے میرے رب میرے لیے مغفرت فرما۔ اے میرے رب اگر تو مجھے بخش دے تو نہیں کم ہوگی

مِنْ مُلْكِكَ شَيْءٌ ؕ وَإِنْ عَذَّبْتَنِي يَا رَبِّ فَلَا يَزِيدُنِي سُلْطَانَكَ

تیرے ملک سے کوئی شئی اور اگر مجھے عذاب دے اے میرے رب تو نہیں ترقی ہوگی تیری سلطنت میں

شَيْءٌ ؕ يَا رَبِّ تَجِدُ مَنْ تُعَذِّبُهُ غَيْرِي وَأَنَا لَا أَجِدُ مَنْ يَغْفِرُ لِي

ذوہ جبر۔ اے میرے رب تو پاتا ہے جس کو عذاب دے سوائے میرے اور میں نہیں پاتا جو بخشے میرے

ذُنُوبِي غَيْرِكَ يَا غَفُورٌ يَا رَحِيمٌ يَا حَنَّانٌ يَا مَنَّانٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

گناہ سوائے تیرے۔ اے غفور۔ اے رحیم۔ اے مہربان۔ اے محسن۔ اے صاحب جلال و اکرام

أَشْهَدُ أَنْ كُلَّ مَعْبُودٍ تَحْتَ عَرْشِكَ إِلَى مُنْتَهَى قَرَارِ الْأَرْضِينَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام معبود جو تیرے عرش کے نیچے تمام زمینوں کے منتہائے قرار و سکون تک ہیں

بَاطِلٌ مَّا خَلَا وَجْهَكَ الْكَرِيمِ أَمَنْتُ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَضِيتُ

وہ بھی باطل ہیں ماسوائے تیری ذات کریمہ کے۔ میرا ایمان ہے کہ نہیں معبود برحق مگر تو۔ میں راضی ہوں اس عقیدہ پر

رَبَّنَا يَا غِيَاثَ الْبُسْتِغِيثِينَ أَخَذْنِي مِنَ النَّارِ وَنَجَّيْتَنِي مِنْ سَخِطِكَ

اے رب ہمارے۔ اے فریاد رس فریادیوں کے میری آتش جہنم سے مدد فرما اور مجھے اپنی ناراضگی سے نجات دے

وَاجْرِنِي مِنْ عَذَابِكَ وَفَرِّجْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ خَلْقِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اور اپنے عذاب سے پناہ دے اور دور فرما مجھ سے اپنی تمام مخلوق کا شر اے مالک جلال و اکرام کے

اللَّهُمَّ اجْعَلِ التَّوْفِيقَ رَفِيقَنَا وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ طَرِيقَنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ بنادے توفیق کو ہمارا رفیق اور صراط مستقیم کو ہمارا راستہ و طریقہ۔ اے اللہ

أَوْصِلْنَا إِلَى مَقَاصِدِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ

ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا اور ہم پر نظر رحمت فرما بے شک تو بہت ہی نظر رحمت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اللہ

ارزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ اللَّهُمَّ بِكَ

ہمیں نصیب فرما اپنی ذات کے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق۔ اے اللہ تیری امانت سے

أَصْبَحْنَا وَبِكَ أُمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ

ہم نے صبح کی اور تیری امانت سے ہی شام کی اور تیری توفیق سے زندہ ہیں اور تیرے ہی مارنے سے مرتے ہیں اور تیری طرف ہی منتقل ہونا

إِنِّي أَصْبَحْتُ لَكَ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو مِنْ

ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے صبح کی ہے میں طاقت نہیں رکھتا نا پسندیدہ امور کے دور کرنے کی اور نہیں مالک اس نفع کا جس کی امید

رَحْمَتِكَ أَصْبَحْتُ مَرْتَهَنًا بِعِبْلِي وَأَصْبَحَ أَمْرِي بِيَدِ غَيْرِي فَلَا قُدْرَةَ

کرتا ہوں تیری رحمت سے، میں اپنے اعمال کے عوض گروی ہو چکا ہوں اور میرا معاملہ میرے ماسوا کے ہاتھ میں جا چکا ہے پس کوئی محتاج بھی

أَفْقَرُ مَنِّي لَا تَشْبِهْتُ بِي عَدُوِّي وَلَا تَسُوِّ بِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ

مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔ میرے ذریعے میرے دشمن کو خوش نہ فرما اور میری وجہ سے میرے دوست کو مشقت میں نہ ڈال اور نہ بنا

مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ

میری مصیبت میرے دین اور دنیا میں اور نہ آخرت میں اور نہ بنانا حصول دنیا کو میرا بڑا

هَمِّي وَلَا مَبْلَغَ عَلَيَّ وَلَا تَسْلِطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي فِي الدُّنْيَا وَ

مقصد اور نہ میرا منتہائے علم اور نہ مسلط فرما مجھ پر جو نہ رحم کرے مجھ پر دنیا میں اور

الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُزِيلُ بِهَا النِّعَمَ

نہ آخرت میں۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے گناہوں سے کہ تو زائل فرما دے ان کے سبب

وَمِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ بِهَا النِّقْمَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی نعمتوں کو اور ایسے گناہوں سے کہ واجب کر دے ان کی وجہ سے انتقام کو اے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِنَا قُبْحَ إِتْبَاعِهِ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ

اے اللہ ہمیں دکھلا دے حق کو حق اور ہمیں اس کی اتباع نصیب فرما۔ اور باطل کو باطل دکھلا اور

أَرِنَا جُبْنَ تَابِهِ اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ التَّوَابِينَ تَبَّ عَلَيْكَ وَأَرِنَا

اس سے دوری نصیب فرما۔ اے اللہ اے حبیب توبہ کرنے والوں کے ہم پر نظر کرم فرما اور اے

أَمَانَ الْخَائِفِينَ أَمَّا وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ دُلَّنَا وَيَا هَادِيَ الضَّالِّينَ

امان خوفزدگان کی ہیں امن عطا فرما۔ اے رہنما حیرت زدگان کے ہماری رہنمائی فرما۔ اے گمراہوں کے ہادی

اِهْدِنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعِزَّنَا وَيَا رَجَاءَ الْمُنْقَطِعِينَ

ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے فریادیوں کے فریادس ہماری امداد فرما۔ اے امیدگاہ کئی امیدوں والوں کی

لَا تَقْطَعْ رَجَائَنَا وَيَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ اِرْحَمْنَا وَيَا غَافِرَ الْمُنْذِبِيْنَ

ہماری امیدوں کو قطع نہ فرماتا۔ اے گناہگاروں پر رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرَنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ

بخش دے ہمارے گناہ اور دور فرما ہم سے ہماری برائیاں اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے اللہ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ

میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے طفیل اس کے غضب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور

هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاَوْلِيَانَا

شیاطین کے وساوس سے اور ان کے حاضر ہونے سے پاس میرے۔ اے اللہ ہمیں بخش اور ہمارے والدین کو

وَلِمَشَائِعِنَا وَلَا سَاتِدِنَا وَلَا صَحَابِنَا وَلَا حُبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا وَ

اور مشائخ کو اور اساتذہ اور ہمارے اصحاب و اصحاب کو اور ہمارے اقرباء اور

لِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَّهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اہل قبیلہ کو اور ہر اس شخص کو جس کا ہم پر کسی طرح کا حق ہے اور تمام امت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

وَقِنَارِبْنَا شَرِّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْقَبْرِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَحْسِرْنَا

اور بچا ہمیں اے ہمارے رب اپنی قضا کے شر سے اور بچا ہمیں عذاب دوزخ سے اور عذاب قبر سے اور عذاب قیامت اور ہمیں

مَعَ الْبٰتِقِيْنَ وَالْاَبْرَارِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ

اٹھانا منتقیوں اور نیکو کاروں کے ساتھ۔ اے لوگو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ کیا ہے

مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

کوئی خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے آسمان اور زمین سے نہیں معبود برحق مگر وہی

فَاِنِّيْ تَوَفَّكُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

پس تم کو صبر سے عطا فرما۔ اے اللہ میری امداد فرما اپنے ذکر۔ شکر اور اچھی عبادت

عِبَادَتِكَ وَأَحْسِن رُبُوبِيَّتِكَ وَكِبَالَ مَعْرِفَتِكَ بِعَرَفَانِ

عبادت پر اور اپنی خوبترین ربوبیت و پرورش پر اور کمال معرفت پر ساتھ اپنے عرفان

وَصَلِّكَ اللَّهُمَّ اعْطِنَا وَسَخِّرْ لَنَا الْقُوَى الْعَالِيَةَ الْمَلَكِيَّةَ وَ

وصل کے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اور ہمارے لیے مسخر فرما تو اے عالیہ ملکیت اور

الرُّوحِيَّةَ لِأَنَّ اسْتِعْدَادَ بَأْنُوَارِهَا لَا نُورًا تَجَلِّيَاتِ الْحُجُبِ النُّورِيَّةِ

روحانیہ کو تا کہ میں استعداد حاصل کروں ان کے انوار کے ذریعے حجابات نورانیہ کے انوار تجلیات کی

حَتَّى أَقْدِرَ عَلَى حَلِّ الْمَشْكِلِ مِنْ عِنْدِكَ الْمُضِلِّ لِأَعْدَائِكَ وَأَعْدَائِ

حتی کہ میں قادر ہو جاؤں حل مشکلات پر تیری طرف سے جو گمراہ کرنے والی ہیں تیرے اعداء کو اور تیرے

رُسُلِكَ وَالْمُحِييِ وَالْهُادِي لِأَوْلِيَاءِكَ اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي الْجِهَاتِ

رسولوں کے اعداء کو اور زندگی بخشنے والی اور ہدایت دینے والی ہیں تیرے دوستوں کے لیے۔ اے اللہ قطع کر مجھ سے وہ جہات

الْمَوْقِعَةِ لِحَوَاسِنِي أَقْطَارِ حَدُودٍ غَيْرِ خَارِجَةٍ مَحْبُوسَةٍ فِي قِيُودِ

جو واقع کرنے والی ہیں ہمارے حواس کو ان حدود کے اطراف میں جو خارج ہونے والی نہیں، مقید ہیں بشریت مادیہ ارضیہ

الْبَشَرِيَّةِ الصَّلْصَالِيَّةِ الْجَامِدَةِ الْمَكِّيْفَةِ الْعَنْصَرِيَّةِ اللَّهُمَّ كَمَا رَبَطْتَ

کی قیود میں جو کہ جامد عنصری کیفیت والی ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے مربوط

الرُّوحَ الَّذِي هُوَ أَنَا مَبْدَأِي هَذَا وَالْآتِي فَكَذَلِكَ ارْبِطْ قَلْبِي يَا كَوْنِي

فرمایا روح کو جو کہ میری حقیقت ہے میرے اس بدن اور میرے آلات و حواس کیساتھ پس ایسے ہی مرتبط فرما میرے دل کو ساتھ

الْفَيْضِ الَّتِي هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى ذَرَاتٍ وَجُودِيَّةٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ أَوْ لَطِيفَةٍ

انوار فیض کے جو طلوع کرنے والے ہیں ذرات وجودیہ یا کیفیت یا لطف پر

يَا جَمَالَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا دَهْرِيَا دِيَهَارِيَا كَانِ يَا كَيْفَانِ يَا أَرْكَانِ

اے جمال آسمانوں اور زمینوں کے اے (خالق) ادھر۔ اے (مدبر) ادھر۔ اے موجود اے سردی وجود والے۔ اے بے ابتداء

يَا أَبْدَأْتَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ أَنْتَ الَّذِي دَرَسْتَ كُلَّ

اے بے انتہا، تو ہی اول ہے اور آخری۔ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ تو ہی ہے جو محیط ہے ہر

شَيْءٌ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا أَنْتَ فَخْتَرِ الْأُصُولَ وَمَكُونِ الْفُرُوعِ وَمَوْجِدِ

شئی کو از روئے رحمت و علم کے۔ تو ایجاد کرنے والا ہے اصول کا۔ اور موجود کر نیا لا ہے فروع کو اور موجد ہے

الْأَشْخَاصِ مِنْ كُهُوفِ الْمَظَاهِرِ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اشخاص کا مظاہر کی غاروں سے۔ تو یکتا دیے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ

يُولَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا إِلَهَ

جنا گیا نہیں معبود برحق مگر اللہ مہربان محسن از سر نو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا۔ اے معبود

الْقَدْرِ الْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ وَيَا إِلَهَ جَمِيعِ الصُّورِ الْعَامِّيَّةِ فِي دَرَجَةِ

مقدورات کلیہ و جزئیہ کے۔ اے معبود۔ اے معبود تمام صور عامیہ کے جو ثابت ہیں

الْكُلِّ وَالْجَمِيعِ وَالْعَلِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَقِشَةِ فِي نُورِ الْجَمَالِ الْكَائِنَةِ

جمع مخلوق اور کل کائنات کے درجہ میں اور معبود تمام صور عملیہ علیہ کے جو نقش ہیں تیرے نور جمال میں موجود ہیں

عَلَى تَفَاصِيلِهَا فِي اقْتِضَاءِ النُّعُوتِ وَصِفَاتِكَ الْإِضَافِيَّةِ عَلَى نَهْجِ

اپنی تفصیل سمیت تیری نعوت و صفات اضافیہ کے اقتضاء کی وجہ سے معلومات کے اندازہ

الْمَعْلُومَاتِ وَيَا إِلَهَ الْخَلَائِ الْأَبْعَدِ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ بَصَرِ الْوَهْمِ وَالْعَقْلِ

اسلوب پر اور اے معبود بعید ترین خلاد کے جس کی انتہاء نہیں ہے وہم و عقل کی آنکھ میں

وَأَنْ تَوَاتُرِ فَعْلِهِ فِي الْأَبَدِ سُبْحَانَ مَنْ عَجَزَتْ الذَّوَاتُ الْمُقَدَّسَاتُ

اگرچہ متواتر ہے فعل اس کا ابد میں، پاک ہے وہ ذات کہ عاجز ہیں ذوات مقدسہ

الظَّاهِرَةِ الْقَادِرَةِ عَلَى الْأَرْضِينَ السَّبْعِ مَعَهَا فِيهَا وَالسَّمَوَاتِ فِي

ظاہرہ جو قادر ہیں سات زمینوں کے عبور پر۔ مع ان کے موجودات کے اور تمام آسمانوں کے عبور پر۔ مع ان کے موجودات کے

تَعْقِلِ الْإِلَهِيَّةِ الْإِضَافِيَّةِ فَمَا بَالُ الذَّاتِ الْمُطْلَقَةِ الْأَحَدِيَّةِ

اس کی الہیت اضافیہ کے فہم و ادراک سے پس کیا حال ہوگا۔ اس کی ذات مطلقہ احدیہ کے (کے ادراک کا)

الْمُسْتَنَعِ السَّيْرِ إِلَيْهَا اللَّهُمَّ أَنَا الْمُدَسُّسُ الْمُنْغَسُّ فِي الْحَوَائِجِ وَ

جس کی طرف سیر مستنع ہے۔ اے اللہ میں آلودہ ہوں اور غرق ہوں حوائج و

الْحَوَادِثُ الرَّدِيئَةُ الدَّائِيَةُ الْمُقَيَّدَةُ لَهُمْ مَكَابِدُهَا كَمَا أَنَّ

حوادثِ ردیہ رذیلہ میں جو پابند کرنے والے ہیں ہمارے عزائم کو اپنی تداویرات کے ساتھ تو ہی مقدس

الْمُطْلَقُ مِنْ صِفَاتِهَا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْوَاحِدُ الْبَارِئُ الْكَافٍ

اور مطلق ہے ایسی صفات سے تو رحمن - رحیم - واحد - کاشئ دینے والا - گناہ

الذَّنْبُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَا كَرِيمُ

بخشنے والا سخت عقاب والا - مالک ہے جلال و اکرام کا نہیں معبود برحق سوا تیرے - اے قہر فرمانے والے

عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالْقَائِضُ لِبَسُوطِ الْمَتَمَرِّدِينَ وَالْكَاسِرُ لَهُمْ بِالْإِهْلَامِ

اعدا پر - اور قبض کرنے والے سرکشوں کی فرانیوں کے اور توڑنے والے جاہلوں کے عزائم کے

الْقَاصِدِينَ إِلَى سُوءِ الدَّاعِي بِهَذَا الْوَصْلِ وَإِلَى أَحِبَّكَ

جو قصد کرنے والے ہیں برائی کا اس وصل و ربط کی دعا کرنے والے اور اس کے احباب

الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

مخلصین کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ

الضَّالِّينَ اللَّهُمَّ أَخْرِجْنِي عَنْ شُكُوكِ الْأَوْهَامِ وَالضَّلَالَةِ

گمراہ ہونے والے ہیں - اے اللہ مجھے نکال ادھام اور گمبہوں کے شکوک سے

وَهَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ الْإِسْتِعْدَادَاتِ بِجَمِيعِ مَوَادِّ الْخَيْرِ

اور عطا فرما مجھے اپنے پاس سے تمام موادِ خیر کی استعدادیں جو تیرے پاس ہیں

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي قَصْدٌ إِلَى أَقْبَحِ مَحْبُوبٍ عِنْدَكَ

اے اللہ اگر میرا قصد ایسی مرغوب چیز کی طرف ہو جو قبیح تر ہے عظیم لوگوں کے نزدیک

فَصَرِّفْنِي عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ عِنْدَكَ وَمُعَدِّ لِمَا هُوَ خَيْرٌ

تو مجھے پھیر اس سے طرف بہترین امر کے نزدیک اپنے جو مجھے تیرے عطاؤں کے لائق بنانے والا ہو اور تو فتح دینے

عَلَى طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ بِهَا أَهْلٌ وَأَنَا بِهَا غَائِبٌ

والا ہوتیری طاعت کا - اے اللہ تو ان (کرم نواز لوگوں) کے لائق ہے اور میں ان کی استعداد سے محروم ہوں

وَأَنْتَ السَّعِيُّ بِالْفَضْلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِّنِّي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور تو ہی عطا کرنے والا ہے فضل و احسان کا بغیر میرے استحقاق کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَانُهُ كَأَنَّمَا عَلَى

سیدنا محمد پر جو کہ کلام فرماتے تو ان کے ہنشین اس طرح سر جھکا لیتے گویا کہ

رَوْوَسِرْمٍ الطَّيْرِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ لِي وَالِدَيَّ وَأَقْرَبَائِي وَ

ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے والدین و اقرباء پر اور

أَزْوَاجِي وَارْحَمْ أُمَّتَهُ كَمَا بَعَثْتَهُ إِلَيْنَا اللَّهُمَّ ارْحَمِ لِلْأُمَّمِ

میری بیویوں پر اور رحم فرما محبوب کی امت پر جیسے کہ (از روئے رحمت) بھیجا انہیں ہماری طرف۔ اے اللہ پہلی امتوں پر رحم فرما

السَّالِفَةِ الْبَدْعُوَّةِ الْمُؤْمِنَةِ بِرُسُلِكَ الدَّاعِيَةِ إِلَيْكَ يَا حَيُّ

جنہیں دعوت (ایمان ادی گئی۔ جو ایمان لائے تیرے دعوت دینے والے رسولوں کے ساتھ یا حج

يَا قَيُّومُ يَا وَاحِدًا يَا أَحَدًا يَا صَمَدًا بِحَقِّ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيُّ فِي دِيَوْمَةٍ

یا قیوم۔ یا واحد۔ یا احد۔ اے بے نیاز بطفیل حق و حرمت (ان کلمات کے) اے زندہ جبکہ نہیں تھا کوئی زندہ اس کے دوام

مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ وَيَحِقُّ مَائَةٌ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِّنْ صِفَاتِكَ الْعَالِيَةِ وَ

ملک اور بقا میں۔ اور بطفیل اپنی تانوں کے صفات عالیہ اور

النُّعُوتِ الْبِقَدَّاسَةِ سَخَّرْنَا الْأَرْوَاحَ الْقُدْسِيَّةَ السَّبَاوِيَّةَ وَ

مقدس نعمتوں کے مسخر فرما ہمارے لیے ارواح قدسیہ سماویہ کو اور

الْقُوَى الْعَالِيَةَ يَا إِلَهَ الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ الْكُلِّيِّ وَالْكَرْسِيِّ وَاللَّهُ مَا فِيهَا

قوائے عالیہ کو اے اللہ فلک اطلس کلی اور کرسی کے اور اللہ ان میں موجود

مِنَ الْأَفْلَاقِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا فِيهَا سَخَّرَ لِي كُلَّ كَوْنٍ فِي خَيْرٍ وَجُودٍ

افلاک و ارضین کے اور جو کچھ ان میں ہے مسخر فرما میرے لیے ہر موجود کو بہتر وجود میں

نَفَاعٍ أَوْ ضَرًّا بِرِصْفِ أَوْ كِبِيرٍ كَلِّيٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ مُتَفَرِّقٍ أَوْ جَمْعٍ وَكَيْفَ

بہت نافع ہو یا بہت نقصان دہ۔ صغیر ہو یا کبیر۔ کلی ہو یا جزئی، متفرق ہو یا مجتمع اور کیا حال ہوگا

إِذَا جُنَّا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَبِحَقِّ جَمِيعِ السُّورِ الَّتِي أَنْزَلْتَهَا عَلَيَّ عَبْدُكَ

جب ہم لائیں گے ہر نظیر و مثال کو اور بطفیل ان تمام سورتوں کے جن کو تو نے نازل فرمایا اپنے عبد

الَّذِي الْقَائِمُ فِي كُلِّ أَمْرٍ بِكَ اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَلَيَّ مَا طَوَّيْتُ فِي الْحُرُوفِ

اتمی پر جو قائم ہیں ہر امر میں ساتھ تیرے۔ اے اللہ منکشف فرما مجھ پر جو پردہ شیدہ کئے ہیں تو نے قرآنی

فِي السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ مِنَ الْأَسْرَارِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي عَجَزَتْ عُقُولُ الْعُقَلَاءِ

حروف اور سورتوں میں اسرار عجیبہ کہ عقلاء کے عقول عاجز ہیں ان

عَنْ فَهْمِهَا كَمَا قَالَ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هُوَ

کے فہم سے جیسے کہ فرمایا "اور نہیں کوئی تر اور نہ خشک شے مگر کتاب میں ہے" اور

بِحَقِّ الْحَقَائِقِ الْمُعَيَّنَةِ عِنْدَ الْمَشَاهِدَةِ الْقَائِمَةِ بِكَ مِنْ غَيْرِ حُطُورٍ

بطفیل ان حقائق کے کہ غائب کر دئے گئے ہمارے مشاہدہ سے جو قائم ہیں تیرے ساتھ بغیر کسی غیر کے

غَيْرِ كَمَا نَبَّهْتَ عَلَيَّ هَذَا فِي الطَّبِيعَةِ الَّتِي خَلَقْتَهَا وَبِحَقِّ الْأَجْسَامِ

کھلنے کے جیسے کہ متنبہ فرمایا تو نے اس امر پر اس طبیعت میں جسے تو نے پیدا فرمایا اور بطفیل ان اجسام

السُّفْلِيَّةِ الرَّسُولِيَّةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى كُلِّ أَمْرٍ عِنْدَكَ مِنْ غَيْرِ

زیریں کے جو رسولوں کے ہیں جو بلانے والے ہیں طرف تیرے تمام احکام کے بغیر

إِشْرَاكَ لَكَ خَالِصَةً لِرَبُّوبِيَّتِكَ وَقَابِلَةً لَتَكْلِيفِ أَمْرِكَ

شرک کئے خالص کرتے ہوئے تیری ربوبیت کو اور قبول کرتے ہوئے تیرے امر کی تکلیف کو

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

ہمیشہ ہم نے پیش کی امانت تمام آسمانوں۔ زمین اور پہاڑوں پر پس انہوں نے انکار کیا اس کے

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ فَسُبْحَانَ مَنْ خَافَ عَنْهُ

اٹھانے سے اور ڈر گئے سبھی اسی سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے پس پاک ہے وہ کہ ہو گئے

أَجْسَامٌ صُلْبِيَّةٌ شَاقَّةٌ قَوِيَّةٌ كَالْعِهْنِ الْمَفُوشِ فِي أَنْ كَلِمَاتٍ

اس سے سخت ترن قوی اور مضبوط اجسام خوفزدہ ہو کر مانند دھنی ہوئی روئی کے تیرے امر و تکلیف کو برداشت کرنے

أَمْرَكَ وَتَكْلِيفِكَ وَنَحْنُ قَبْلُنَا لَتَعْظِيمِكُمْ كَمَا جَرَى عِنْدَكَ مِنْ قَضَائِكَ

سے اور ہم نے قبول کر لیا تیری تعظیم کے لیے جیسے کہ نافذ ہوئی تیرے ہاں قضاء اور

وَحُكْمِكَ غَيْرِ مُقْتَضَى قَضَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَالِمٌ لِنَفْسِي وَأَنْتَ

حکم در آنجا بیکہ وہ تیری قضاء کا مقتضی نہیں تھا کہ اس کی قبولیت مفروضہ ہوتا ہے اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کئے ہوئے ہوں اور تو

فَعَالَ لِمَا فِي حُكْمِكَ وَلَوْ حَكَ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ وَقَدْ

کرنے والا ہے ہر امر کا جو تیرے حکم اور لوح محفوظ میں ہے۔ ہر صغیر و کبیر لکھا ہوا ہے اور تحقیق تو نے

قُلْتَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدْرٍ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي إِلَى عُرُوجِ الْمَقَامِ

فرمایا ہے "ہم نے ہر شئی کو اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے" اے اللہ میرے لیے آسان فرما مقام لاہوتی پر

اللَّهُ هُوَ تِي حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيَّ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللَّهُمَّ

عروج حتی کہ صادق آئے مجھ پر کہ "نہیں ہم سے کوئی مگر اس کے لیے مستحق مقام ہے" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ وَفَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب تیرے اہل و فاع کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ أُرْشِدَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب کہ تیری راہ دکھلانے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزُّمَرِ وَالصَّفَا وَالشُّقَى

صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں زمزم۔ صفا اور اہل تقویٰ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كَافَّةِ الْأَنْبِيَاءِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں تمام مخلوق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّوْبِ الْعِبَادِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں نورانی بندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں ہر باپ اور بیٹے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كُلِّ وَارِثٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے ہر وارث پر کہ

السَّيِّدِ وَالسِّيَادَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ

جو خود سردار ہے اور سیادت کا مالک ہے اور صلوٰۃ نازل فرما اولین کے سردار پر اور صلوٰۃ نازل فرما

الْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمَقْبُولِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ

آخرین کے سردار پر اور صلوٰۃ بھیج مقبولین کے سردار پر اور صلوٰۃ بھیج مجبین کے

الْمُحِبِّينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُنْحَبِيِّينَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَوْلِيَيْنِ

سردار پر - اور صلوٰۃ بھیج محبوبین کے سردار پر - ساتھ نام اللہ کے جو رب ہے اولین و

وَالْآخِرِينَ خَالِقِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بِأَعْيُنِ

آخرین کا - خالق ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا بھیجنے والا ہے

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْحَقِّ الْمَعْبُودِ فِي كُلِّ مَكَانٍ

انبیاء و مرسلین اور مومنین کو ساتھ حق کے - معبود ہے ہر مکان میں

الْمَوْجِدِ بِكُلِّ لِسَانٍ الْفَاضِلِ الْقَدِيمِ الْمَتَّقِينَ لِمَا صَنَعَ الْقَاهِرِ

توجد والا ہے ہر زبان کے ساتھ، صاحب فضل اور قدیم ہے، مضبوط بنانے والا ہے ہر مصنوع کو، غالب ہے

بِخَلْقِهِ أَجْمَعِينَ الْقُدُّوسِ الَّذِي ذَلَّتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَضَعَتْ

اپنی تمام مخلوق پر - مقدس ہے جس کے لیے تمام گردنیں تواضع کناں ہیں اور عاجزی ظاہر کرتی ہیں

لَهُ الشُّمُّ الشَّامِخَاتُ وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ

اس کے لیے بند و بالا شخصیات اور جھکے ہیں سب چہرے حی قیوم کے لیے اور رسوا ہوا جس نے

حَمَلَ ظُلْمًا يَأْتِيهِمْ يَوْمَ أَنْتَ تَرَانِي وَتَسْمَعُ كَلِمِي وَتَنْظُرُنِي

ظلم کیا ہے دائم - اے ہمیشہ ہمیشہ قائم، تو مجھے دیکھتا اور میرا کلام سنتا ہے اور میری لڑائی کو

وَشَكْوَايَ أَنْتَ مَقْصِدِي وَسُؤْلِي وَرَجَائِي وَأَنَا الْمُهْتَاجُ إِلَيْكَ

اور اظہار رنج و الم کو تو ہی میرا مقصود، میرا سوال اور میری رجا، و امید ہے اور میں محتاج ہوں تیری طرف

وَأَنْتَ عَالِمُ السِّرِّ وَالتَّجْوِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

اور تو جاننے والا ہے رازوں اور سرگوشیوں کا اور نہیں مخفی تجھ پر کوئی شے زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هَ اسْأَلُكَ عِلْمًا

اور نہ آسمان میں تو مالک ہے عرش عظیم کا - میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم

نَافِعًا وَدِينًا قَيِّمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَحِكْمَةً بَالِغَةً وَاسْأَلُكَ

نافع اور مضبوط دین کا یقین صادق اور حکمت کا علم کا - اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

كَشْفَ حِجَابِ الْغَيْبِ بِمَا فِيهِ حَتَّى أَشَاهِدَ الرُّوحَ الْبَاقِي يَا

غیب کے پردے اٹھانے کا بھج اس میں موجود تمام اسرار کے حتیٰ کہ میں مشاہدہ کر لوں روح باقی کا اے

نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اسْأَلُكَ

روشن کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے اور مالک عرش عظیم کے - میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

أَنْ تُصَلِّيَ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكْشِفَ لِي عَنْ

کہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے سیدنا محمد پر اور مجھ پر ظاہر کرے اپنے اسماء

أَسْرَائِرِ اسْمَائِكَ وَأَنْ تُسَخِّرَ لِي جَمِيعَ خَلْقِكَ بِالطَّاعَةِ وَقَلْبِي

کے اسرار اور مسخر فرمائے میرے لیے اپنی تمام مخلوق اطاعت کے ساتھ اور میرے دل کو

لَكَ بِالْعِبَادَةِ وَأَنْ تُرْزُقَنِي أَنْوَارَ هِدَايَتِكَ وَمَعْرِفَةِ اسْرَارِكَ

اپنی عبادت کے ساتھ اور مجھے اپنی ہدایت اور معرفت اسرار کے انوار عطا کرے

حَتَّى أَكُونَ مُبْتَهَجًا بِبَاهِرِ مَا يَظْهَرُ مِنْ لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ اللَّهُ لَطِيفٌ

حتیٰ کہ میں مسرور ہو جاؤں تیرے ظاہر و غالب لطف و کرم کے ساتھ اے صاحب لطف - اللہ مہربان ہے

بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اپنے بندوں کے ساتھ - رزق دیتا ہے جسے چاہے اور وہ قوی عزیز ہے - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

اور آل محمد پر جسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد و

آل محمد پر جسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد و

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک تو قابل تالقی بزرگی والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر اور

بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

برکت دے محمد اور آل محمد پر جیسے برکت دی آل ابراہیم کو تمام جہانوں میں،

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد بنی امی پر اور آل محمد پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

جیسے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَلِكُ الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ يَا إِلَهِي لَا أَحَدَ إِلَّا

اے میرے اللہ نہیں معبود برحق مگر تو اے مالک ملک اور تیرے ہی لیے حمد ہے اے میرے اللہ نہیں کوئی دوسرا

أَنْتَ لَا سُلْطَانَ إِلَّا أَنْتَ لَا وَاحِدَ إِلَّا أَنْتَ لَا خَالِقَ إِلَّا أَنْتَ لَا

سوا تیرے۔ نہیں کوئی بادشاہ مگر تو۔ نہیں کوئی یکتا مگر تو نہیں کوئی خالق مگر تو نہیں

بُرْهَانَ إِلَّا لَكَ لَا جَبَّارَ إِلَّا أَنْتَ لَا قَهَّارًا إِلَّا أَنْتَ لَا مَرَاذِقَ إِلَّا

دلیل و ثبوت مگر تیرے ہی لیے نہیں جبار مگر تو۔ نہیں قہار مگر تو، نہیں رزاق مگر

أَنْتَ لَا قَادِرَ إِلَّا أَنْتَ لَا سَمِيعَ وَلَا بَصِيرَ وَلَا كَافِيَّ وَالْهَادِيَ إِلَّا

تو نہیں صاحب قدرت مگر تو۔ نہیں کوئی (حقیقی) سمیع و بصیر اور کافی و ہادی مگر

أَنْتَ وَ لَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَأَنْتَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ

تو ہی اور تیرے ہی لیے حمد ہے اے میرے اللہ تو بہتر ہے تمام کشف کرنے والوں سے اور تو دلوں میں انقلاب لانے والا ہے

وَاللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ عَطِّفْ عَلَىٰ قُلُوبِ عِبَادِكَ مِنَ

اور معبود ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں۔ اے اللہ مہربان فرما مجھ پر ایسے تمام بندوں کے دل

أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحُرٍّ وَعَبِيدٍ وَصَغِيرٍ

اولادِ آدم اور حوا کی بیٹیوں سے ہر مذکر اور مؤنث اور آزاد و غلام چھوٹے

وَكَبِيرٍ بِالْمَحَبَّةِ الدَّائِمَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاجْلِبُ

اور بڑے کا ساتھ دائمی محبت و مودت اور رافت و رحمت کے اور کھینچنے

قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا يُضِرُّونَ وَيُرِيدُونَ لِيُؤَدِّعَ عَنِّي مَكْرَهُمْ

ان کے دلوں سے اس شر کو جس کو چھپاتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں اس کا میرے لیے اور دور فرما مجھ سے ان

وَإِذَا هُمْ وَشَرَّهُمُ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ مَا تَلَوْتَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُرَبِّيَنِي

کے مکر۔ ایذا اور شر کو۔ اے اللہ بطفیل اس کے جس کی میں نے تلاوت کی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کرم سے

حَرَمِكَ بِكَرَمِكَ وَبَلِّغْنِي زِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اپنا حرم دکھلائے اور مجھے پہنچائے اپنے نبی محمد کی قبر انور کی زیارت تک صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ فِي

علیہ وسلم۔ اے پورا کرنے والے حاجات کے۔ اے قبول کرنے والے دعاؤں کے

الدَّارَيْنِ بَرُؤِيَّتِهِ وَثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ وَاسْتَعْبَدْنَا عَلَىٰ

دونوں جہانوں میں ان کے دیدار سے اور ثبات رکھے ہمارے دلوں کو ان کی محبت پر اور ہمیں عامل بنائے

سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ

ان کی سنت پر اور ہمیں وفات دے ان کی ملت پر اور ہمارا حشر فرمائے ان کی جماعت میں جو نجات پانہ والی ہے اور گروہ

الْمُفْلِحِينَ وَانْفَعْنَا بِهَا أَنْطَوْتُ عَلَيْهِ قُلُوبُنَا مِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ

میں جو فلاح پانے والے ہیں اور ہمیں نفع دے ان کی محبت کے ساتھ جسے ہمارے دل محیط ہیں۔ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَا جَدَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَيْنِينَ وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَىٰ

وسلم جس دن نہ نسب کا رآمد ہوگا، نہ مال اور نہ بیٹے اور ہمیں وارد فرمائے ان کے صاف ترین حوض پر

وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ الْأَوْفَىٰ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمِهِ فِي الْمَنَامِ

اور ہمیں پلانا ان کے وافی پیالے کے ساتھ اور آسکن فرما ہم پر اپنے حرم کی اور ان کے حرم کی زیارت خواب

وَالْيَقْظَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُبَيِّتَنَا وَأَدْرُعَ عَلَيْنَا إِقَامَةَ بَحْرَانِ

اور بیداری میں قیل اس کے کہ وفات دے اور داعی بنا ہم پر اپنے حرم

وَحَرَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ تُتَوَقَّى اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

اور حرم حبیب کی اقامت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم (وہیں) وفات پائیں۔ اے اللہ مجھے بن

مَنْ لَزِمَ مِلَّةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَمَ

اپنے نبی محمد کی ملت کو لازم پکڑنے والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و تعظیم

حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَحَفِظَ عَهْدَهُ وَذَمَّتَهُ وَنَصَرَ حِزْبَهُ وَدَعَا

کرنے والوں سے اور ان کے کلمہ کو غالب اور ان کے عہد اور زمرہ داری کی حفاظت ان کی جماعت اور دعوت کی امداد کرنی والوں سے

وَكَثَرَتْ تَابِعِيهِ وَفَرَّقَتْهُ وَأَوْفَى زُمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالِفْ سَبِيلَهُ

ان کے تابعین اور جماعت کو بڑھانے والوں اور ان کی جماعت کی موافقت والوں سے جنہوں نے ان کی راہ و سنت کی

سُنَّتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کی سنت کے تمسک کا میں پناہ طلب کرتا ہوں تیسری

شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

ہر اس شر سے جس سے تیرے نبی و رسول محمد نے تیسری پناہ طلب کی۔ صلی اللہ علیہ

سَلَّمَ اللَّهُمَّ ادْخُلْنَا مَعَهُ بِشَفَاعَتِهِ وَضَمَانَتِهِ وَرِعَايَتِهِ وَرَحْمَتِهِ

وسلم۔ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ داخل فرما ان کی شفاعت۔ ضمانت اور رعایت کے طفیل اور ان کے

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ بِدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ بَلَدِكَ الْمَدِينَةِ

آل و اصحاب کے ساتھ اپنے دار السلام (جنت) میں سچائی کی نشست گاہ میں صاحب ملک و اقتدار کے ہاں

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط وَأَتُحِفْنَا بِشَاهِدَاتِهِ بِلَطِيفِ مَسَائِلِهِ سَائِلِينَ

اے صاحب جلال و اکرام اور ہمیں تحفہ عطا فرما ان کے دیدار کا ان کی پاکیزہ ترین منازل میں، اے کریم

يَا رَحِيمٌ أَكْرِمْ نَابِ النَّظَرِ إِلَى جَمَالِ سُبْحَاتِ وَجْهِكَ الْعَظِيمِ ط

اے رحیم ہمیں عزت بخش ساتھ دیکھنے اپنی ذات عظیمہ کے جمال انوار کے اور

أَحْفَظُنَا بِكَرَامَتِهِ بِالشُّكْرِ وَالشُّجْرَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُزُلِهِ

ہیں حفظ و امان بخش ان کی بزرگی کے صدقہ میں ساتھ اکرام اور توقیر و تعظیم کے اور ہمیں مکرم فرما ان کی ممانی کیساتھ

نُزُلًا مِّنْ عَفْوٍ رَّحِيمٍ فِي رَوْضِ رِضْوَانٍ أَحَلُّ عَلَيْكُمْ بِرِضْوَانِي

جو درحقیقت ممانی ہے عفو رحیم کی طرف سے رضامندیوں کے باغات میں "حلال ٹھہراتا ہوں میں تم پر اپنی رضامندی

فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا وَأَعْطِيكُمْ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ لِخَزَائِنِ السِّرِّ الْمَكُونِ

پس میں ناراض نہیں ہوں گا تم پر کبھی اور عطا کرتا ہوں تمہیں غیب کی چابیاں واسطے پوشیدہ اسرار کے خزانوں کے

فِي مَكُونٍ حَتَّىٰ مَعَارِفِ صِفَاتِي الْمَعَانِي بِأَنْوَارِ الذِّاتِ عَلَى الْأَرَائِكِ

جو مخفی ہیں مہربان خدا کے ہاں یعنی معارف صفات معانی کے لطیف انوار ذات کے، آرام کرسیوں پر بیٹھے

يَنْظُرُونَ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ بِأَنْعَاطِ

دیکھتے ہوں گے اور ان کے لیے ہے جو طلب کریں سلام ہے درآئنا لیکہ کہا ہوا ہے رب رحیم کی طرف سے سبب مہربانی

رَأْفَةِ الرَّافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنْ عَيْنِ عِنَايَتِهِ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ذَلِكَ

رافت محمدیہ کے جو حاصل ہونے والی ہے ان کی خاص عنایت سے جبکہ وہ فضل ہے تیرے رب کا وہی

هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ فِي مَحَاسِنِ قُصُورِ ذَخَائِرِ السَّرَائِرِ فَلَا تَعْلَمُ

عظیم کا میاں ہے۔ مخفی اسرار کے ذخائر والے خوبصورت محلات میں پس نہیں جانتا کوئی نفس جو

نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي

اس کے لیے پوشیدہ رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے درآئنا لیکہ وہ جزاء ہے ان کے اعمال کی

مَنْصَةِ مَحَاسِنِ خَوَاتِمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

عمل ظہور میں خوبترین محاسن والے آخری کلمات کے یعنی دعا ان کی جنت میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور باہمی تحفے ان کے سلام ہیں

وَإِخْرَدُ عَوْنَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ يَا ظَاهِرًا يَا بَاطِنًا

اور آخری دعا ان کی ہے کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ "اے اللہ۔ اے ظاہر۔ اے باطن

يَا ذَا الْبُعَادِ بِرُحْمَةِ يَدَيْكَ أَرْوَاهُ وَأَحْنَاهُ وَقَدَّرْتَ أَجَالَنَا يَا مُحْصِي

اے بلندوں والے بند ہوتے ہیں تیری طرف ہمارے ارواح اور تو نے مقدر فرمایا۔ ہماری مدت عمر۔ اے احاطہ کرنے والا

أَحْصَيْتَ أَنْفَاسَنَا وَأَكْسَابَنَا وَأَدْرَكْتَ أَسْرَارَنَا وَأَعْلَانَنَا يَا حَاطِطَ

تو نے احاطہ کیا ہے ہمارے سانسوں اور ہمارے اعمال کا اور جان لیا ہے ہمارے پوشیدہ اور ظاہر کو اے حفاظت کرنے والے

يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَتَخْفِضُ مَنْ تَشَاءُ

اے پست کرنے والے، اے بلند کرنے والے، تو ہی سبقت دینے والا ہے اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے۔ پست کرتا ہے جسے

قَهْرًا وَتَرْفَعُ مَنْ تَشَاءُ قَدْرًا مَنْ رَفَعْتَهُ ارْتَفَعَ وَمَنْ وَضَعْتَهُ

چاہے اپنے قہر سے۔ اور بلند کرتا ہے قدر جس کی چاہے۔ تو جسے بلند کرے وہ بلند ہو گیا اور جسے پست کرے

إِثْنَعُ وَمَنْ أَكْرَمْتَهُ لَمْ يُهَنْ يَا رَافِعُ الدَّرَجَاتِ لَكَ الْأَسْمَاءُ

وہ پست ہو گیا جسے تو عزت دے وہ حقیر نہیں ہوتا اے درجات کے بلند کرنے والے تیرے لیے ہی حسین

الْحُسْنَى وَالْأَمْثَالَ الْعَلِيَّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَ يَوْمِ

اسماء اور اعلیٰ صفات ہیں۔ اے عرش مجید والے۔ اے (تخلیق کی) ابتداء کرنے والے اور لوٹانے والے

يَارْحَمَنُ يَا رَحِيمَ اِرْحَمْنَا يَا مُؤْمِنُ اِمْنًا يَا مُهَيِّبُ يَا جَبَّارُ اَجْبِرْنَا

اے رحمن اے رحیم ہم پر رحم فرما اے امن دینے والے ہمیں امن دے۔ اے نگران۔ اے جبار ہماری شکست کی درست فرما

يَا سَلَامُ سَلِّمْ عَلَيْنَا يَا غَفَّارُ يَا غَفُورُ اغْفِرْ لَنَا يَا رَاقٍ ارْزُقْنَا

اے سلام ہمیں سلامتی دے۔ اے غفار۔ اے غفور ہمیں بخش اے رزاق ہمیں رزق دے

يَا رَءُوفُ ارْءُفْ بِنَا يَا عَفُوفًا عَافُ عَنَّا يَا لَطِيفُ اَلطِّفْ

اے مہربان ہم پر مہربانی فرما۔ اے درگزر فرمانے والے ہمیں عافیت دے پس درگزر فرما اے لطیف لطف فرما۔

بِنَا يَا حَلِيمٌ اَحْلَمْ عَنَّا يَا حَافِظُ اِحْفَظْنَا يَا عَزِيزٌ اِعْزِزْنَا

اے حلیم ہمارے ساتھ بردباری فرما۔ اے حافظ اے حفیظ ہماری حفاظت فرما۔ اے عزیز اے عزیز

مُعِزُّ عِزِّزْنَا يَا صَبُورٌ صَبِّرْنَا يَا نَصِيرٌ اَنْصِرْنَا يَا مُغِيثٌ اَغِثْنَا يَا

عزت بخشنے والے ہمیں عزت دے۔ اے صبور ہمیں صابر بنا۔ اے نصیر ہماری نصرت فرما۔ اے فریاد رس ہماری فریاد رسی فرما اے

كَافِيٌ اِكْفِنَا يَا وَاقِيٌ قِنَّا يَا وَاوَالِيٌ يَا مُتَعَالِيٌ يَا مُوَلَايُ اَمُوَلْنَا يَا حَنَّانُ

کافی ہمیں کفایت فرما۔ اے بچانے والے ہمیں بچا اے والی۔ اے بلند شان۔ اے مولا ہماری کار سازی فرما۔ اے حنان

يَا مَنَّانُ اَمِّنْ عَلَيْنَا يَا كَرِيمُ اِكْرِمْنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا يَا تَوَّابُ تُبُّ

لے منان ہم پر احسان فرما۔ لے کریم ہمیں عزت دے اور ہمارے خلاف تدبیر نہ فرما۔ لے تو اب ہم پر نظر رحمت

عَلَيْنَا يَا ذَا الْفَضْلِ تَفَضَّلْ عَلَيْنَا يَا ذَا الطَّوْلِ تَطَوَّلْ عَلَيْنَا يَا قَابِلَ

فرما۔ لے مالک فضل ہم پر فضل فرما۔ لے وسعت دے ہمیں وسعت بخش۔ لے تو یہ قبولے

التَّوْبِ اِقْبَلْ تَوْبَتَنَا يَا دَائِمُ اِدِمِ النِّعْمَاءَ عَلَيْنَا يَا هَادِي اِهْدِنَا

کرنے دے ہماری توبہ قبول فرما۔ لے دائم ہم پر نعمتیں دائم رکھ۔ لے ہادی ہمیں ہدایت دے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ هَبْ لِي مِنْ جَزِيلِ هِبَاتِكَ مَا

لے وہاب۔ لے وہاب۔ لے وہاب مجھے اپنے وہ عظیم عطیات ہیہ فرما جو

يَبْلِغُنِي اِلَى مَرْضِيَّتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي هَبْ لِي مِنْ

مجھے پہنچائیں تیری رضا مندیوں تک یا وہاب۔ یا وہاب۔ لے میرے خدا مجھے عطا فرما

لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي

اپنے پاس سے رحمت۔ بیشک تو ہی عطا کرنے والا ہے یا وہاب۔ یا وہاب۔ یا وہاب۔ لے میرے خدا

وَيَا وَهَّابَ الْاَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ اَسْرَارِكَ فَيَضًا تَجْعَلُنِي بِهِ دَائِمًا

اور لے عطا کرنے والے اسرار کے عطا فرما مجھے اپنے اسرار سے ایسا فیض کہ بناوے مجھے بسبب اس کے ہمیشہ

مُسْتَحْفَظًا لِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنِي

محفوظ رکھنے والا اپنے مواہب کا یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ لے اللہ مجھے ثابت وقائم فرما

بِمَوَاهِبِ حَقِيْقَةِ حَقِيْقَتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي

اپنی حقیقت الحقیقت کے مواہب سے یا وہاب۔ یا وہاب یا وہاب۔ لے میرے خدا

كُنْ شَٰهِدًا عَلَيَّ بِاِلْفِتْقَارِ اِلَى غِنَاكَ الْمُوَلِّقِ الْكَامِلِ بِالذَّاتِ

مجھ پر گواہ بن میری محتاجی کا طرف تیری غناء مطلق اور کامل بالذات کے پس

فَاَمِّنْ عَلَيَّ عَبْدِكَ الضَّعِيفِ بِغِنَى يَكُوْنُ بِهِ غِنِيًّا مُغْنِيًّا مَنْ

احسان فرما اپنے عبد ضعیف پر ساتھ غنی کے کہ جس کے ساتھ وہ غنی بھی ہو اور مستغنی کرنے والا بھی ہو

شَدَّتْ غِنَاءَهُ بِوَصْفِ الْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَافِرُ

جس کی استغناء تو چاہے باوصف فقر و احتیاج کے تیری بارگاہ میں تو ہی غنی اور ہمہ کرنے والا ہے۔

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا رَشِيدُ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

یا وہاب یا وہاب یا وہاب - یا رشید - ہبہ فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت کا

وَهْيِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا اللَّهُمَّ إِنَّا لَضَالُّونَ فَاهْدِنَا وَإِنَّا فُقَرَاءُ

اور متیا فرما ہمارے لیے ہمارے امور میں راست روی۔ اے اللہ ہم گمراہ ہیں پس ہمیں ہدایت بخش اور ہم فقراء ہیں

فَاعْزِنَا وَإِنَّا ضِعْفَاءُ فَقْوِنَا وَإِنَّا مَذْنُبُونَ فَاغْفِرْ لَنَا يَا نُورِ يَا هَادِي

پس ہمیں غنی فرما اور ہم ناتواں ہیں پس ہمیں قوی فرما اور ہم گناہگار ہیں پس ہمارے لیے مغفرت فرما۔ اے نور۔ اے ہادی

يَا غَنِيُّ يَا قَوِيُّ يَا غَفُورٌ يَا رَحِيمٌ اللَّهُمَّ بَرِّدْ رُوحَ مَنْ عِنْدَكَ أَيُّدُنَا

اے غنی۔ اے قوی۔ اے غفور۔ اے رحیم۔ اے اللہ اپنے پاس سے مخصوص روع کے ذریعے ہمیں تقویت

وَمِنْ عِلْمِكَ الْمَكُونُ عَلَّمْنَا وَعَلَى دِينِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ تَبَتْنَا

اے۔ اور اپنے پرشیدہ علم سے ہمیں سکھلا اور اپنے اس دین پر جسے تو نے پسند کیا ہے ثابت رکھ

وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ اللَّهُمَّ أَحْبِبْنَا

اور ہمیں ان سے بنا جن کے لیے تیری طرف سے نیکی سبقت لے جا چکی ہے اور مزید احسان لے اللہ ہمیں زندہ رکھ

مُؤْمِنِينَ طَائِعِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تَائِبِينَ وَاجْعَلْنَا يَوْمَ

مومن مطیع کی حیثیت میں اور ہمیں وفات دینا اسلام اور توبہ کی حالت میں اور بنانا ہمیں قیامت کے

الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ آمِنِينَ وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

دن امن والوں سے۔ اور ہمارے قدم ثابت رکھنا صراط مستقیم پر

وَأَدْخَلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ وَنَجِّنَا بِعَفْوِكَ وَحُدُودِكَ

اور داخل فرماتا ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جنات نعیم میں اور نجات دینا ہمیں اپنے عفو اور علم کے

مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ يَا بَرُّ يَا رَحِيمٌ يَا كَرِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا

ساتھ عذاب الیم سے۔ اے عمن۔ اے رحیم۔ اے رحیم۔ اے اللہ بیشک ہم ہوجئے ہیں

لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِنَا دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَقَرَأْ لَا

اس مال میں کہ نہیں مالک اپنے لیے دفع (ضرر) کے اور نہ رفع (کلفت) کے اور نہ ضرر و منفعت کے، تفسیر یہ

شَيْءٍ لَنَا ضَعْفًا لَا قُوَّةَ لَنَا وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَأَمْرٌ كُلُّ

ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں۔ ناتواں ہیں کچھ قوت ہم میں نہیں۔ اور تمام تر خیر صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اور ہر شئی کا معاملہ

شَيْءٍ عَرَّاجٌ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَقَفْنَا لِمَا بِهِ أَمْرُتْنَا وَأَعْنَانَا عَلَى مَا بِهِ كَلَفْتَنَا

تیری طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس کی جس کا تو نے حکم دیا اور ہماری امانت فرما ان امور پر جن کا تو نے ہمیں کلف ٹھہرایا

وَأَعْنَانَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَاجْبُرْ كَسْرَنَا وَفَاتِنَا مِنَّا

اور ہمیں بے نیاز فرما تمام اشیاء سے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ اور درست فرما ہماری شکستگی اور جو ہم سے فوت ہوا

بِعِنَايَتِكَ وَكَرَمِكَ وَإِيدِنَا بِتَوَجُّهِ إِلَيْكَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا مَالِكُ

اپنی عنایت اور کرم سے اور ہمیں تقویت دے اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی قوت و طاقت سے اے مالک

يَا قَدِيرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ هَبْتَنَا رَايِنَاهُ وَلَمْ تَبْلُغْهُ

اے قدیر۔ اے سمیع۔ اے بصیر۔ اے اللہ جس امر سے قاصر ہے ہماری ہمت۔ جسے ہم نے دیکھا اور اس کو نہ پہنچا

مَسَّلْتَنَا مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَنَاهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرًا أَنْتَ مُعْطِيهِ

ہمارا سوال یعنی وہ خیر جس کا وعدہ دیا تو نے کسی کو اپنی مخلوق سے یا وہ خیر کہ تو عطا کرنے والا ہے

أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَإِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَنَسْأَلُكَ إِيَّاهُ بِرَحْمَتِكَ

اپنے کسی بندے کو پس ہم اس میں تیری طرف رغبت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس کا تجھ سے تیری رحمت کے صدقے میں

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ

اے اللہ بظہیر اپنے علم غیب کے اور خلق پر قدرت کے مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانے

الْحَيَاةَ خَيْرًا إِلَيَّ وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا إِلَيَّ اللَّهُمَّ أَحْسِنُ

حیات کو میرے لیے بہتر اور وفات دے جب جانے وفات کو میرے لیے بہتر۔ اے اللہ اچھا فرما

عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجْرُنَا مِنْ حَزْمِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

ہمارے انجام کو تمام امور میں اور ہمیں بجا دینوی رسوائی اور آخری عذاب سے

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي بِرِضَاكَ ضَعْفِي وَخُدُّ لِي الْخَيْرَ كَمَا تَرْضَى

اے اللہ میں ناتواں ہوں پس مجھے قوی فرما اپنی رضا کے ساتھ اور میری پیشانی میں خیر کو باندھ دے

وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مِنْتَهَى رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي بِرِضَاكَ

اور اسلام کو میرا منتہائے رضا بنا دے۔ اے اللہ میں ناتواں ہوں مجھے ترانا بنا لے

قَوِيٌّ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي يَا عَزِيزُ وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَرْزُقْنِي يَا أَرْزَاقَ

قوی۔ میں بے عزت ہوں مجھے عزت عطا فرما لے عزیز اور میں فقیر ہوں پس مجھے رزق دے۔ اے رزاق

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَإِنِّي سَأَلْتُ لِعِزَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

اے قوت والے۔ استحکام والے اور میں سوال کرتا ہوں (تجھ سے) دنیا و آخرت کی عزت کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو جینے ہوئے ہیں

الْأَمْثَلِ وَالْأَوَّاحِرِ ولسانِ الْحَضْرَةِ الْأَقْدَسِيَّةِ بِلَا عَدَدٍ

بزرگ ترین لوگوں سے اور آنے والوں سے اور ترجمان ہیں حضرت اقدس کے بغیر شمار کے

الْمُقَوِّي النَّفُوسِ بِلَا مَدَدٍ الْمَوْلَى بِلَا وَلَدٍ الْعَزِيزُ الْمَتِينُ الْمَسْكُونُ

نفوس کو تقویت دینے والے ہیں بغیر کسی مدد کے۔ مولیٰ ہیں بغیر اولاد کے۔ عزیز سردار۔ سند و حجت

وَسَيَادَةُ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمِدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

اور (منظر) سیادت ہیں واحد احد بے نیاز کے جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ جنا گیا اور نہیں ہے

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

اس کا کوئی ہم پلہ نہ فرما دیکھئے وہ اللہ یکتا

اللَّهُ الصَّمِدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا اور

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہیں اس کے بے ہم پلہ کوئی شخص۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِیَّ
 الْمَعْرُوفَ الْمَحْمُودَ وَجَعَلَ عَلَیْهِ الْاِسْمَ الْعَلِیْمَ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْقُرْآنَ عَلَیْنا
 حُرْمَةً كَرِیْمًا وَجَعَلَ عَلَیْهِ الْاِسْمَ الْعَلِیْمَ

اللهم انتم افضل
 كرمین مان منت اقرآن بیل
 ایزدمنان تحفه عجایب و هدیه غرائب الی اللہ اللہ
 مقبول با برکات شاه کونین حضرت شیخ محمد رسول اللہ
 مسکلی به

مجموعۃ الرسول

الجزء التاسع 9

فِي تَحْسِيْدِهِ وَتَجْوِيْدِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَنْزَلَ عَلَیْنا الْقُرْآنَ الْعَرَبِیَّ الْمَعْرُوفَ الْمَحْمُودَ وَجَعَلَ عَلَیْهِ الْاِسْمَ الْعَلِیْمَ

حضرت خواجہ نورجگان محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
 صوبہ سرحد پاکستان

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِمَنْبِیْعِ

اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رفعت کے وسیلہ سے اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مضبوطی کے وسیلہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفاعت کے وسیلے سے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بہت رحم والا مہربان۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ راست پر۔ راہ

الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

نہیں کوئی معبود برحق مگر محمد اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ حُبِّ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی تعریف و ثنا۔

تَحْمِیْدِهِ وَتَبْجِیْدِهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ صَلٰتٍ

اور بزرگی کے بیان کو پسند کرتے ہوئے "بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے صلوٰۃ بھیجتے ہیں نبی پر صلتی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ ۝ اِنِّیْ اُصَلِّی الصَّلٰوَةَ عَلَیْهِ اَحَدَ عَشَرَ

محمد کی آل پر جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نبی پر گیارہ مرتبہ صلوٰۃ

مَرَّةً وَعِنْدَ الْبَعْضِ اثْنِي عَشْرًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بھیجتا ہوں اور بعض کے نزدیک بارہ دفعہ اور بعض نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِينَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى

سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے

لِاجْلِهِ أَمَرَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

حکم دیتے ہوئے فرمایا " اے ایمان والو صلوٰۃ بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ

صلوٰۃ بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی ابراہیم پر اور آل

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَلِيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

ابراہیم پر بے شک تو سزاوار حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ رحم فرما محمد پر اور آل محمد پر

كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ

جیسے تو نے رحم کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو لائق حمد اور بزرگتر ہے

اللَّهُمَّ اعْظِمْ وَأَكْبِرْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا عَظَّمْتَ وَكَبَّرْتَ إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ عظمت و کرامت عطا کر محمد اور آل محمد کو جیسے تو نے عظمت اور بزرگی دی ابراہیم کو

وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اور آل ابراہیم کو بے شک تو لائق حمد بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما نبی اقی

الرُّقِيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت دی ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو

إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

بے شک تو ہمیشہ مستحق حمد بزرگتر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی آل

إِبْرَاهِيمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ابراہیم پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو حمید مجید ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور

بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ

برکات نازل ہونے والی محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں نازل ہونیوالی ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ

اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بنا اپنی صلوات و برکات کو محمد و آل محمد پر جیسے کہ

جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

بنایا انہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر اور ان کے اہل بیت پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتُ

اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر جیسے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

محمد اور آل محمد پر جیسے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور اولاد پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

آپ کی مقدس بیویوں پر اور اولاد اطہار پر جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو تمام جہاتوں میں بے شک تو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ

حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور برکت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتُ وَبَارَكْتُ

محمد اور آل محمد پر اور رحم فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات بھیجی اور برکت دی

وَتَرَحَّصْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

اور رحم فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ آلِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور ان کے اہل بیت پر جیسے رحمت نازل فرمائی

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَصَلِّ عَلَىٰ

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ ہم پر بھی صلوات ہو ساتھ ان کے اور درود ہو

اللَّهُ وَصَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ

اللہ کا اور مؤمنین کا نبی امی محمد پر۔ اے اللہ برکتیں عطا کر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

محمد اور آپ کے اہل بیت کو جیسے تو نے برکت دی آل ابراہیم کو بے شک تو حمید

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا

مجید بے لے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ برکت سے نواز۔ لے اللہ انہیں قائم مرا قیامت کے دن مقام

مَحْمُودًا يُغِيْطُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

محمود میں کہ جس پر قیام کی وجہ سے اولین و آخرین ان کے ساتھ رشک کریں گے۔ لے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَابْلِغْهُ الْوَسِيْلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور پہنچا انہیں مقام وسیلہ اور بلند تر درجہ تک جنت سے۔ لے اللہ

اجْعَلْ فِي الْمِصْطَفَيْنِ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبَيْنِ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْاَعْلَىٰ

بنا چنے ہوئے حضرات میں محبت ان کی۔ اور ارباب قرب میں مودت ان کی اور بلند مقام حضرات میں

ذِكْرَهُ وَدَارَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

ذکر اور مکان ان کا ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور اس کی رحمت اور برکتیں۔ لے اللہ سلوٰۃ بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد پر اور آل محمد پر۔ اور برکت عطا فرما محمد کو اور آل محمد کو جیسے

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا

صلوٰۃ و برکت نازل فرما آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور رحم فرما محمد پر

وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَبَارِكْ

اور آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت عطا فرما

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

محمد کو اور آل محمد کو جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

لے اللہ اور رحمت خاصہ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے خاص رحمت نازل فرمائی ابراہیم

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مُجِيبُ دُعَائِهِمْ وَتَحْتَسِبُ عَلَىٰ عِبَادِكَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو مجید مجید ہے۔ اے اللہ اور مہربان فرما محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

آل محمد پر جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ

مجید مجید ہے۔ اے اللہ اور سلام بھیج محمد و آل محمد پر جیسے تو نے سلام بھیجا

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو مجید مجید ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی ابراہیم پر اور برکت عطا کر محمد کو

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ

اور آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو اور سلام بھیج محمد اور آل محمد پر

إِلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَحَنَّنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ

جیسے تو سلام بھیجا ابراہیم پر اور مہربان ہو محمد اور آل محمد پر

كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ

جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو مجید مجید ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ

صلوٰۃ نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم پر اور

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحَّمْتَ إِبْرَاهِيمَ

آل ابراہیم پر اور رحم فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت دے محمد اور

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ سدا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر

وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے رحمت و برکت نازل فرما ابراہیم اور

وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور

وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

رحمت اور برکات کو محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں ابراہیم پر

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ کہ اپنی صلوات اور

بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ

برکات اور رحمت سید المرسلین امام المتقین اور خاتم

النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

النبتین محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ خیر کے امام و قائد ہیں اور رسول

الرَّحْمَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

رحمت میں اور صلوٰۃ بھیج محمد اور آل محمد پر جیسے صلوٰۃ بھیجی ابراہیم اور

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد۔ ان کے اہل

بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

بیت اور ازواج و اولاد پر جیسے کہ صلوٰۃ بھیجی ابراہیم و آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اور برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کے اہل بیت اور ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

اور اولاد پر جیسے برکت دی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما نبی محمد پر اور آپ کی ازواج ائمہات المؤمنین پر اور

ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

آپ کی اولاد اور اہل بیت پر جیسے صلوٰۃ نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو حمید

مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ

مجید ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد پر جیسے ترے ہیں حکم دیا کہ ہم صلوٰۃ بھیجیں ان پر

وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور صلوٰۃ بھیج ان پر جیسی کہ صلوٰۃ ان کے شاہان شان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَرِجَاءً

اور آل محمد پر ایسی صلوٰۃ جو تیری رضا کا موجب ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو اور عطا کر انہیں

الْوَسِيلَةَ وَالْبَقَامَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ كَمَا وَعَدْتَهُ

مقام وسیلہ اور مقام محمود جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اور جزا دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ حقدار ہیں اور جزا دے انہیں

عَنْ مَنْ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

ہماری طرف سے افضل ترین جزاء جو تو نے کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دی۔ اور صلوٰۃ بھیج ان کے تمام بھائیوں یعنی

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَجِيدِكَ

انبیاء و مرسلین پر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظیم تر بزرگی کے وسیلہ

الْمَجِيدِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ يَا مَجِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سے بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے صاحب مجد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَ

آپ کی آل پر مطابق تعداد صفوں ملائکہ کے اور ان کی تسبیح و

تَقْدِيرِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَجْمِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ

تقدیس اور تحمید و تجمید اور تکبیر و تہلیل کی مقدار کے مطابق

مَنْ أَوَّلَ الدُّنْيَا إِلَى فَنَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابتداء خلق سے لے کر فناء دنیا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَلْهِمْتَ الْعُلُومَ مِنْ عَوَارِفِ

اور آپ کی آل پر وہ محبوب کر حاصل کئے گئے ہیں سبھی علوم ان کے علوم کے سمندروں کے

بُحُورِ عُلُومِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحَرْفِ الْجَامِعِ

عوارف سے۔ اے اللہ ہم تو اسل کرتے ہیں تیری طرف اس حرف کے ساتھ جو جامع ہے

لِمَعَانِي كَمَا لَكَ نَسْأَلُكَ إِيَّاكَ أَنْ تُرِينَا وَجْهَ نَبِيِّنَا وَتُحَوِّمَنَا

تیرے کمالات کے معانی کو۔ ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کا چہرہ انور دکھلائے اور ہم سے محو کرے

وَجُودَ ذُنُوبِنَا بِشَاهِدَةِ جَمَالِكَ وَأَنْ تُغَيِّبَنَا فِي بَحَارِ أَنْوَارِكَ

ہمارے گناہوں کے نام و نشان کو اپنے مشاہدہ جمال کے ذریعے اور ہمیں غرق کرے اپنے انوار کے سمندروں میں

مَعْصُومِينَ عَنِ الشُّوَاعِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَرَاغِبِينَ إِلَيْكَ غَائِبِينَ

در آخالیکہ ہم محفوظ ہوں دنیوی مشاغل سے رغبت کرنے والے ہوں طرف تیری غائب و مستغرق ہوں

بِكَ يَا هُوَ وَأَسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَاغْسِنَا فِي بَحْرِ احْتِسَابِكَ

تجھ میں لے ذات محبت اور ہمیں پلا اپنے شراب محبت سے۔ اور ہمیں غرق فرما دے اپنی احبت کے سمندروں میں

حَتَّى نَرْتَعِ فِي بَحْبُوحَةِ حَضْرَتِكَ وَتَقْطَعُ عَنَّا أَوْهَامَ خَلْقِكَ يَا كَرِيمُ

تھی کہ ہم لطف اندوز ہوں (نورانی غذاؤں کے ساتھ) تیرے حریم ناز میں اور قطع کرے ہم سے مخلوق کے اوہام

بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَنُورِ نَابِئِ نُوْرٍ طَاعَتِكَ وَاهْدِنَا ذَوَا لِنُظْمِكَ يَا كَرِيمُ

اپنے فضل اور رحمت سے اور ہمیں منور فرما اپنے نور طاعت کے ساتھ۔ ہمیں ہدایت عطا کر اور گمراہ نہ فرما

وَبَصِّرْنَا بَعْيُورِنَا عَنْ عَيُوبِ غَيْرِنَا بِحُرْمَتِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا يَا كَرِيمُ

اور ہمیں اپنے عیوب کے ملاحظہ کرنے کی توفیق دے کر دوسروں کے عیوب سے غافل رکھ بھرت ہمارے نبی اور سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ مَصَابِيحِ الْوُجُودِ يَا كَرِيمُ

محمد کے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ان پر اور اس کی سلامتی اور ان کی آل پر جو ہم موجود کے لیے اور

أَهْلِ الشُّهُودِ بِشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ يَا كَرِيمُ

اہل شہود کے لیے چراغ نور میں بطفیل شاہد و مشہود (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے) اے اللہ ہم ان کے ساتھ شفاعت طلب کرتے تیری

إِذْ هُوَ أَوْجَهُ الشُّفَعَاءِ إِلَيْكَ وَنُقُصَمُ بِهِ عَلَيْكَ إِذْ هُوَ عَظَمُ

بارگاہ میں کیونکہ وہ تیرے ہاں سب شفیعوں سے زیادہ آبرو مند ہیں اور ہم قسم دیتے ہیں ان کی تجھ پر کیونکہ وہ عظیم تر ہیں

مَنْ أَقْسَمَ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ وَتَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَقْرَبُ

ان تمام حضرات سے جن کے حق کا تجھے واسطہ دیا گیا اور ہم ان کے ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ پکارتے ہیں کیونکہ وہ وسائل میں سے قریب ترین

الْوَسَائِلِ إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةَ قُلُوبِنَا وَكَرْهًا

وسیلہ ہیں تیری طرف۔ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اے رب اپنے دلوں کی قسوت۔ گناہوں کی کثرت

ذُنُوبِنَا وَطُولَ أَمَالِنَا وَفَسَادَ أَعْمَالِنَا وَتَكَاثُرَ عَنَّا الْوَالِدَاتِ يَا كَرِيمُ

اور لمبی آرزوں اور فاسد اعمال کی اور طامات میں سستی کی

وَهَجُومَنَا عَلَى الْبُخَالَفَاتِ فِتْنَمُ الْمُشْتَكَى إِلَيْكَ يَا كَرِيمُ

اور مخالفتوں پر کمر بستہ ہونے کی پس بہت اچھا ہے شکایات پیش کئے جانے کے لائق تو۔ اے پروردگار

بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى أَعْدَائِنَا وَأَنْفُسِنَا فَانصُرْنَا وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ

تیری ذات سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اپنے اعداء اور نفوس پر پس ہماری نصرت فرما۔ اور تیرے ہی فضل پر توکل کرتے ہیں

فِي صَلَاحِنَا فَلَا تَكُنَّا إِلَى غَيْرِكَ يَا رَبَّنَا وَإِلَى جَنَابِ رَسُولِكَ نَنْتَسِبُ

اپنی اصلاح میں پس ہمیں دوسروں کے حوالے نہ فرمائے ہمارے پروردگار اور تیرے رسولِ مہتمم کی جناب اقدس سے نسبت رکھتے ہیں

فَلَا تَبْعِدْنَا وَبِبِأَيْكَ نَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنَا وَإِيَّاكَ نَسْأَلُ فَلَا تُخَيِّبْنَا اللَّهُمَّ

پس ہمیں دور نہ فرما اور تیرے ہی در پر کھڑے ہیں تو ہمیں دھتکار نہ دینا۔ اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں پس ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ

إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنُورِ السَّارِي فِي الْوُجُودِ أَنْ تُحْيِيَ قُلُوبَنَا

ہم تیری طرف وسیلہ بناتے ہیں ان کے نور کو جو جملہ موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے کہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے ان کے

بِنُورِ حَيَاةِ قَلْبِهِ الْوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَهُدًى وَ

قلب انور کے نور حیات کے ساتھ جو محیط ہے ہر فرد کائنات کو از روئے رحمت و علم کے اور ہدایت و

بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ تَشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ شَرْحِ صَدْرِهِ الْجَامِعِ

بشارت کے اور خصوصاً تمام مسلمین کو۔ اور کشادہ فرمائے ہمارے سینوں کو بطفیل ان کے شرح صدر کے نور کے جو جامع

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ وَتُطَهَّرُ

(روح محفوظ کو جس کی شان یہ ہے) ہم نے کتاب (روح محفوظ) میں کسی شے کی اور جامع ہے از روئے نور سانی اور تذکرہ کے واسطے متقین

نُفُوسَنَا بِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الرَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَتُعَلِّمُنَا بِأَنْوَارِ عُلُومِهِ

کے اور پاک کرے ہمارے نفوس کو آپ کے نفسِ زکیہ مرضیہ کی طہارت کے طفیل اور سکھلائے ہمیں ان کے انوارِ علوم کی بدولت (اس شان والے علوم)

وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ط وَتُسْرَى سِرَائِرَنَا

اور ہر شے کا احاطہ کر دیا ہے ہم نے روح محفوظ میں " اور جاری و ساری کرے ان کے اسرار کو ہم میں

بِلِوَامِهِ أَنْوَارِكَ حَتَّى تُفْنِنَا عَنَّا فِي حَقِّ حَقِيقَتِهِ فَيَكُونُ هُوَ

اپنے چمکتے انوار کے ساتھ حتیٰ کہ فنا کر دے ہمیں ان کی حقیقتِ حقہ میں تاکہ ہو جائیں وہی

الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَيَبْقِيُومِيَّتِكَ السَّرْمَدِيَّةَ فَنَعِيشُ بِرُوحِهِ عَيْشَ

حی و قیوم ہم میں بطفیل تیری قیومیتِ سرمدیہ کی مظہریت کے پس ہم ان کی روح اقدس کے ذریعے پائیں

الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

حیات ابدیہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما

كثِيرًا أَمِينًا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا

کثیراً آمین بسبب تیرے فضل و رحمت کے ہم پر اے حنان اے منان اے

رَحْمَنُ يَا دَيَّانُ أَفْضُ عَلَيْنَا تَجَلِّيَاتٍ مَنَازِلَاتِكَ فِي مِرَاةِ

رحمن اے بہت جزاء دینے والے فیضان فرما ہم پر اپنے منازل کی تجلیات کا اس محبوب کے آئینہ شہود

شُهُودِهِ لِمَنَازِلَاتِ تَجَلِّيَاتِكَ فَتَكُونُ فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

میں (جو مظہر ہے) تیرے منازل تجلیات کا پس ہم ہو جائیں از روئے معنی خلفاء راشدین اور

وَوَلَايَةِ الْأَقْرَبِينَ يَا رَبَّنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقْبَلُ مَثَالِدَ عَوَاتٍ

اور لسیا اقریبین سے اے اللہ بطفیل ان کی عزوجاہ کے جو تیری بارگاہ میں ہے قبول فرما ہماری دعائیں

وَأَرْفَعُ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَأَقْضِ عَنَّا التَّيَبَعَاتِ وَأَسْكِنْنَا عَلَى الْجَنَّاتِ

اور بلند فرما ہمارے درجات کو اور دور فرما ہم سے عذاب اور بھڑاہیں بلند جنات میں

وَأَبْحِنَا النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي حَضْرَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ وَ

اور مباح فرما ہمارے لیے اپنی ذات کریمہ کا دیدار مقامات مشاہدہ میں اور

أَجْعَلْنَا مَعَهُ وَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

بنا ہمیں محبوب کریم کا ساتھی اور جن پر تو نے انعام کیا یعنی انبیاء و

الصَّادِقِينَ أَهْلَ الْمُعْجَزَاتِ وَأَرْبَابِ الْكِرَامَاتِ وَهَبْ لِي

صدیقین کا ساتھی جو معجزات اور کرامات کے مالک ہیں اور مجھے عفو و

الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةَ مَعَ اللَّطْفِ فِي الْقَضَاءِ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

عافیت عطا فرما مع لطف و احسان کے قضاء میں آمین اے رب العالمین

اللَّهُمَّ أَمِّدْنَا بِمَدَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَدْوَمَ الْبِرَّ

اے اللہ ہماری امداد فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے

الْإِسْتِقَامَةُ وَتَزَايِدَ لَنَا بِكَ الْكَرَامَةُ اللَّهُمَّ أَمِّدْنَا بِدِأْسُفٍ

استقامت حاصل ہو اور بڑھ جائے تیری توفیق سے ہماری بزرگی۔ اے اللہ ہماری امداد فرما ساتھ مدد اس ذات کو جو اشرف ہیں

أَنْبِيَائِكَ وَأَجَلِّ أَصْفِيَاءِكَ وَتَأَجُّرِ أَوْلِيَاءِكَ وَسَيِّدِ أَهْلِ وَفَاءِكَ

تیرے تمام انبیاء سے، جلیل تر ہیں تیرے تمام اصفیاء سے اور تاج ہیں تیرے اولیاء کے اور سردار ہیں اہل وفا کے

الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ الْخَبِيرِ الْبَصِيرِ الْقَدِيرِ اللَّهُمَّ

بشیر و نذیر۔ روشن چراغ ہیں۔ خبر رکھنے والے۔ صاحب بصیرت اور صاحب قدرت ہیں۔ اے اللہ

بِحَاهِهِ عِنْدَكَ يَسِّرْ لَنَا عِلْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

بظہیر ان کی عزت و حرمت کے جو تیری بارگاہ میں ہے آسان فرما ہمارے لیے علم حقیقی "لا الہ الا اللہ۔ اشہدان لا الہ الا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاجْعَلْنَا بِهِ فِي حَضْرَةِ

اللہ و اشہدان محمداً رسول اللہ کا اور بنا ہمیں اس کے ذریعے مقدس ربانی

الْقُدْسِ الرَّبَّانِيِّ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبِعَكَ اللَّهُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ

بارگاہ میں ان کے تابعین سے تاکہ تیری اتباع تک پہنچ جاؤں۔ اے اللہ ایسے ہی ہوں ہر جگہ

ذَلِكَ مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَكُلُّ مَا يَكُونُ اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ

معروضات میں جب تک تیرے لیے ہے وہ سب جو ہو چکا اور وہ سب جو ہو گا یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ بظہیر ان کے سر حقیقت

لَدَيْكَ مِنْ خَوْفِي وَأَقْلُ عَثْرَتِي وَأَذْهَبُ حُرْصِي

کے جو تیرے ہاں ہے میرے خوف کو امن سے بدل اور تبدیل کر میری لغزشیں اور دور فرما میرے غم اور حرص کو

وَكُنْ لِي وَخُذْ نِي إِلَيْكَ مِنِّي وَأَرْزُقْنِي الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْنِي

اور تو میرا ہو جا اور مجھے مجھ سے لے کر اپنا بنا لے اور مجھے اپنے آپ سے فنا ہونے کی توفیق دے اور مجھے اپنے نفس کے

مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحِسِّي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرِّ

ساتھ ابتلاء میں نہ ڈال اور حرص کے ذریعے حجاب میں نہ رکھ اور مجھ پر ہر راز سربستہ کو کشف نہ فرما

مَكْتُومٍ مَكْظُومٍ يَا كَاشِفُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ سَلَامِي إِلَيْهِ وَأَوْقِفْنِي

اے کشف کرنے والے۔ اے اللہ میرا سلام نیاز ان تک پہنچا مجھے ان کی بارگاہ میں قیام کی سعادت بخش اور مجھ

بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ مَدَدِهِ وَأَجْرُ سُنِّي لِي

پران کی مدد کا فیضان فرما اور میری نگہبانی فرما ان کے لشکروں سے اور پھونک

فِي مَنْ رُوحِهِ كِي أَحْيِي بِرُوحِهِ وَلَا شُهَدَا حَقِيقَتِي

میرے اندر ان کی روح اقدس تاکہ میں ان کی روح سے زندگی پاؤں اور میں مشاہدہ کروں اپنی حقیقت کا تفصیل کے ساتھ

وَأَعْرِفْ بِذَلِكَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ وَأَرَى الْعَوَالِمَ الْعَدِيدَةَ

اور جان لوں اس کی بدولت کثیر و قلیل کو اور دیکھ لوں غیب کے جہازوں کو جلوہ نگن ہوتے

بِالصُّوَرِ الرُّوحَانِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَظَاهِرِ لِأَجْمَعِ بَيْنَ الْأَوَّلِ

صور روحانیہ کے ساتھ باوجود اختلاف مظاہر کے تاکہ میں جامع ہو جاؤں اول و

الْآخِرِ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فَكُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهِي بَيْنَ رُوحِي

آخر کا اور ظاہر و باطن کا پس ہو جاؤں ساتھ اللہ کے۔ اے میرے اللہ مجھ پر واضح فرما

صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لَيْسَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ وَلَا

ان کی صفات و افعال نہیں میرے لیے امر سے کوئی معلوم شئی اور نہ کوئی نعمت کی ہوئی حسرت

مَقْسُومٌ فَأَعْبُدُكَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ بَلْ بِحَوْلِ اللَّهِ

تاکہ غلامی کروں ان کی اس امر کے ساتھ تمام احوال میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توانائی اور

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِحُجَّتِهِمْ

ذوالجلال و الاکرام کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ اے جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جو لاریب ہے

فِيهِ أَجْمَعُنِي بِهِ وَعَلَيْهِ وَفِيهِ حَتَّى لَا أَفَارِقَهُ فِي الْأَحْوَالِ

جمع فرمائے مجھے ساتھ ان کے اور ان پر اور ان میں تاکہ میں نہ جدا ہو سکوں ان سے دونوں جہازوں میں اور نہ

أَنْفِصَلَ عَنْهُ فِي الْحَالِيْنَ بَلْ أَكُونُ كَأَنَّكَ كَأَنَّكَ

جدا ہو سکوں دونوں حالوں میں بلکہ میں ہو جاؤں گویا کہ میں ان کا عین ہوں ہر اس امر میں

تَوَلَّاهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِتِّبَاعِ وَالْإِتِّفَاعِ

جس کے وہ متولی ہوئے لیکن اتباع و استفادہ کے طور پر نہ کہ برابری یا برتری اور

الْأَمْرِ تَفَاعٍ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى الْمُسْتَجَابَةِ أَنْ تُبَلِّغَنِي

رضت کے طریقہ پر۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے مقبول اسماء حسنیٰ کے وسیلہ سے کہ تو پہنچانے مجھے

ذَلِكَ مَنَّهُ مُسْتَجَابَةٌ وَلَا تَرُدَّنِي مِنْكَ خَائِبًا وَلَا مَمْنُنٌ لَكَ

اس مقام تک بطور پاکیزہ منت و احسان کے اور نہ لوٹائے مجھے اپنے در سے اور اپنے ناپ کے

نَائِبٌ فَإِنَّكَ الْوَاحِدُ الْكَرِيمُ وَأَنَا عَبْدُكَ الْعَدِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ

در سے ناکام پس بیشک تو صاحب وسعت اور کریم ہے اور میں تیرا لاشی بندہ ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ الشَّانِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بلند شان ہیں

الَّذِي تُوِّجَّ مِعْرَاجُهُ بِسُورَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جن کے معراج کا تاج سورہ سبحان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَقَاهُ اللَّهُ بِكَأْسِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پلایا اللہ تعالیٰ نے جام

الْوَحْيِ فَوْقَ سَبُوتِهِ وَأَمْرًا إِذَ اللَّهُ مِنْ عَظِيمِ آيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ

وحی کے ساتھ آسمانوں سے اوپر اور دکھلائیں انہیں اپنی عظیم آیات اور مخلوقات۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس

الَّذِي مَا نَرَاهُ بِصُرَّةٍ وَمَا طَعْنِي وَأَمَحْتُ فَصَاحَتَهُ فَصَاحَةٌ

محبوب کی نگاہ نہ تو پھری دوسری طرف اور نہ حد سے بڑھی اور محو کر دیا ان کی فصاحت نے تمام فصحاء کی

الْفُصْحَاءِ وَبِلَاغَةِ الْبُلْغَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فصاحت اور بلغاء کی بلاغت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا بِمُ الْعَرْشِ تَشْتَاقُ لِلْقِيَاءِ

اور آپ کی آل پر کہ عرش اعظم کے ستون مشتاق ہیں اس محبوب کے دیدار کے

وَالْمَلَائِكَةُ كَانَتْ يَرَى بِلِحُظِّهِ الْمَصُونِ مَا خَفِيَ عَنِ الْبَشَرِ

اور ملائکہ بھی۔ دیکھتے تھے اپنی معصوم آنکھ کے گوشے سے جو مخفی ہوتا تھا نگاہوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَوَىٰ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ قبول کیا

اللَّهُ خُشُوعَهُ وَخُضُوعَهُ وَكَانَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ سُلُجُودٌ مِنْ خَلْقِكَ

اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے خضوع و خضوع کو اور نہیں مخفی رہتا تھا ان پر پیچھے والوں کا سجدہ

وَلَا رُكُوعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور نہ ہی رکوع اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بُوْرَكَ بِهِ طَعَامٌ صُنِعَ لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُمَّ

پر کہ جن کی بدولت مبارک کیا گیا وہ کھانا جو ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

أَرُوِي بِقَدْحٍ مِّنَ الْمَاءِ تِلْكَ الْعَشِيرَةَ وَأَشْبَعَهُ مِنَ الْبُرِّ

سیراب فرمایا پانی کے ایک پیالے سے اس جماعت کو اور سیر فرمایا ثرید کے

بِمِقْدَارِ الْقَمِيَّةِ مِنْهُ أَبَاهُ رِيْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ایک قدم سے حضرت ابوہریرہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عِنْدَهُ شِدْرًا

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس دیکھا آگ کا شعلہ شبیر

بْنِ عَثْمَانَ وَتَرَ آلَ بِهِ مِنْ شَيْبَةٍ وَسَاوَسَ الشَّيْطَانُ

بن عثمان نے اور اس کے ذریعے شبیر سے دور ہو گئے و سوسے شیطان کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا عثمان

بُنْ طَلْحَةَ يَقَعُ يَوْمًا فِي يَدِهِ مِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى الْجَنَانَةَ

بن طلحہ ججی کو کہ میرے ہاتھ آئے گی ایک دن چابی کعبہ کی (جو آج تیرے قبضہ میں ہے) اور نماز جنازہ اور فرمائی

عَلَى مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِي حِينَ الْغَيْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معاویہ لیبثی پر باوجود مسافت طویلہ کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْهَمَ بَيْنَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت الہام کیا گیا ہر ایک

رَسُولِهِ لِسَانَ كُلِّ مَلِكٍ جَاءَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رسول کو اس فرشتے کی زبان کا جو ان کی طرف کتاب لایا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَدَا عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس صبح حاضر ہونے

أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ فَلَانَا وَفَلَانَةَ اللَّهُمَّ

ابو طلحہ تو آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے نکلان (ابو طلحہ) اور فلانہ (ام سلیم) سے ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

بَكَى لِبِكَاءِ أَصْحَابِ أَحَدٍ وَقُتِلَ بِدُعَايِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ وَدٍّ

رونے سے اصحابِ احد رو پڑے اور قتل ہوا آپ کی دُعا سے عمر بن عبدِ ود (جنگِ خندق میں)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ لِرِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ فِي

ابن پڑا آپ کی انگلیوں سے پانی (کا چشمہ) زیاد بن حارث کے لیے دوران

السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سفر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رِبِحَ بِهِ فِي الصَّفَقَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّهُمَّ

پر جس محبوب کے صدقہ میں نفع مند ہوئے اپنی تجارت میں حضرت عبداللہ بن جعفر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

عَذِبَ بِهِ مَاءٌ سَبَّأَهُ نَعْمَانٌ وَسَمَحَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَوْمِ عَطْفَانَ

برکت سے میٹھا ہو گیا رکھاری پانی، جس کو اپنے نعمان کا لقب دیا، اور آپ کے لیے صحبت میں دھچی ظاہر کی قوم عطفان نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَلَبَهُ الْجَمَلُ فِي صَاحِبِهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ لِلسَّرِقَةِ أَنْ

جس محبوب کے ساتھ کلام کیا اونٹ نے اپنے مالک کے متعلق جس پر چوری کی وجہ سے

تُقَطَّعَ يَدُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَامَ الْمَاءُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ بَيْنِ

آل پر کہ جس محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مارنے لگا غزوہ

أَصَابِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تبوک میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَتْ بِرِسَالَتِهِ طَبِيبَةُ الْأَعْرَابِيِّ بِلَادِ

آل پر کہ گواہی دی جن کی رسالت کی اعرابی کی ہر نے بغیر

مَرِيَّةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کسی ترو کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا اجْتَرَقَ بِهِ سَفْرَةَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَشِئْ أَدْبَهُ طَعَامُ

آل پر کہ جن کے ہاتھ سے چھو جانے کی وجہ سے زجلا دسترخوان البرادر داء کا اور بڑا ہ گیا ان کی برکت سے

وَلِيْمَةٌ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فاطمہ زہراء کے ولیمہ کا کھانا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ دَخَلَ صَوْمِعَةَ الْیَهُودِ فَاَنْقَطَعَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جو آقا پیور کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو منقطع ہو گئیں

سَلٰسِلُ الْقَنَادِیْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ان کی قندیلوں کی زنجیریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اَعْلَمَ بِخُرُوْجِ جَبْرِیْلِ اِلٰی بَنِي قُرَيْظَةَ

آل پر کہ جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کو جب جبریل کے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے

اَصْحَابَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

نکلنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ عَرَجَ بِیَمِیْنِهِ الْمَاءَ اِلٰی رَاسِ الْبِیْرِ فِیْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ

محمد پر کہ جس محبوب کی برکت سے بلند ہوا پانی کنوئیں کے سرے تک غزوہ تبوک میں

یَوْمَ نُوْبَةِ الْمَسْلُوْمِیْنَ وَغَارِ بَقْعَرِهَا یَوْمَ نُوْبَةِ الْكُفَّارِ اَللّٰهُمَّ

اہل اسلام کی باری کے دن اور گہرائی میں چلا گیا کافروں کے باری کے دن۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کی

صَارَ رَمْلًا وَرَمَادًا اِبْنِ الْاَحْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

برکت سے ریت اور راکھ کی مانند ہو گئے سخت پتھر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ مَالَ فِیْ صَوْمِعَةِ بَحِیْرًا

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ مال ہو گیا بحیرا راہب کے عبادت خانہ میں

رِظْلًا لِّهِ الشَّجَرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

ان پر سایہ کرنے کے لیے درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اَعْلَمَ بِخُرُوْجِ جَبْرِیْلِ اِلٰی بَنِي قُرَيْظَةَ

آل پر کہ جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کو جب جبریل کے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْتَضَرَّتِ الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ حِينَ جَلَسَ

سیدنا محمد پر کہ سرسبز ہو گیا خشک درخت جبکہ آپ تشریف فرما ہوئے

تَحْتَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَلَلَتْهُ الْغَمَامَةُ وَلَقَطَتْ بِهِ الْأَرْضُ مُحِلِّمَ بَنٍ

پر جس محبوب پر سایہ ٹگن ہوئے بادل اور جن کی دعائے ہلاکت باہر پھینک دیا زمین قبر نے محلم بن

جَنَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جنامہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرُوِي بِفَضْلِ وَضُوئِهِ مَا فَوْقَ الْفَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس محبوب نے سیراب فرمایا اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی سے دو ہزار سے زیادہ صحابہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا

لِبَعْشَرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّكُمْ جُنْتُمْ لَتَسْأَلُونِي عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

اہل کتاب کی جماعت کو بے شک تم اس لیے آئے ہو تاکہ مجھ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي عُدِمَ رِجْلُهُ لِبَنَاتِ مَسْعُودٍ دَخَلَتْ الْأَفْوَاهُ وَشَلَّتْ لَهُ

معدوم ہو گئی ان کی بدولت مسعود کی بیٹیوں کی گندہ دہنی اور شل ہو گیا آپ کی وجہ سے

يَدُ كَاتِبِ سَفْرِ الْعَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

(مقاطعہ وائے اہد نامہ کے کاتب کا ہاتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُنَاغِي الْقَبْرَ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ

آپ کی آل پر جو محبوب کہ چاند سے سرگوشی کرتے تھے اور اس کی طرف اشارہ کرتے

فِي سَبِيلِ إِلَى أَبِي جَانِبٍ يُشِيرُ إِذَا كَانَ فِي الْمَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تو ادھر ہی مائل ہو جاتا جدھر اشارہ فرماتے جبکہ آپ پگھڑے میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمْتَهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ساتھ کلام فرمایا

فَاطِمَةَ وَهِيَ فِي بَطْنِ خَدِيجَةَ وَالْفَ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالرَّوْحَةِ

فاطمہ زہرا نے جبکہ حضرت خدیجہ کے بطن میں تھیں اور انہیں کے طفیل الفت پیدا فرمائی خاوند اور بیوی (مرتضیٰ و متول) میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن

الَّذِي انْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ لِظَمَاءِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بدولت چھوٹ پڑا پانی کا چشمہ ابو طالب کی پیاس (بجھانے) کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِهَدَ عِنْدَ لَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس گواہی دی اونٹ نے

الْبَعِيرِ عَلَى مُدَّعِي مَا لِكِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اپنے مالک کے مدعی کے خلاف کہ یہ جھوٹا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْرَأُ جَرَحَ حَارِثِ بْنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے درست کر دیا حارث بن

أَوْسٍ وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْعَنْبُ وَالرُّمَّانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اوس کا زخم اور تسبیح کسی ان کی ہتھیلی میں انگوروں اور اناروں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِخَالِدِ

فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا حضرت خالد

بْنِ الْوَلِيدِ إِنَّكَ تَجِدُ الْكَيْدَ رُدُومَةً وَزَالَ بِهِ الْحَتَّاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن الولید کو کہ تم پاؤں کے دومتہ الجندل کے حکمران اکیدر کو کہ گرا چکا ہوگا اس کو فرما اونٹ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَهُ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئے

جَبْرِيلُ مَعَ الْمَوَكِبِ حِينَ رَجَعَهُ مِنَ الْخُنْدُقِ حَتَّى رُئِيَ الْغُبَارُ

جبریل اپنے سواروں کی جماعت میں جبکہ لوٹے خندق سے حتیٰ کہ دیکھی گئی غبار

سَاطِعًا فِي الرَّقَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اُخْتِي ہوتی کلیوں میں ان کے گھوڑوں کے سموں سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ بِهِ جَمَلٌ خَدِيجَةٌ عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ وَ

آل پر کہ جنہیں لے چلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ اور ان پر

أَظْلَهُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ الْمَلَكَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سایہ کیا اس سفر تجارت میں دو فرشتوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ جَبْرَائِيلُ فِي ذَلِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پڑی جبریل علیہ السلام نے اس سفر میں ان

السَّفَرِ زِمَامَةً وَيَرَى مَا خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَا أَمَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی سواری کی لگام اور جو دیکھتے تھے پیچھے سے جیسے دیکھتے تھے آگے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ آپ جب کبھی (کعبہ کے گرد)

كُلَّمَا طَافَ قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ خَرَلَ لَهُ الْأَصْنَامُ سِجْدِينَ اللَّهُمَّ

طواف کرتے ظہور اسلام سے پہلے تو گر پڑتے اصنام حرم ان کے لیے سجدہ میں۔ اے اللہ

إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلَى شَرَفِ تَوْسَلِي بِأَشْرَفِ الْوَسَائِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

میں تیری حمد کرتا ہوں میرے توسل کو مشرف کرنے پر ساتھ افضل ترین وسیلہ یعنی محمد کے صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِينُكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں اپنے تمام امور میں ان کے اعلیٰ مرتبہ اور

وَسِرَّةِ الْأَعْلَىٰ افْتَحْنَا بَابَ حَضْرَاتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَهَادَةِ

بلند تر سر حقیقت کے طفیل۔ کھول ہم پر ان کے حریم ناز کا دروازہ اور بنا دے ہیں ان کی ذات اقدس کا مشاہدہ

ذَاتِهِ وَقَرَّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ وَحَقَّقْنَا بِهِ فِي كُلِّ مَهْبِطٍ وَ

کرنے والوں سے اور ہمیں قریب فرما ان کے ہر مقام شہود میں اور انہیں کی بدولت قائم و ثابت رکھ ہر مقام نزول و

مَصْعَدٍ وَأَنْزِلْ إِلَهُ وَصَحْبَهُ مِمَّا أَنْزَلْتَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ بِالتَّبْعِيَّةِ يَا

صعود میں اور پہنچا ان کی آل اور اصحاب کو ان کے طفیل میں وہ تسلیات جو انہیں عطا کئے ہیں اے

عَلَىٰ يَا حَلِيمٌ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِتَرْقِيَةٍ وَأَسْقِنَا بِتَسْقِيَةٍ مِّنْ

بزرگ و برتر۔ اے حلم والے۔ اے اللہ ہمیں ترقی عطا کر اور ہمیں پلا اپنے عرفان کے

حَوْضِ عَرْفَانِكَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ حَيَاةٍ أَبَدِيَّتِكَ لِأَنْظُمَا بَعْدَهَا

حوض سے ٹھنڈا پانی حیات ابدیہ والا جس کے بعد کبھی ہم پیاسے

أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

نہ ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ حَلِيَّةِ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

کہ جس محبوب نے (نور نبوت سے) بیان فرما دیا اپنی مخطوبہ کا حلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي بُوْرِكَ بِهِ طَعَامُ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللَّهُمَّ

کہ جن کی بدولت بابرکت کیا گیا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا کھانا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلا دیا

أَحْرَقَتْ مَعْشَرَ النَّصَارَىٰ مِنْ أَجْلِهِ النَّارُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَامٌ

نہریوں کی جماعت کو ان کی وجہ سے آگ نے جس کو نازل فرمایا اللہ غیبوں کے جانتے

الغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دائے نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ لِحْيَمَةِ شَانِهِ الْغَنَمُ وَالْجِبَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ بیان کیا جلیہ سعدیہ پر ان کی شان کو بھیڑ بھریوں اور دراز گوش نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے رکھا اپنا پائے ناز

حَجْرٍ فَخَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ نَخْلَةٌ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پتھر پر تو آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے عظیم کھجور برآمد ہو گئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَبَتْ مِنْهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہ آگ بسبب ان کے

رَبَاعِيَّةٌ أَوْلَادٍ مَنْ كَسَرُ بِأَعْيُنِهِ الْكَرِيمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس شخص کی اولاد کا سامنے والا دانت جس نے آپ کے دانت (کا کنارہ) توڑا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُخْفِي الصَّبْرَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ چھپ جاتا تھا سو سہار

الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهِ حِينَ دَخُولِهِ الْبَيْتَ وَيَخْرُجُ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ

جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آپ کے گھر میں تشریف لانے پر اور ظاہر ہوتا تھا آپ کے گھر سے باہر

بَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تشریف لے جانے پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي صَارَ بِهِ الْجِدَارُ حَرِيرًا لِلْحَسَنَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ ہو گئی آپ کی بدولت سخت زمین مانند ریشم کے واسطے حسنین رضی اللہ عنہما کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَرَّمَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دیجھ لیا اصمہ نجاشی کے جنازہ کو

مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرَيْنِ بِحَدَقَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دو ماہ کی مسافت سے سر کی آنکھوں سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَائِشَةَ بَعْدَ كَمَالِ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی تخلیق و تکمیل پر

الْخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ وَحَمَلَهَا الْمَلَكُ فِي خُرْقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اٹھائے ہوئے تھا فرشتہ انہیں ریشمی کپڑے میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے آگاہ فرمایا

قَرِيشًا بَقْدُومِ الْعِيرِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قریش کو ان کے شام سے قافلہ تجارت کی آمد کے متعلق ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اپنے اصحاب کو

بِخَوَاصِّ الْأَسْرَى وَبِمَارَاةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ

اسراء کے خواص کی اور جو دیکھی تھیں اپنے رب کی بڑی آیات ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے

انْكَفَأَ لَهُ الْقَدْحُ فِي الظَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اٹ گیا پیالا تاریخی میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ قَرِيشًا بِرُؤْيَا الْعِيرِ وَأَيْنَ بَاتَ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی قریش کو (شب اسراء) ان کا قافلہ دیکھنے کی اور جہاں اس نے رات گزاری

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ قَرِيْشًا وَاسْتَبَطُوا خَيْرَةً وَمَنْعَ اللَّهِ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى قَدِمَ

قریش کو خبر دی اور انہوں نے اس کو مؤخر جانا اور روک دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو حتیٰ کہ آگیا وہ قافلہ

عَلَيْهِمْ قَبْلَ مُضَى النَّهَارِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَيْهَا بِالْأَبْصَارِ اللَّهُمَّ

ان پر دن چڑھنے سے قبل جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے سر کی آنکھوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے خبر دی

بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِحُلَّةٍ لِأَوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ

اپنے بعض صحابہ کو اور قرابتداروں کو اویس قرنی کے لباس کی اور شفاعت کرنے کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَ السَّيِّدِينَ أَشْعَلَ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدًا مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی سیدین (عمر و علی رضی اللہ عنہما) کو کہ (اویس) روشن آنکھوں والے اور چوڑے کندھوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس لگائے ہوئے ہونگے

ضَارِبٌ بِذَقِينَةٍ إِلَى صَدْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی بھڑی کو سینہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ رَأْمَ بَصْرَةَ إِلَى مَوْضِعِ

اور ان کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ وہ اپنی نظروں کو مقام

سُجُودِهِ وَوَضَعُ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سجود پر لگائے ہوئے ہوں گے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے ہوں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَحْتَ مَنْكَبِهِ الْإِبْرَاقُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس کے بائیں کندھے کے نیچے برص

لَبْعَةٌ بِيضَاءِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کا سفید داغ ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَأَنَّه مُعْتَدِلٌ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْأَدْمَةِ ذُو رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ

پر جس محبوب نے خبر دی کہ اولیس ميانہ قد سخت گندم گول اور رافت و رحمت کے پیکر ہیں

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَأَنَّه يَشْفَعُ فِي كَثِيرٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

خبر دی کہ اولیس اس امت کے بہت سے افراد کی شفاعت کریں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ وَهُوَ كَانَ يَقْرَأُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ وہ

الْقُرْآنَ وَيَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قرآن پڑھتا تھا اور روتا تھا اپنے نفس پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّى ابْنَ أُمِّ الْفَضْلِ الَّتِي جَاءَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے ام الفضل کے بیٹے (عبداللہ) کا نام رکھا ابو الامراء (خلفاء کا باپ) جنکو بکر

بِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَدَتْهُ أَبَا الْأَمْرَاءِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی بارگاہ میں آئی تھیں جبکہ اسے جنم دیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَتَاهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس آئے روح الامین

عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

رب العالمین کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْكَبَهُ الْبَرَّاقُ وَخَرَّقَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ

آپ کی آل پر جنہیں براق نے اپنے اوپر سوار کیا اور جنہوں نے بچھاڑا ساتوں آسمانوں کو

بِبَاشْرَةِ جَمَالِ الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے جلال جمال آمیز کی مدد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زُفَّتْ عَلَيْهِ مُخَدَّرَاتُ الْكُونِينِ

اور آپ کی آل پر جن پر جمع کی گئیں کونین کی مستور اشیاء

وَأَسْرَارِ الْكُونِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور کونین کے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّقَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ الدَّارِينِ وَعُلُومُ

کی آل پر جس محبوب پر روشن ہوئے دارین کے امور اور

الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ثقلین کے علوم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اتَّهَرُ رُؤُوسُ الرُّسُلِ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْأَفْقِ

آل پر جس محبوب کے پاس مرسلین کے سردار سلام پیش کرنے کیلئے حاضر ہوئے جبکہ آپ آسمان

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بالا پر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ أَقْبَلَتْ مُلُوكُ الْأَمْلَاكِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ

پر کہ جس محبوب کی طرف متوجہ ہوئے ملوک کے بادشاہ در آنجا لیکہ دوڑتے تھے ان کے آگے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

دَهْشَتُ بَجْبَالِهِ أَبْصَارُ سَكَّانِ الصَّفِيحِ الْأَسْفَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جن کے جمال سے مدہوش ہو گئیں بلندترین مقام پر رہنے والوں کی آنکھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَشَعَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ٹھک گئیں

لَهَيْبَتِهِ أَعْنَاقُ أَهْلِ السُّرَادِقَاتِ الْأَسْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کی ہیبت کے آگے گردنیں روشن نصیموں والوں کی - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جھک گئے ان کی عزت کے لیے

رَعْوَسُ أَصْحَابِ صَوَامِعِ الثُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نورانی عبادت گاہوں والوں کے سر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَخَّصَتْ لِكِمَالِ مَجْدِهِ أَعْيُنُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بلند ہوئیں ان کے (مشاہدہ جمال) کے لیے

الْكُرُوبِيِّينَ وَالرُّوحَانِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کروبتیین اور روحانیوں کی نگاہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَفَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ صُفُوفًا مِّنْ

اور آپ کی آل پر کہ کھڑے ہوئے جس محبوب کے لیے ملائکہ مقربین سے

الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

صفیں باندھ کر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ابْتَهَجَتْ بِهِ حَظَائِرُ الْقُدْسِ بِأَوَّلِ زَجَلِ الْمَسْبُوحِينَ

پر کہ خوش ہو گئے جن کی بدولت مقدس محفوظ مکانات (عالم بالا کے) تسبیح کہنے والوں کی پہلی گونج سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

إِهْتَرَأَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ طَرِبًا بِرُؤْيَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جھوم اُٹھے عرش اعظم اور کرسی ان کے دیدار کی خوشی سے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تُرِيدُ الْجَنَانَ وَالْحُورِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مزین کیا گیا جنتوں اور خوبصورت حوروں کو

الْحَسَانَ فَرَحًا لِمَقْدَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی تشریف آوری کی خوشی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِهِ افْتَخَرَ الْعُلَىٰ عَلَى النَّبِيِّينَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ فخر کیا بلندیوں نے پستیوں پر بسبب

رَأَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان کے دیدار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي انْكَشَفَتِ الْعُلُومُ رِيَّهِ لِعَيْنِ الْمُخْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر کہ منکشف ہوئے علوم بسبب ان کے پسندیدہ لوگوں کی نگاہوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُفِعَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اٹھائے گئے ان کی بدولت

لِصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِهٖ الْأُسْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل انوار پر سے پردے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَقَدَّمَ رِيَّهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ إِلَى دَائِرَةِ وَمَا

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت آگے بڑھے روح الامین اس دائرہ تک " نہیں ہے

مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے معین مقام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ لَهَا أَيُّهَا الْحَبِيبُ الْمُقْرَبُ

اور آل سیدنا محمد پر کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انھیں اے حبیب مقرب

تَهَيَّأ لِمَلَقَاتِ اللَّهِ وَحَدَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تیار ہو جاؤ تہنائی میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَجَّهٖ اللَّهُ فِي السُّورِ وَرَعْنَهُ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا نور میں (انتہا درجہ) اور

التَّاهِي يُقْصِرُ الْمَطَاوِلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انتہاء پر پہنچنے کے بعد کوزناہ معلوم ہوتی ہیں درازقا متوں کی طول نیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْتَهَىٰ مَسْرَاةَ إِلَىٰ مُسْتَوَىٰ يَسْمَعُ

اور آل سیدنا محمد پر جن کا معراج ختم ہوا اس مقام استواء پر کہ سنتے تھے

فِيهِ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس میں کاتبان تقدیر کے قلموں کی آواز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَارِعًا عَلَىٰ رَفْرِفِ الثُّورِ إِلَىٰ أَفْقِ الْأَعْلَىٰ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے سیر فرمائی نورانی روفرف پر افق اعلیٰ تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَارِعًا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے پرواز کی

بِجَنَاحِ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ مَقَامِ دَنِي فَتَدَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اشواق کے پروں کے ساتھ دنیٰ تددلی کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْزَلَهُ فِي مَضِيفِ الْكَرَمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے مہمان خانہ میں

فِي رَوْضَةِ قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قاب قوسین کے سبزہ زار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَسَطَ لَهُ فَرَّاشَ الدُّنُوفِ رَاشٍ أَوْ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے بچھایا بچھانے والے نے بچھونا اُو اُوئی کے

أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

قرب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيعِ الْأَعْلَىٰ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

جس محبوب نے سنا رفیق اعلیٰ کی جناب سے "السلام عليك ايها

النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

النبي و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔۔۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَلَقَّاهُ الْحَبِيبُ بِالْإِكْرَامِ وَنَادَاهُ الْكَلِيلُ

اور آپ کی آل پر جن کی ملاقات کی حبیب (اللہ نے عزت کے ساتھ اور نداء دی ان کو رب جلیل

بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نے سلام کے ساتھ۔۔۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ بِسَطِّ مُنْقَبِضِ رَوْعَتِهِ وَأَنْسِ مُنْزِعِ عَجْرٍ وَحُشْتِهِ اللَّهُمَّ

پر کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمایا ان کے منقبض دل کو اور انس عطا کیا ان کے اضطراب و وحشت کو۔۔۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُودِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو نداء دی گئی

بِمَخَاطِبَاتٍ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان خطابات کے ساتھ۔۔۔ پس وحی کی طرف اپنے عبد خاص کے جو وحی کی " لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُوشِفَ بَعَيْنُ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں مکاشفہ کرایا گیا اس آنکھ کے ساتھ

لَقَدْ رَأَاهُ تَزَلَّةً أُخْرَى اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ

"البتہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو دوسری دفعہ اترتے" لے اللہ ان کو قائم فخر و کرامت والے مقام محمود پر اور

أَتَاهُ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الْبَرِّيَّ وَعَدَّاهُ فِي

دے انہیں فضیلت اور مقام وسیلہ اور بلند ترین درجہ موقف عظیم میں جس کا تونے ان کے ساتھ

الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَواتُكَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

وعدہ فرمایا ہے۔۔۔ اور صلوات بھیج لے اللہ ان پر صلوات دائم متصل

تَتَوَالِي وَتُدْرِمُ وَيَلْغُهُ سَلَامًا فِي سَلَامِكَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

جو لگاتار اور مسلسل ہو اور پہنچا انہیں ہمارا سلام اپنے سلام میں اور ہماری صلوات اپنی صلوات میں

اللَّهُمَّ وَآتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ

اے اللہ اور عطا فرما انہیں فضیلت و وسیلہ اور شفاعت اور قائم فرما انہیں مقام محمود

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ الشَّفِيعَ الْمُرْتَضَى وَالرَّسُولَ الْمَحْتَبَى اللَّهُمَّ

میں جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اس شفیع مرتضیٰ اور رسول محتبے کو۔ اے اللہ

سَبِّقِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا وَالْبَرَكَاتِ وَالسَّلَامَ وَالرِّفْعَةَ وَالْعِزَّ وَالْإِسْنَاءَ

جلدی پہنچا تمام صلوات۔ برکات۔ سلام۔ رفعت اور عزت و سر بلندیاں

وَالشَّرَفَ وَالْكَرَامَةَ كُلَّهَا إِلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور شرف و کرامت تمام کی تمام سیدنا محمد کی قبر انور تک۔ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ آتِهِ نَهَايَةَ

وسلم و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اے اللہ عطا فرما انہیں ان مطالب کی

مَا يُسْأَلُهُ السَّائِلُونَ وَمَا يَرْغَبُ بِهِ الرَّاعِبُونَ أَفْضَلَ وَأَطْيَبَ

انتہاء جن کا سوال کرتے ہیں سائل۔ اور جن کی رغبت رکھتے ہیں رغبت والے در آنجا لیکہ وہ بہت افضل پاکیزہ

وَأَنْزِلْهُ وَأَنْزِلْهُ وَأَعْلَى وَأَقْرَبَ وَأَكْمَلَ مَا أُعْطِيَ أَحَدًا مِمَّنْ

مصنفا تر اور بہت افزوں اور اعلیٰ اور قریب تر اور کامل تر ہیں ان تمام مطالب و مقامات کے جو تو نے عطا کئے

خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی تمام مخلوق میں سے کسی فرد کو۔ اے اللہ قبول فرما ہمارے نبی سیدنا محمد کی

الْكِبْرَى وَيَلْغُهُ بِنَظَرِكَ إِلَيْهِ نَهَايَةَ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ بَلِّغْ رُوحَهُ

شفاعت کبریٰ اور پہنچا انہیں نظر عنایت سے بشارت کی انتہاء تک۔ اے اللہ پہنچا ان کی روح

الطَّاهِرَةَ مِمَّا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَ

مقدسہ کو ہماری طرف سے افضل ترین صلوات و تسبیحات اور انہیں جزا دے ہماری طرف سے افضل ترین اور

أَكْمَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْحَبِيبِ

کامل ترین جزا ان تمام جزاؤں سے جو تو نے کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دیں۔ اے اللہ اے حبیب محمد کے رب

مُحَمَّدٍ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ الْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ

صلوٰۃ و سلام بھیج حبیب محمد پر جیسے کہ تم محبوب رکھتا ہے حبیب محمد کو

يَا رَبِّ يَلِّغْ سَلَامِي ذَاتِهَا عَلَى الْمُصْطَفَى النَّقِيِّ وَرَبِّ

اے اللہ پہنچا میرا سلام ہمیشہ مصطفیٰ مصطفیٰ تقی و نقی کو اور اے

رَبِّ يَلِّغْ سَلَامَنَا عَلَى الدَّوَامِ بِالْإِكْرَامِ عَلَى شَفِيعِ الْبِرِّ يَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا

پروردگار پہنچا ہمارے سلام ہمیشہ عزت و اکرام کے ساتھ سب مخلوقات کے شفیع پر اور ہماری

بِالْخَطَايَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِي لِمَحْمُودِكَ الْمُتَّقِي وَسَلَّمَ

نحواؤں پر مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ میری صلوات کا ثواب محقق فرما اپنے قابل ستائش پاکیزہ رسول کے لیے اور سلام بھیج

عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ التَّقَى اللَّهُمَّ فَضِّلْ مِنَّا عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ

ان پر اور ان کی متقی آل پر۔ اے اللہ پس تو ہی صلوات و سلام بھیج ہماری طرف ان پر افضل ترین صلوات

وَإِكْمَلِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ قُدْرَةَ الْعَظِيمِ وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنْ

اور کامل ترین تسلیمات کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی عظیم قدر و منزلت کا اور ہم نہیں جانتے ان کے شایان شان

الْإِحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنِ مَحَبَّةً وَفِي الْمُقَرَّبِينَ نُوْدَةً

احترام اور تعظیم کو۔ اے اللہ بنا اہل اصطفاء میں محبت ان کی اور اہل قرب میں مودت ان کی

وَفِي الْأَعْلَى ذِكْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اہل علویں ذکر ان کا۔ اور سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرْوُهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کی رونق اور سترت کی عروس

بِهَجَّتِهِ وَسُرُورًا عَلَى سُقْفِ عُرْفَاتِ النَّعِيمِ وَقُصُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنتی نعمتوں والے بالا خانوں اور علات کی چھتوں پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرْوُهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کے انوکھے محاسن کی عروس

مَحَاسِنِهِ الْبِدِيعَةِ عَلَى مَبَانِي رُتَبَتِهِ الرَّفِيعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کے رتبہ عالیہ کی عمارات پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ فَرْكَبِهِ الْوَجِيه

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئے ان کی آبرومند سواری کی عروس

عَلَىٰ مَجَلَا التَّنْزِيهِ وَالتَّنْزِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تغظیم و تنزیہ کی جلوہ گاہ پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَرْكَبِهِ وَزَانَ فِي مِيدَانِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس مرکب جلوہ گر ہوا اور زینت پاگیا مسابقت کے میدان میں

الْمُسَابَقَةِ إِلَىٰ حَضْرَةِ الْمَلِكِ الدِّيَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جزا دینے والے بادشاہ کی بارگاہ کی طرف۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ رِسَالَتِهِ عَلَىٰ الْكُونِينِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس رسالت جلوہ نغمن ہوا کونین پر

وَأَدْمُرَبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جبکہ آدم علیہ السلام تھے پانی اور بچھڑ کے درمیان۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ وَصَالِهِ وَأَسْتَوْلَىٰ يَوْمَ السُّتِ

آل پر کہ جن کا عروس وصال جلوہ نغمن ہوا اور غالب آگیا "روز الست کے موجودین پر" جبکہ اللہ نے فرمایا کیا نہیں میں

بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رب تمہارا، تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں! لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ عِزَّةِ الْبَيْتَيْنِ عَلَىٰ مَعَالِي قُصُورِ أَهْلِ عِلِّيِّينَ

آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی پائیدار عزت کا عروس اہل علیین کے محلات کی بلندیوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نغمن ہوا ان کے

عَرُوسٌ مَظَاهِرُ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَى عُرَافِقِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مظاہر انسانیہ کا عروس عنایت ربانیہ کے آفاق کی پیشانیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ مَعَالِيهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نگن ہوا ان کے مقام معالم و نشانات کا عروس

الْمَعْتَادَةِ عَلَى مَرَائِبِ الْبُيُوتِ أَهْلِ السَّعَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اہل سعادت کے پرچموں کے مراکز پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ سَعُودَةً وَشُهُودَةً

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی سعادت اور مشاہدہ حقیقت کا عروس جلوہ نگن ہوا

وَهُوَ فِي ظُهُورِ آبَائِهِ وَجَدُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جیکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اصلاہ میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ ظُهُورِهِ وَفَشَا عَلَى نَمَارِقِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کا عروس ظہور جلوہ گر اور آشکار ہوا اختصا ص کے گدوں اور قالینوں پر

التَّخْصِيصِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَى الْمِعْرَاجَ بِجِسْمِهِ وَفَضَّلَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر گئے اپنے جسم اقدس کے ساتھ اور فضیلت دی ان کو

اللَّهُ فِي غَيْبِ سَابِقِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب ازل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فَضِيلَةٌ إِلَّا سَبَقَ إِلَيْهَا وَلَمْ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب ہر فضیلت کی طرف سبقت لے گئے اور نہیں تھا

تَكُنْ مَرْتَبَةٌ شَامِخَةٌ وَلَا مَنَزَلَةٌ فَآخِرَةٌ إِلَّا جَلَّ عَرُوسٌ مَحْيَاةً

کوئی بلند مرتبہ اور نہ قابل فخر منزلت مگر جلوہ گر ہوا ان کی شرم و حیا کا عروس

عَلَيْهَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس پر لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو

الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

مخاطب اللہ عزوجل کے اس فرمان کے "اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے

بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشیر اور نذیر بنا کر" لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَادَ عِنَانَ التَّدْوِي وَسَادَةَ وَقَلْدَةَ اللَّهِ قَلَادَةً

کہ جس محبوب نے کھینچی باگ مجلس مشاورت کی اور اس کے سردار بنے اور پہنائے انیس اللہ تعالیٰ نے

التَّخْصِيصِ وَزَادَهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اختصاص کے ہار اور ان کو فرقیّت دی۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیتا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَتْ لَهُ وَسَادَةَ التَّكْرِيمِ عِنْدَ

ان کی آل پر کہ جن کے لیے رکھا گیا تمکبہ عزت و تکریم کا ان کے تشریف لانے پر

وَرُودِهِ وَطَلَعَ شُعَاعُ سَجْفِ الْهُودِجِ مِنْ مَّطَالِعِ وَجُودِهِ اللَّهُمَّ

اور طلوع ہوئی شعاع محل کے پردوں کی ان کے وجود مسود کے مطالع سے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَمَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهُ وَمَشَى عَلَى

بلند ہوئے تمام آسمانوں پر جبکہ ملائکہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے اور چلے اللہ تعالیٰ کے

مَظَاهِرِ عَرْشِ اللَّهِ وَالْحُجُبُ تُحْرَقُ دُونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

عرش کے مظاہر پر اور حجابات ان کے آگے سے پھاڑے جا رہے تھے۔ لے اللہ صلوات اور

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَّعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی صفوں والے ملائکہ جن کی تشریف آوری کی

مُبَشِّرَاتٌ يُقَدُّوْمِهِ وَأَفَادَ مَسْرَاةً مَنْ مَا شَاءَ بِدَقَائِقِ حُجُورِهِ

بشارت دینے والے تھے اور فیضان بختا ان کے اسراء نے ان کے ساتھ چلنے والوں کو ان کے علمی سمندروں کے دقائق کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي وَهَبَ إِهَابَ الْهَيْبَةِ وَأَدِيرَتُ عَلَيْهِ كُؤُوسَ الْمَحَبَّةِ

کہ جس محبوب کو ہیبت کی خلعت بشری عطا کی گئی اور ان پر گردش میں لائے گئے محبت کے جام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ممکن ہوئے

اسْتَوَى عَلَى كُرْسِيِّ الْجَلَالِ مُنْتَبِطًا وَعَلَى أَرَائِكِ الْكِبَالِ مُتَكِيًا

کرسی جلال پر سواری کی مانند اور کمال کی مزین کرسی پر اوٹ لگائے ہوئے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

كُونَ الْكُونَ مِنْ أَجْلِهِ وَجَمِيعُ مَا فِيهِ تَسْتَظِلُّ بِظِلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خاطر جہان بنایا گیا اور اس جہان میں جو کچھ ہے وہ انہیں کے سایہ میں پرورش پاتا ہے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے طے کیا

مَقَارَةَ الدُّنْيَا عَلَى جَوَادِ الْقَنَاعَةِ وَالْجُودِ وَهُوَ خُلَاصَةُ الْجُودِ

دنیا کے بیابان کو قناعت اور جود کے رہوار پر اور وہ خود خلاصہ و جوہر ہیں جو خداوندی کے

فِي الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جملہ موجودات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَقَى إِلَى حَضْرَةِ الْحَقَائِقِ

آل پر کہ جو محبوب بلند ہوئے حضرت حقائق تک کہ نہیں سبقت لے جا سکتا ان پر ان حقائق کی طرف کوئی

سَابِقُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل سبقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْتِعِرْنِي حَدَائِقَ الْقُرْبِ وَالْوُصَالِ وَوَقَفَ عَلَيَّ

جن کو کھلایا اور سیر کیا گیا قرب و وصال کے باغات میں اور جا ٹھہرے نجات

شَاطِئِ النَّجَاةِ وَالْوُصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و وصال کے کنارے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُنُوسَ الْمَعْرِفَةِ

اور آپ کی آل پر کہ جن پر گردش میں لایا اللہ تعالیٰ معرفت کے جام

وَمَرَقَاتِهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى مَقَامٍ يَجْلُسُ عَنِ التَّكْيِيفِ وَالصِّفَةِ اللَّهُمَّ

اور بندی بخشی ان کو ایسے مقام تک جس کی کیفیت و حالت بیان سے باہر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں

عَلَيْهِ اللَّهُ جَوَاهِرَ الْعُلُومِ فِي الْحَضْرَةِ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَلَى بَسَاطِ

اللہ تعالیٰ نے سکھائے جو اہر علوم اپنی بارگاہ میں اور کلام کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد

الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ فَالْقَادِرُ هُوَ الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ

اور قوت برداشت کے مطابق۔ اے اللہ تو ہی صاحب قدرت ہے پس حقیقی صاحب قدرت وہی قادر ہے اور اسکی

الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ قُدْرَةٌ وَفِي الْقُدْرَةِ قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ

قدرت قادر ہے اور اس کی قدرت ہی حقیقی قدرت ہے اور اس کی قدرت میں ہی قدرت ہے اور اس کی تقدیریں

قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ قُدْرَةٌ قَادِرٌ رَبِّي قَدَّرَ قَضَاءَ فَقَهْرٍ

قدرت ہے اور تمام تقدیرات میں قادر کی قدرت (مؤثر) ہے جو میرا رب ہے۔ اس نے نزل فیصلے خاص انداز پر کئے

أَقُولُ بِأَقْرَبِ قَارِمَةٍ قَرَقُشٍ فِي قَيْقُوشٍ بِحَقِّ قَلَانِسٍ

الْقُطْبِ الْقَبْقَامِ الْقَنَامِ فَقَرِّبِي تَقْبِلُ بِقُبُولِ قُرْبٍ قَدَسِ

ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور

عَنِ الْقَرَامِ قِيَا قِيَوْمٍ بِقَوْمِهِا فِي قِيَا تِ بِقُنْفَقَةٍ فَقُنْفَقَةٍ فَقَهْرُ

صاحب تصنیف ہی جانتا ہے۔

فِطَاطِنُ وَقَسِمِ فَقُنْفَقَةٍ يَا قَوِيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ لَهُ الْبَابَ وَرَفَعَ عَنْهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے اللہ نے اپنے (حرمِ نازکا) دروازہ کھولا اور ان سے

الْحِجَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

حجاب اٹھا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْتَرَقَ الْاُفَاقَ عَلَي مَثْنِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس محبوب نے پھاڑا اور عبور کیا آفاق کو براق پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعِي سَبْعَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بلند ہوئے سات

الطَّبَاقِ اِلَىٰ حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

طبقاتِ سماویہ پر تا آنکہ واصل ہوئے شہنشاہِ خلاق کی بارگاہِ ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارِبَهُ جِبْرِيلُ اِلَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لے گئے جبریل علیہ السلام بارگاہِ رضا

حَضْرَةِ الرِّضَا وَتَتَرَكُهُ فِي الرِّيَاضِ الدُّرَّةِ الْبَيْضَةِ اِلَيْهِمْ

ملک اور جنہوں نے سیر فرمائی سفید چمکتے موتی جیسے باغات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو

أَيْقَظَهُ جَبْرِيْلُ مِنْ مَنَامِهِ وَحَمَلَهُ إِلَى مَحَلِّ تَعْظِيمِهِ وَإِكْرَامِهِ

بیدار کیا جبریل نے خوابِ نریشیں سے اور اٹھا کر لے گیا انہیں ان کی عظمت و کرامت کے مقام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ محبوب

الَّذِي لَمَّا جَمَعَ الْبُرَاقُ عِنْدَ رُكُوبِهِ عَلَيْهِ نَادَا أَلَا جَبْرِيْلُ

کہ جب سرکشی کی براق نے ان کے سوار ہوتے وقت تو جبریل نے اس کو کہا

أَسْكُنْ فَمَا رَكِبَكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَعَزُّ مِنْهُ لَدَيْهِ

سکون سے کام لے کیونکہ نہیں سوار ہوا تجھ پر ان جیسا عزیز والا نزدیک اللہ تعالیٰ کے اور ان جیسا عزیز اس کی بارگاہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ان کی وجہ سے

أَرْفَضَ الْبُرَاقُ مِنْهُ عُرْقًا وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ حَيَاءً وَفَرَقًا

براق کا پسینہ چھوٹ گیا اور لرزنے لگے اس کے اعضاء از روئے شرمندگی اور خوف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَارَ بِهِ الْبُرَاقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَطَعَهُمَا بِالطُّوْلِ

کہ جنہیں لے چلا براق درمیان آسمان اور زمین کے اور طے کیا اس نے دونوں کو

وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

طول اور عرض میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَخَرَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ بِمَسِيرَةِ

آل پر کہ مخز کیا ارض مقدسہ نے ساتھ ان کے اس کی طرف تشریف لے جانے

إِلَيْهَا وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِوُطْئِهِ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی وجہ سے اور جگمگا اٹھی وہ زمین آپ کے پائے ناز رکھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مشرف فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الْبَعْرَاجَ بِرُقِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَكَرَّمَ اللَّهُ الْبَرَّاقَ بِدُنُوبِهِ مِنْهُ وَنَظَرَهُ إِلَى الْبَيْتِ

معراج رنورانی بیڑھی، کو ان کے اس پر چڑھنے سے اور عزت بخشی براق کو آپ کے اس سے قریب ہونے اور نگاہ کریم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرمانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي آيَنَعَ غُصْنٌ وَصَالِهٌ وَرَاقٌ وَاخْتَرَقَ بِهِ الْبَرَّاقُ مَسَاحَةَ

کہ پھلدار ہوئی ان کی شاخ وصل اور خوش منظر اور عبور کیا آپ کی وجہ سے براق نے آفاق کی

الْأَفَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مسافت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ بِهَيْجَةِ الْإِبْتِهَاجِ وَرَفَّاهُ اللَّهُ مَعَالِمَ

اللہ تعالیٰ نے پہنائی انہیں سترت و فرحت کی خلعت اور بلند فرمایا ان کو معراج کے بلند کنارے

قُنَّةِ الْبَعْرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے معالم تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ لَهُ خَازِنَ السَّمَاءِ الْبَابَ وَلَئِنْ لَمْ

کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے آسمان کے نگران فرشتہ نے دروازہ کھولا اور نرم و نیاز مندانه انداز میں

فِي الْخَطَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گفتگو کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَّاهُ كُلُّ خَازِنٍ مِّنْ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ بِأَلْفِ نَزِيلٍ

سلام پیش کیا تمام آسمانوں کے نگران ملائکہ میں سے ہر ایک نے پاکیزگی

وَالْتَبَجِيلِ وَقَابَلَهُ بِالتَّرْحِيْبِ وَالتَّقْبِيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تنظیم کے ساتھ اور پیش آئے انہیں مرحبا کہتے اور دست بوسی کرتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

فراستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے (یہ قول)

وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْبَيِّنِ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْبَيِّنِ اللَّهُمَّ

اپنی کتاب میں "البیتہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو افقِ مبین پر۔" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے کھولے

لَهُ السَّمَوَاتُ بِأَبَابِهَا وَأَخْتَرَقَ حِجْبَ الْعِزَّةِ حِجَابًا حِجَابًا اللَّهُمَّ

تمام آسمانوں کے دروازے یکے بعد دیگرے اور عبور کئے حجاباتِ عزت یکے بعد دیگرے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے آگے

جَبْرِيلُ يَسِيرُ أَمَامَهُ وَالْمَلَائِكَةُ خَلْفَهُ وَقَدْ أَمَهُ وَكَانَتْ الْمَلَائِكَةُ

چلتے تھے جبرئیل اور دوسرے ملائکہ پیچھے اور آگے تھے (بطور سپاہیوں کے) اور ملائکہ ان کو اپنے جلو میں لیے

تَحْفَهُ وَالْبَشَائِرُ تَرْفُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہوئے تھے اور بشارتیں ان کا احاطہ کئے ہوئے تھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّرْحِيبِ وَ

آپ کی آل پر جن کی ملاقات کی ملائکہ نے مرحبا کہتے ہوئے اور

بَشَّرَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بِالْحِلِّ الرَّحِيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بشارت دی انبیاء نے کفارہ مقام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْمَلَائِكَةُ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ملائکہ جن کے گرد

حَوْلَهُ صَافُونَ وَبِهِ حَافُونَ وَبِقَدْرِهِ عَارِفُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مغفیل باندھے ہوئے تھے اور ان کو اپنے جلو میں لیے ہوئے تھے اور ان کی قدر کو پہچانتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى حَفَّتْ بِهٖ

وسلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ گھیرا طولا ان کے گرد

الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ الْمَتَوَجِّهُ اِلَى سِتْرِ الْجَلَالِ الْمُدْبِحَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

ملائکہ نے جبکہ وہ متوجہ تھے پردہ جلال کی طرف " سر جھکائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَلَّمَ عَلَيْهِ اَبُوهُ

سلام فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کو سلام پیش کیا ان کے باپ

اَدَمُ وَجَدَّادٌ مَعَهُ حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ تَقَادِمٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آدم علیہ السلام نے اور تازہ کیا ان کے ساتھ عہد قدیم کی گفتگو کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَاَلَهُ اَدَمُ عَنْ حَالِهٖ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن سے دریافت کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حال اور

وَبَشْرَةَ بَنِي اٰدَمَ وَصَالِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

بشارت دی انہیں وصل خداوندی کے حصول کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَرَّ اَدَمُ بِرُؤْيَيْهِ وَاسْتَبَشَرَ بِاشْرَاقِ طَلْعَتِهٖ

آپ کی آل پر کہ جن کے دیدار سے مسرور ہوئے آدم علیہ السلام اور خوش و خرم ہوئے ان کی طلعت زیبکے انوار

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

اَنْتَشَرَتْ دُرَّرَ الْفَاظِهٖ فَالْتَقَطَهَا الْمَلَائِكَةُ عُلُوْمًا وَّ اَنْتَظَمْتِ

الفاظ کے موتی بھرے تو انہیں ملائکہ نے چن لیا از روئے علوم و اسرار کے اور مرتب ہوئے

قَوَائِدُهَا فَتَزَيَّنَتْ بِهٖ السَّمَاوُ نُجُوْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان کے قواعد تو مزین ہوئے آسمان ساتھ ان کے از روئے ستاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى صَعَدَ يَخْتَرِقُ الْحُجُبَ وَسَبَّحَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو بلند ہوئے حجابات عظمت کو عبور کرتے ہوئے سبقت لے گئے

بِصُعُودِهِ الْبُرُقِ وَالسُّحُبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایسی بلند پروازی کی وجہ سے برق اور سحاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُبَجِّلُهُ وَالْمُنَادِي

اور آپ کی آل پر کہ ملائکہ جن کی تعظیم کرتے تھے اور ندا دینے والا

يُنَادِي هَذَا الَّذِي شَقَّ لَهُ قَهْرُ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پکار کر کہتا تھا یہی ہیں وہ جن کے لیے ترڑا گیا آسمان کا چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى لِبَطَالَعَةِ الْأَنْوَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے سیر فرمائی انوار النبیہ کے مطالعہ کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ النَّهَارِ اللَّهُمَّ

شب السراہ چلے اور نداء دینے والا پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہی ہیں جن کے لیے سورج لوٹا یا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے سیر فرمائی

إِلَىٰ حَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بارگاہ ذوالجلال و الاکرام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی اور منادی حق اعلان کر رہا تھا

هَذَا خَيْرُ الْأُمَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

یہی ہیں سب امتوں کے سردار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ أَرْفَعِ مَكَانٍ وَمَقَامٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی بلند ترین مکان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا عَدُوْسُ دَائِرَةِ السَّلَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي سَرَى إِلَى مَحَلِّ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْمُنَادِي

يُنَادِي هَذَا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ خَصَّكَ

اللَّهُ بِرُؤْيَاةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

خَيْرٌ مَنْ تَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَصْطَفَاهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ



مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم منزلت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کرتا تھا کہ

هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا مقام قرب میں کمان کے دو کناروں کی مقدار

أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

آل پر کہ جس محبوب کے معراج پر منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں کہ

الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدْمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور لچھڑ میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب مصداق ہیں

بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا " اللہ وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو ہدایت اور

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ط

دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ

وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا أَبَدًا إِلَى

محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہمیشہ اور لا تعداد تا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ

قیام قیامت۔ اے اللہ بے شک تو سنتا ہے میرا کلام اور دیکھتا ہے میرا مکان اور جانتا ہے

سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ

میرا باطن اور ظاہر۔ نہیں مخفی تجھ پر کوئی شئی میرے معاملات سے۔ میں مصیبت زدہ محتاج اور

الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمَسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمَشْفِقُ الْمِقْرُ الْمَعْتَرِفُ

فربادی ہوں۔ پناہ کا طلب گار ہوں۔ خوفزدہ۔ ڈرنے والا ہوں۔ اقراری اور معترف ہوں

بِذَنْبِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمَسَاكِينِ وَأَبْتِهَلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُنْذِبِ

اپنے گناہوں کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مانند مساکین کے اور زاری کرتا تیری طرف مانند زاری کرنے والا گناہگار

الذَّلِيلُ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ

ذلیل کے اور دعا کرتا ہوں تجھ سے مانند دعا کرنے خوفزدہ اور آفت زدہ کے اور مانند دعا اس

خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلِكَ لَكَ جِسْمُهُ

شخص کے کہ جھکی ہے اس کی گردن تیرے لیے اور ابل پڑے ہیں آنسو اس کے تیرے لیے اور مطیع فرمان ہوا اس کا جسم

وَرَعْمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِي

تیرے لیے اور خاک آلود ہوا اس کا ناک تیرے لیے۔ اے اللہ مجھے نہ بنا اپنی دعا میں بد بخت محروم اور ہو میرے حق میں

رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ اللَّهُمَّ لَكَ

رہم و رحیم۔ اے بہتر سب سوال کئے ہوؤں سے اور بہتر سب عطا کرنے والوں سے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَجِيأِي وَمَهَابَتِي وَإِلَيْكَ مَا بِي وَكَانَ رَبُّ تَرَاتِي

بے میری نماز اور قربانی اور میری زندگی اور موت اور تیری طرف ہے میرا رجوع۔ اور تیرے ہی ملک میں ہے اے رب

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهُوَ إِنْ عَلِي

میری وراثت۔ اے اللہ تیری طرف ہی شکایت کرتا ہوں اپنی ناتوانی کی اور اسباب کی قلت اور لوگوں کے ہاں بے قدری

النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ إِلَى مَنْ تَكَلَّمِي إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّنِي أَمْرًا إِلَى

کی۔ اے رب تمام لوگوں کے مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس دشمن کے جو مجھ پر اچانک حملہ آور ہو یا طرف

قَرِيبٌ مُّلكَتَهُ اَمْرِي اِنْ لَّمْ تُكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي غَيْرَ اَنْ

اس قریبی کے جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے؛ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان کی پروا نہیں مگر یہ کہ تیری

عَافِيَتِكَ اَوْ سَعُرِي اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَعْظَمُ شُكْرِكَ وَاكْثَرُ ذِكْرِكَ

عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ مجھے اس طرح بنا کہ تیرا شکر زیادہ کروں اور تیرا ذکر بکثرت کروں

وَ اَتْبِعْ نَصِيْحَتِكَ وَاَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَ

تیری نصیحت پر عمل پیرا ہوں اور تیری وصیت کو نگاہ میں رکھوں۔ اے اللہ بے شک ہمارے دل اور

نَوَاصِيْنَا وَجَوَ اِرْحَانِيْنَا لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذْ فَعَلْتَ

پیشانیوں اور جملہ اعضاء تیرے دست قدرت میں ہیں تو نے ان میں سے کسی کا ہمیں مالک نہیں بنا یا پس جب تو نے کیا

ذٰلِكَ بِنَا فَاكُنْ اَنْتَ وَاِلَيْنَا وَاَهْدِنَا اِلَى سِوَاكَ السَّبِيْلُ اَللّٰهُمَّ

ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو خود ہمارا متولی امور ہو اور ہمیں گامزن فرما سیدھی راہ پر۔ اے اللہ

اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَمَا نِيْ اَسْرَاكَ اَيْدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِيْ

مجھے بنا دے اس طرح کہ ڈروں تجھ سے گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہوں (بیرحال) ہمیشہ برقرار ہو یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اور مجھے سعادت مند

بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَّتِكَ وَاَرْضِنِيْ فِيْ قَضَائِكَ وَبَارِكْ

بنا تقویٰ کے ساتھ اور بد بخت نہ بنا اپنی معصیت کے ساتھ مجھے اپنی قضاء پر راضی فرما اور میرے لیے برکت دے

لِيْ فِيْ قَدْرِكَ حَتّٰى لَا اُحِبُّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تاخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

اپنی تقدیر میں حتیٰ کہ میں نہ پسند کروں اس امر کی تعجیل جسے تو نے مؤخر کیا اور نہ اس کی تاخیر جسے تو نے جلد موجود

وَاجْعَلْ غَنَائِيْ فِيْ نَفْسِيْ اَللّٰهُمَّ الطُّفُّ بِيْ فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ

کیا اور پیدا فرما استغناء میرے دل میں۔ اے اللہ ططف فرما مجھ پر ہر مشکل کو آسان

عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَاَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَ

فرمانے میں۔ کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنا تجھ پر سہل ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے سہولت اور

المُعَافَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اَعْفُ عَنِّيْ فَاِنَّكَ عَفُوٌّ

عفو و درگزر کا دُنیا و آخرت میں۔ اے اللہ مجھ سے درگزر فرما بے شک تو درگزر فرمانے والا

كِرِيمٌ وَأَسْأَلُكَ بِمَكُونَاتِ مَحْرُوسَاتِ رَحْمَتِكَ وَبِلَدَائِمِ رَأْفَتِكَ

کریم ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے پوشیدہ محفوظ خزانوں کے طفیل اور تیری رأفت کے انوار کے صدقہ میں

وَبِجَلَالِ عَظِيمِ نِعْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيَّ مِحْطًا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيَّ

اور تیری عظیم نعمتوں کی جلالت کے توسل سے کہ تو میرے علم کو محیط بنا دے ہر چیز پر ظاہری

وَبِاطْنِهِ وَرَفِيعِهِ وَجَلِيلِهِ أَوَّلِهِ وَأَخْرَجَهُ فَاتِحَتِهِ وَعَاقِبَتِهِ حَتَّى

اور باطنی پر رفیع اور جلیل پر اول و آخر پر اور آغاز و انجام پر حتی کہ میں

أَغْرَقَ فِي إِبْسَاطِ أَسْرَارِ وَحْدَتِكَ وَأَنْتِشَارِ دَقَائِقِ فَضْلِكَ

مستغرق ہو جاؤں تیرے اسرار وحدت کے پھیلاؤ اور تیرے دقائق فضل کی وسعتوں میں

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ الْحَقَائِقِ

بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما حقائق غیبیہ کے نور پر

الْغَيْبِيَّةِ الْمُسْتَكْنَةِ فِي وَحْدَةِ الذَّاتِ الْوَحْدَانِيَّ وَسِرِّ الدَّائِمِ

جو مستور ہیں ذات وحدانی کی وحدت میں اور موجودات غیبیہ کے

الْعَيْنِيَّةِ الْبَارِزَةِ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْكُونِيَّ الْخَاقَانِيَّ مُحْكَمِ

سر حقیقت میں جو ظہور پذیر ہیں وجود خارجی خاقانی کے مراتب میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں

الشَّافِي لِمَرْضَانَا وَالْهَادِي لِمَنْ ضَلَّ مَنَّا حَبِيبَ الْخَالِقِينَ

جو شفا بخشنے والے ہیں ہمارے مریضوں کو اور ہدایت دینے والے ہیں ہمارے گمراہوں کو جو حبیب ہیں خالق اور

الْخَلْقِ وَأَسْطَةَ الْإِرْتِبَاطِ بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَرَازِقَةَ

مخلوق کے، ذریعہ ربط ہیں ذات و صفات کے درمیان اور رابطہ اتصال و اتحاد

الْإِلْتِيَامِ بَيْنَ الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ مِنْ تَدَبُّرِ رَحْمَتِكَ

ہیں درمیان صفات اور افعال کے وہ ذات اقدس کہ ممتاز و نمایاں ہوئے ان کی حقیقت عالیہ کے طفیل

بَطُونِ الْأَحَدِيَّةِ عَنْ ظُهُورِ الْوَاحِدِيَّةِ وَتَفَرُّدِ الرَّحْمَةِ

احدیت کے بطون و اسرار وحدت کے آشکارا اور نمایاں آثار سے اور مفرد ہوا ان کے محیط اور شامل ظل رحمت کے طفیل

الْوَجُوبُ عَنِ الْإِمْكَانِ كَهَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ

وجوب امکان سے۔ انہیں کے ذریعے انسانیت کامل ہوئی اور انہیں کی بدولت رحمانیت باری کا

الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نَزُولُهُ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَوْلَا عُرُوجُهُ لَمَا اتَّخَذَ

ظہور ہوا۔ اگر ان کا نزول (عالم عناصر کی طرف) نہ ہوتا تو وحدت کثرت میں تبدیل نہ ہوتی اور اگر ان کا عروج نہ ہوتا تو کثرت میں

الْمُتَعَدِّدُ الْوَاحِدُ حَقِيقَتُهُ وَالْمُتَعَدِّدُ صَوْرَتُهُ وَهُوَ الْفَاعِلُ

وحدت کی جلوہ گری نہ ہوتی۔ واحد ہے حقیقت ان کی اور متعدد ہیں صورتیں اور امثال ان کی وہ فاعل و مؤثر بھی

الْمُنْفَعِلُ وَالْمُتَرَقِّي الْمُنَزَّلُ أَدْمُومَنْ بَعْدَهُ نُؤَابَهُ وَصُورُ

ہیں اور منفعل و متاثر بھی، صاحب ارتقار و عروج بھی اور صاحب تنزل بھی حضرت آدم اور بعد والے انبیاء و رسل بھی ان کے نائب ہیں اور

ظَلَالِهِ وَجِبْرِيلُ وَمَنْ تَحْتَهُ أَتْبَاعُهُ وَشُعَاعَاتُ شَمْسٍ جَمَالِهِ

ان کے ظل و عکس جبریل اور ان کے ماتحت ملائکہ بھی ان کے تابعدار ہیں اور ان کے آفتاب جمال کی شامیں ہیں

النُّورِ الْقُدْسِيِّ الْمُبْتَشِعِ فِي الظَّلَالِ وَالْكَمَالِ الْإِلَهِيِّ وَالظَّاهِرِ فِي

وہ نور قدسی ہیں جو ضلالتوں سے ظلال اور کمال الہی میں اور ظہور فرماتے

الْجَلَالِ وَالْجَبَالِ الَّذِي هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَسِرُّ الْأَسْرَارِ

جلال و جمال میں وہ نور الانوار ہیں اور ستر الاسرار ان

سِرِّيَّتُهُ فَوْقَ نُورِيَّتِهِ وَنُورِيَّتُهُ فَوْقَ سِرِّيَّتِهِ نُورٌ بِمَا هُوَ

کا سر و باطن ان کی نورانیت سے زائد ہے اور نورانیت سر و باطن سے زائد نور ہے

سِرٌّ وَسِرٌّ بِمَا هُوَ نُورٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَيْكَ فِي أَنْ

سر اور مخفی ہونے کے اور سر و باطن ہیں مع نور و ظہور کے۔ اے اللہ میں ان کے ساتھ توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں

تَشْفِيَّتِي وَتُصَحِّحَتِي وَتُقَوِّبِتِي وَتَجْعَلِنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ وَتُثَبِّتِنِي

کہ تو مجھے شفا اور تندرستی عطا کرے اور توانائی دے اور طویل العمر بنائے اور ثابت قدم رکھے

عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْبَحْبَةِ وَالْبَعْرِفَةِ وَتُوصِلِنِي

اہل سنت و الجماعت کے طریقہ پر اور محنت و معرفت کے طریقہ پر اور مجھے واصل فرمائے

إِلَى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ الْكَامِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

کامل مردوں کے مراتب تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اور برکات دے

الْمُحِبُّوْبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ أَنْ يُحِبَّهُ أَحَدٌ أَوْ يَعْرِفَهُ أَحَدٌ كَمَا

اس محبوب پر جو اس سے مقدس و بالاتر ہیں کہ کوئی ان سے (مکافئہ) محبت کرے یا ان کی معرفت حاصل کرے

يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيزِ الْأَعْلَى إِلَّا أَنْتَ فَهُوَ خَاصُّكَ وَفَخُصُوصُكَ

جیسے کہ ان کے شان والا کے لائق ہے سوائے تیرے پس وہ تیرے خاص اور مخصوص ہیں

كَمَا أَنْتَ لَا يَعْرِفُكَ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ

جیسے کہ تجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم پس تو

بِعَنَائِكَ الْخَاصَّةِ خَاصَّةً وَمَخُصُوصَةً اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهُوَ

اپنی عنایات خاصہ کی وجہ سے ان کا خاص اور مخصوص ہے۔ اے اللہ تو ہے اور وہ ہے اور

لَيْسَ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِكَ

نہیں درمیان تیرے اور ان کے کوئی واسطہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے نور مقدس

الْمُنَزَّهَةِ الْمَشْبَهَةِ وَسِرِّكَ الْمُقَدَّسِ الْبَصُورِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ وَ

پر جو نوع انسانی کے (مشابہ ہیں اور اپنے سر مقدس پر جو متصور و متشکل ہیں (شکل بشری میں) اے اللہ ان کی عزت کا

بِحُرْمَةٍ مَنِ اتَّبَعَهُ إِشْفَى شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا وَاجْعَلْنِي قَوِيًّا

صدقہ اور ان کے متبعین کی حرمت کے طفیل مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور مجھے توانا

صَحِيحًا مُعَافًا فِي الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالدِّينِ وَالدُّنْيَا وَطَوَّلْ عُمُرِي

تندرست اور صاحب عافیت بنا بدن و قلب اور دین و دنیا کے لحاظ سے اور میری عمر دراز فرما

وَثَبِّتْنِي عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ

اور مجھے ثابت قدم رکھ محققین کاملین صوفیاء کے طریقہ پر جو کہ

وَرَثَةُ حَبِيبِكَ الْأَصْفَى الْمُجْتَبَى الْمُرْتَضَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وارث ہیں تیرے حبیب اصفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَبِيبِكَ ذَلِكَ النُّورِ الْعَالِي وَالسِّرِّ

وسلم۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حبیب کے طفیل جو نور عالی اور سر متعالی

الْمُتَعَالَى أَنْ تَشْفِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ وَتُصَحِّحَنِي وَتُقَوِّبِنِي

ہیں کہ شفا عطا کرے مجھے تمام امراض سے اور صحت و تقویت عطا فرمائے

وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ

اور مجھے طویل العمر بنائے آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شُعَاعِ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ السَّرْمَدِيَّةِ النُّورِيَّةِ وَنُورِ

صلوٰۃ نازل فرما محمد پر جو شعاع ہیں ذات قدیمہ سرمدیہ نوریہ کی اور نور ہیں

أَفلاكِ الْوُجُودِ الْكَلْبِيَّةِ الظُّهُورِيَّةِ اللَّهُمَّ حُدُوكَ فَوْقَ طَاقَتِي وَ

وجود کے افلاک کلبیہ ظاہریہ کا۔ اے اللہ تیری حمد میری طاقت و بساط سے زائد ہے

بِنَاءِ حَبِيبِكَ لَيْسَ بِقُدْرَتِي وَفِي طَاعَتِكَ وَفِي اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ

اور تیرے حبیب کی بناء میری قدرت میں نہیں ہے۔ میں تیری اطاعت اور تیری شریعت کی اتباع میں

مَتَوَسِّلٌ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِي بِاسْمِ حَبِيبِكَ الَّذِي اسْمُهُ فَوْقَ

وسیلہ بناتا ہوں اپنے تمام سوالات و حاجات میں تیرے حبیب کے نام نامی کو کہ جن کا نام مقدس بلند و بالا ہے

الْمَسَبِّيَّاتِ وَأَشْرَفُ مِنَ الْمَعَانِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمام مسببات سے اور اشرف ہے تمام معانی سے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وَأَقُولُ إِنِّي مَتَوَسِّلٌ بِحَبِيبِكَ فَإِنَّ التَّوَسُّلَ بِنَفْسِ حَبِيبِكَ يَقْتَضِي

اور میں کہتا ہوں کہ میں متوسل ہوں تیرے حبیب کے ساتھ کیونکہ تیرے حبیب کی ذات کے ساتھ توسل چاہتا ہے

الْإِتِّصَالَ بِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْغَايَاتِ وَلَا غَايَةَ فَوْقَهُ فَإِنْ نَظَرْتُ إِلَى

ان کے ساتھ ربط کامل کو اور وہ سب غایات کی غایت ہیں ان سے اوپر کوئی غایت نہیں ہے پس اگر میں ملحوظ رکھوں اس امر کو

أَنَّ حَبِيبَكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ

کہ تیرے حبیب کی ذات ہی مقصود ہے ان کے اسم سے صلی اللہ علیہ وسلم پس ان کی ذات اور اسم ایک ہوئے

هُوَ كَمَا قَالُوا إِنَّ الْإِسْمَ هُوَ عَيْنُ الْمَسْتَهْيِ فَهَذَا الشَّرْفُ عَظِيمٌ

جیسے کہا گیا ہے کہ بے شک اسم مسٹی کا عین ہوتا ہے تو یہ عظیم شرف ہے اور بہت بڑا فضل ہے

جَسِيمٌ مِّنْ قَبْلِ جَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

تیرے حبیب کی جانب سے رحمت نازل فرمائے ان پر اللہ تعالیٰ اور سلام ہزار دفعہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَنِيِّ عَنْ تَوْصِيْفِنَا وَالْمُسْتَعْنِي عَلَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو بے نیاز ہیں ہماری توصیف سے اور مستغنی ہیں

تَكْرِيبِنَا وَهُوَ الْمَكْرَمُ الْمَكْرَمُ وَالْمَعْظَمُ الْمَعْظَمُ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفَ

ہماری تعظیم سے اور وہی صاحب اکرام و تحريم ہیں اور صاحب عظمت و تعظیم ہیں۔ اے اللہ اے لطیف

يَارْزَاقُ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَبْسُطُ

اے رزاق۔ اے قوی۔ اے عزیز۔ تیرے ہی ملک میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں وسیع فرماتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ فَاَبْسُطْ لَنَا مِنَ الرِّزْقِ مَا يُوْصِلُنَا إِلَى

رزق جس کے لیے چاہے اور اس کی مقدار معین کرتا ہے پس پھیلا ہمارے لیے رزق اتنا قدر کہ پہنچائے اس کے ساتھ

إِلَى رَحْمَتِكَ وَمِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِقْمَتِكَ وَكَرْهِنَا

اپنی رحمت تک اور اپنی رحمت سے اتنا قدر کہ حائل ہو جائے اس کے ذریعے ہمارے اور اپنے عذاب کے درمیان

حَلْبِكَ مَا يَسْعُنَا بِهِ عَفْوُكَ وَاخْتِمِ لَنَا السَّعَادَةَ الَّتِي

اور اپنے حلم سے اتنا قدر کہ اس کی بدولت مجھٹ ہو جائے ہمیں تیری عفو اور ہمارا خاتمہ فرما اس سعادت پر جس پر تو نے اپنے اولیاء

لِأَوْلِيَاءِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعِدْ هَآئِذَا مَرَّ بِفَارِكٍ وَرَكِبْنَا

کا خاتمہ فرمایا اور بنا ہمارے دنوں سے بہتر اور سعادت مندی والادوں اپنی ملاقات کا دن اور دور رکھ ہمیں

فِي الدُّنْيَا عَنْ نَارِ الشُّهُورَةِ وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ فِي مَكَانٍ

دنیا میں شہوت کی آگ سے اور داخل فرما ہمیں اپنے فضل سے رحمت کے میدانوں میں

وَإَكْسِنَا مِنْ لُدُنِكَ جَلَابِيْبَ الْعَصْمَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور پہنا ہمیں اپنے پاس سے عصمت کی وسیع چادریں اور بنا ہمارے امدادی ہمارے

عُقُولَنَا وَمَهِينًا مِّنْ أَرْوَاحِنَا وَمُسَخَّرًا مِّنْ أَنْفُسِنَا كَى نُسَبِّحَكَ

عقول سے اور نگہبان ہماری بیویوں سے اور مسخر فرما ہمارے لیے ہمارے نفوس تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کہیں

كَثِيرًا وَتَذُكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ وَهَبْ لَنَا شَاهِدَةً

اور بہت زیادہ ذکر کریں بے شک تو ہمارے متعلق بصیر ہے اور عطا فرما ہمیں مشاہدہ

تَصُجُّهَا مَكَالِهَةً ۝ وَافْتَحْ أَسْبَابَنَا وَأَبْصِرْنَا وَإِذَا ذُكِّرْنَا إِذَا غَفَلْنَا عَنْكَ

کہ جس کے مصاحب ہو ہمکلامی کا شرف اور کھول ہمارے کانوں کو اور آنکھوں کو اور ہمیں یاد فرماتا جب ہم تجھ سے

بِأَحْسَنِ مَا تَذُكِّرُنَا بِهِ إِذَا ذُكِّرْنَا بِكَ وَأَرْحَمِنَا إِذَا عَصَيْنَا بِأَنْتُمْ مَا تَرْحَمُنَا

غافل ہو جائیں ساتھ احسن طریقہ کے اس سے بھی کہ یاد فرماتا ہے جب ہم تجھے یاد کرتے ہیں اور رحم فرما ہم پر

بِهِ إِذَا أَطَعْنَاكَ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّرَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَالطُّفْ

جب تیری نافرمانی برداری کریں ساتھ کامل ترین صورت رحم کے جو کرتا ہے ہم پر جب تیری اطاعت کریں اور بخش ہمارے گناہ پیچھے اور

بِنَا لَطْفًا لَا يَجِبُنَا عَنْكَ شَيْءٌ ۝ فَإِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ

پچھلے اور ہم پر لطف فرما اس طرح کہ نہ محبوب کرے ہیں کوئی شئی تجھ سے پس بیشک تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ

أَنْتَ الْمَوْجُودُ وَاجْعَلْنِي مَوْجُودًا بِنُورِ وَحْدَانِيَّتِكَ مُؤَيَّدًا بِشَهَادَةِ

تو ہی موجود حقیقی ہے اور مجھے موجود فرما اپنے نور وحدانیت کے ساتھ تائید کیا ہوا اپنے

قُرْبِ أُنْسِكَ الْوُدُودِ بِعَبْدِكَ الْمَعْيُوبِ الْمَحْزُونِ إِلَهِي

قرب و انس کے شہود کے ساتھ جو مودت رکھنے والا ہے تیرے مہیوب اور محزون بندے کے ساتھ۔ اے میرے خدا

أَنْتَ الْمَوْجُودُ بِذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ بِالْوَهِيَّتِكَ بِعَيْنِ عَيْنِ هَاءِ

تو ہی موجود ہے بذات خود جو بلند مرتبت ہے الوہیت کے ساتھ ساتھ عین ہاء

هُوِّيَّتِكَ اللَّهُمَّ ثَنَائِي وَصَلَوَاتِي وَتَسْلِيمَاتِي عَلَى حَبِيبِكَ مِنْ

ہویت و وجود خاص کے۔ اے اللہ میری ثناء اور صلوات و تسلیمات تیرے محبوب پر

الْكَمَلِ الْوَسَائِلِ وَأَعِزِّ الدَّرَائِعِ لِي فِي حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا عَاجِزُونَ

کامل ترین و سید اور عزیز ترین ذریعہ ہیں میرے لیے تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ بے شک ہم عاجز و

قَاصِرُونَ بِرَاءَ أَعْيَالِكِ مِنَ الزَّيْغِ وَالزَّلِيلِ مُطِيعُونَ لِمَا مَرَّتْ

قاصر ہیں۔ براءت اختیار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں ٹیڑھ اور لغزش سے۔ اطاعت گزار ہیں تیرے امر کے

بِهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَعَمَلٍ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قول و فعل اور عمل سے پس بلند شان ہے اللہ شہنشاہ برحق۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَجَبِينَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

مالک ہے عرش کریم کا۔ ساتھ و سید حرمت سیدنا و جبینا و نبینا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْفَعَنِي وَلَا تَضَعْنِي وَأَدْفَعْ عَنِّي وَلَا تَدْفَعْنِي وَ

علیہ و سلم کے بچھے بلند فرما اور پست نہ فرما۔ میرا دفاع فرما اور مجھے نہ دھنکار اور

أَعْطِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَكْرِمْنِي وَلَا تُهِنِّي وَبِرْدُنِي وَلَا تَنْقُصْنِي

بچھے عطا فرما اور محروم نہ فرما مجھے عزت بخش اور خوار نہ فرما اور مجھے زیادہ بخش اور کمی نہ فرما

وَاتِّرْنِي وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيَّ أَحَدًا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْفَظْنِي

مجھے ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے نہ دنیوی امر میں اور نہ اخروی میں۔ مجھے محفوظ فرما

وَلَا تُضَيِّعْنِي فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَتْكَ

اور ضائع نہ فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبول دعا کا حقدار اور لائق

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ أَمْرِ

اے صاحب جلال و اکرام۔ اے اللہ جو امر تو نے میرے لیے مقرر فرمایا اور

شَرَعْتَ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَيْسِيرِكَ فَتَيْسِّرْ لِي بِأَحْسَنِ التَّوَسُّلِ

میں اس میں شروع ہوا تیری توفیق اور تیسیر سے پس وہ میرے لیے تمام و مکمل فرما احسن ترین طریقہ پر

كُلِّهَا وَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْهَا فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَتْكَ

اور انتہائی درست صورت مطابق اور اصولوں کے مطابق کیونکہ تو قدیر ہے ہر اس امر پر جو چاہے اور دعائیں قبول فرماتے

جَدِيرٌ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

کے لائق ہے۔ اے کہ قائم ہیں تمام آسمان اور زمینیں اس کے امر سے۔ اے کہ روکے ہوئے ہے

السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالنَّاسِ لَكِرَؤُفٌ

آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر ساتھ اپنے اذن کے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ رؤف

رَحِيمٌ رَبِّ اعْنِي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَاَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ

درحیم ہے۔ اے اللہ میری امداد فرما اور میرے خلاف امداد نہ فرما۔ میری مدد فرما اور میرے مخالف کی مدد نہ فرما

اَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاَهْدِنِي الْهُدَى وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى وَاَنْصُرْنِي

میرے لیے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما۔ مجھے ہدایت خاص تک واصل فرما اور یسیر فرما اور میری مدد فرما

عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

مجھ پر ظلم و تعدی کرنے والوں کے خلاف۔ اے میرے پروردگار میری امداد فرما اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کرنے میں

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ وَاحْفَظْنِي فِيهَا

اے اللہ میری امداد فرما دنیا کے ذریعے دین پر اور تقویٰ کے ذریعے آخرت پر۔ اور میری حفاظت فرما ان امور میں جن سے

غِبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكُنْ لِي إِلَىٰ نَفْسِي فِيهَا حَاضِرَةٌ يَا مَنْ لَا تَضْرَهُ الذُّنُوبُ

میں غائب ہوں اور مجھے نہ سونپنا میرے نفس کی طرف ان امور میں جن میں حاضر ہوں۔ اے کہ جسے بندوں کے گناہ مضر نہیں پہنچا سکتے

وَلَا تَنْقُصُهُ الْبَغْفَرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يُغْفِرُكَ إِنَّكَ

اور مغفرت و بخشش اس کی شان میں کمی نہیں کرتی۔ مجھے عطا کر جو تیرے لیے موجب نقصان نہیں اور مجھے بخش جو تیرے لیے مضر نہیں

أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْرَثَ اللَّهُ أُمَّتَهُ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا

کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ہے ان کی اُمت کو فردوس اعلیٰ کا اور وہ اس میں

خَالِدُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مصداق ہیں

مُحَمَّدٍ الْمَعْنَىٰ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ ن وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ط مَا

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا قسم ہے نون کی اور قلم کی اور اس کی جو ملائکہ لکھتے ہیں۔ ہیں ہو آپ

أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طفیل مجنون - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور بے شک

لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمہارے لیے عظیم اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں

اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا بَرًّا رَحِيمًا وَجَوَادًا كَرِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اے اللہ ہو تو ہمارے لیے محسن مہربان اور جو د فرما و کرم گستر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بَصَائِرَ أُمَّتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی قلبی نگاہوں کو

لِبِعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَالْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ

اس محبوب کی معرفت اور محبت کے لیے۔ اے اللہ محبوب بنا ہمارے لیے ایمان نیکی اور احسان

وَزَيِّنْ ذَلِكُمْ فِي قُلُوبِنَا وَكِرَّةَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

اور مزین کر اسے ہمارے دلوں میں۔ اور ناپسندیدہ بنا ہمارے لیے کفر و فسوق اور عصیان کو

وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَائِخِنَا وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

اور بخش۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین۔ مشائخ اور بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ

ایمان کے ساتھ اور ہمارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ پیدا نہ فرما نا ایمان والوں کے حق میں۔ اے ہمارے رب بیشک

رَحِيمٌ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رُسُلَكَ

نور و رحیم ہے۔ اے اللہ کھول دے ہمارے لیے رحمت کے دروازے اور پھیلا دے ہم پر اپنی رحمت اور دائم رکھ

عَلَيْنَا سَوَابِغِ نَعْمِكَ وَأُدْفِعْ عَنَّا شَرَّ نِقْمَتِكَ وَجَبِّنَا عَنْ سَخَطِكَ

ہم پر اپنی کامل نعمتیں اور دور فرما ہم سے اپنے برے انتقام کو اور بچا ہمیں اپنی ناراضگی سے

وَوَفَّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور توفیق دے ہمیں اپنے پسندیدہ امور کی اے جلال و اکرام کے مالک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَبُّهُ اللَّهُ بِعُلُوِّ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات و صفات کی بندی و برتری یہ

وَيُسَارِعُ فِي مَرْضَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور جلدی سے کام لیتا ہے ان کی مرضی پوری کرنے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَتَّجَلِّيُّ بِتَجَلِّيَّتَيْنِ قَالَ لَهُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ يَا نُورِ نُورِي

آل پر جو محبوب کہ مزین ہیں دو تجلیوں کے ساتھ۔ انہیں فرمایا واحد واحد نے اے میرے نور کے نور

وَيَا سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي أَفْدَيْتُ مُلْكِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

اور میرے سرالاسرار اے میری معرفت کے خزانے میں نے اپنا ملک تجھ پر نثار کر دیا ہے اے محمد

مِن لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا

عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک سبھی مخلوق میری رضا کی طالب ہے اور میں

أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ فَتَاهُ فَاتِحُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تمہاری رضا چاہتا ہوں اے محمد، کشادگی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کار کی توفیق دے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَهِيدٍ عَوَامِنَا رَسُولٍ صَاحِبِ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہم تمام کے شہید اور گواہ ہیں۔ تاج شفاعت والے رسول ہیں

التَّاجِ مُحَلِّيٍّ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اللہ تعالیٰ کے اذن سے (طبیبات کو) حلال ٹھہرانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آل پر جو محبوب صاحب براق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْبَرِنَا رَسُولٍ صَاحِبِ الْبِعْرَاجِ عَالِمِ غَيْبِي اللَّهُ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب ہم سب کے بڑے ہیں (مراتب میں) صاحب معراج رسول ہیں، صاحب علم (تشریحی و غیبی) ہیں، اللہ کی طرف سے غنی کئے ہوئے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَوْضِ

ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس خوض کے

الْمُرُودِ وَاللَّوَاءِ الْمَعْمُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جس پر سبھی اُمت وارد ہوگی اور مالک ہیں پرچم (حمد) کے جو سبھی کو معلوم ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْمَكَانِ الْمَشْهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مالک ہیں مقام محمود کے اور اس مکان کے جس میں سبھی حاضر کئے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُوكِبِ الْأَجْفَلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عظیم شکر والے

وَالْمَنْظَرِ الْأَجْمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جمیل ترین منظر والے ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْأَرْتَقِي وَالْقَلْبِ الْأَتَقِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو کہ مالک ہیں بلند ترین پرچم کے اور انتہائی پرہیزگار قلب والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السُّبُوِّ الْأَصْعَدِ وَالنَّسَبِ الْأَقْعَدِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بہت ہی بلندی کے اور عظیم ترین نسب کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَحْفَلِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا مالک ہیں بہت بڑے شکر جزار کے

الْجَرَّارِ وَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور سکینت و وقار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالغُرَوَاتِ وَالْبَعُونَاتِ وَالْفَتْوَاتِ

آل پر جو محبوب سرایات اور غزوات والے ہیں اور عساکر و فتوحات والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں

الرَّأْيَةِ وَالْهُدَايَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالْعِنَايَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پرچم کے اور ہدایت کے۔ رافت کے اور عنایت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الذَّاتِ السَّنِيَّةِ وَالصِّفَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند شان ذات اور عالی شان صفات

الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْمَقَامِ الشَّامِخِ وَالْقَدَمِ الرَّاسِخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو بلند مقام کے مالک ہیں اور راسخ قدم والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحِلْمِ الْمَوْجُودِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مالک ہیں حلم و اہم کے اور

الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَشْهُودِ يَا عَالِي الشَّامِخِ فَوْقَ

عہد معلوم کے اور قیامت کے دن شہادت (تذکیہ) کے، اے بلند مرتبہ و مقام والے

كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا رُتِقَاعَهُ اجْعَلْنِي عَالِيًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْوِلَايَةِ

کہ ہر چیز سے بالا ہے اس کا علو و ارتفاع مجھے بھی ہر چیز پر بلندی عطا کر حتیٰ کہ ولایت

الْقُطْبِيَّةِ وَالْأَوْتَادِيَّةِ ثُمَّ مِنْهَا إِلَى الْعُرْفَانِ فِي الْمَشَاهِدَاتِ

قطبیہ و اوتادیہ پر پھر اس سے مختلف انواع کے مشاہدات کے عرفان کی طرف

الْمُتَنَوِّعَةِ حَتَّى فِيهَا بَيْنَ تِلْكَ الْعَكْسَاتِ حَتَّى أُحَايِنَهَا مَعَ الْعَجَائِبِ

جس نے جمع کر لیا اپنے اندر مشاہدات کے عکسوں کو حتیٰ کہ معائنہ کروں میں ان کا مع تمام عجائب کے

فِي الْهَوَاءِ وَالْبَدَائِعِ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَقْصُرْنِي عَلَى عِلُودُونَ عِلُودُونَ

جو ہوا میں ہیں اور تمام انوکھے امور کے جو زمین میں ہیں اور نہ مقصور و محدود فرما مجھے ایک بلندی پر بغیر دوسری

أَنْتَ الْعَالِي الْمَبْتُقُ اجْعَلْنِي شَبِيهَا بِالْعُلُوبِيَّاتِ حَتَّى أُنْقَلُ إِلَى

توہی تو مطلق بلندی اور رفعت والا ہے بناوے مجھے مشابہ علویات کے حتی کہ عقل اول کے

مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ فِي السَّلْسِلَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ فِي الْإِعَادَةِ وَالْكَرْرِ

بغیر قصور و کوتاہی کے سلسلہ میں بمع باقی رہنے اعادہ اور رجوع کی قوت کے

طَرِيقِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَاهْتِالٍ بِطَيِّ زَمَانِي أَوْ مَكَانِي فِي الصُّعُودِ

اس طریق اور راہ میں بغیر کسی توقف اور نظر اندازگی کے بسبب طے زمانی یا مکانی کے صعود

وَالهَبُوطِ بِخِيَالٍ صَحِيحٍ بَلْ بِفِعْلِ لِمَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى تَصْعِيدِ الْكَلْبِ

اور ہیبوط میں ساتھ خیال صحیح کے بلکہ بالفعل اور عملی طور پر کیونکہ تو قادر ہے کثیف و مادی کو

وَتَهْيِطِ اللَّطِيفِ بِعُظْمَتِكَ الشَّرِيفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَفَرُّغِ نَفْسِي

بلندی کی طرف لے جانے پر اور لطیف و مجرب و کوسپی کی طرف لانے پر بسبب اپنی عظمت شریفہ کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تفرغ

نَسِيمَاتِ نَفَحَاتِ أَسْرَارِكَ وَكَشْفِ أَسْمِكَ الَّذِي الْقَيْتُكَ لِنَفْسِي

فرمانے کا اپنے اسرار کی مہک والی سیموں میں سے ایک نسیم اور اپنے اس اسم کے کشف کا جس کا اتمام کیا تو نے واسطے نازل کرنے

عَطَشِ الْكِبَادِ وَارِدِي حَوْضِ بَرِّكَ وَقَاصِدِي سُبُوحِ بَرِّكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ

پیس اپنے احسان کے حوض پر وارد ہونے والوں کے جگروں کی اور اپنے مقدس راز کے قصد کرنے والوں کی لے کر جس کی کوئی

حَدَّ يَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حد معلوم نہیں کی جاسکتی اور وہی بہت جانتے والا ہے اپنے ذاتی علم کے ساتھ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ نَسِيمٍ وَتَعْبِيسٍ وَتَفْرِيشٍ وَتَبْشِيشٍ

کی آل پر مطابق تعداد تمام اصول رویہ اور ہلاکتوں اور رقیق بادلوں اور بد خلقی اور اچھی گزران کے

وَتَبْشِيشٍ وَتَفْتِيشٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہر بشارت اور تفتیش کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ ثَبٍّ وَثَعْبٍ وَثَعْبٍ وَثَعْبٍ

آل پر مطابق تعداد ہر مضبوط نشست اور لوٹ۔ ذبح و قتل اور سوراخ۔ پاؤں کی انگلیوں پر اور سفری جماعت کے

وَتَيْبٍ وَتَلْبِجٍ وَتَهْمِجٍ وَتَغْجِجٍ وَتَقِيلٍ وَتَعْدٍ وَتَمِيدٍ وَتَهْمِيدٍ وَتَغْرٍ وَتَهْرٍ

بلند آواز اور برف اور ملاوٹ و اختلاط اور جماعت والے اور ثقیل اور تازہ کھجور اور مقام تہمد بارش کے پانی کے نالاب اور سرد اور سبیل

وَتَوْبٍ وَتَبَاشٍ وَتَبِطٍ وَتَطِعٍ وَتَغْشَعٍ وَتَوْعٍ وَتَغْشَعَةٍ وَتَمِغٍ وَتَغِينَةٍ وَ

اور بیل قبری کھودنے والے اور کمزور اور زکام اور صدف اور احمق مرد اور خلط ملط کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے اور خاک آلود اعصاب اور

تَقْفٍ وَحَسْفٍ وَحَشْفٍ وَحَصْفٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدھا کرنے اور پھینکانے۔ ہر روی کھجور اور ہر مضبوط شئی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ جَوْهَرٍ وَجَابٍ وَجَبَابٍ وَحُجْبٍ وَ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر جوہر کے۔ گہر و مٹی اور قحط اور ہلاکت آفرینی کے اور

وَجَدِبٍ وَجَذِبٍ وَجَرِبٍ وَجَرَابٍ وَجَرْدِبٍ وَجَرَشِبٍ وَجِيدٍ وَجِنٍ

ظلم و غدر اور کشش اور کھجلی اور زنبیل اور طعام پر قبضہ جمانے والے اور نقاہت والے اور عمدہ اور ہرجن

وَجَمِيعٍ وَجَامِدٍ وَجَبِيلٍ وَجَدِيدٍ وَجَرَعٍ وَجَزِبٍ وَجَسْرٍ وَجَشِبٍ

اور ہر جمعیت اور ٹھوس شئی اور خوب صورت اور نئی شئی اور جفا کار اور مالدار اور طویل قامت اور ہر بد ذائقہ کھانے

وَجَعِبٍ وَجَعْتَبَةٌ وَجَعَشِبٍ وَجَعْنِبٍ وَجَلِبٍ وَجَلِبَتٍ وَجَلْجَابٍ

اور ترکش اور حرص و ہوا اور بخل اور حرص مالی اور باہر سے لائے ہوئے مال اور مضبوط و بہادر اور شہ کبیر

وَجَلْحَتٍ وَجَلْدِبٍ وَجَلْعِبٍ وَجَوِبٍ وَالجَنْبِ وَالْجَوَابِ وَجَوْدَابٍ

اور پٹانی کرنے اور مضبوط قوی اور کثیر الشتر اور بڑے طول اور ہر پہلو اور جواب اور جو ذاب کے مطابق

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كُلِّ حَيٍّ وَحَلٍ وَحَاضِرٍ وَحَصَا وَحَرِيصٍ وَحَقِّقٍ وَحَقِيْرٍ وَحَرٍّ وَحَوَابٍ

ہر زندہ اور شیریں کے اور ہر حاضر اور کنکری کے اور حریص اور پائیدار اور حقیر اور گرم اور

وَ حِبِّ وَحِبَابٍ وَحَثْرِبٍ وَحَثْرِبٍ وَحَجْبٍ وَحِجَابٍ وَحَدِبٍ وَ

محبت اور ہر غایت اور کوتاہ قامت اور گدے پانی اور ہر مانع اور حجاب اور ہر ڈھلوان کے اور

حَرْبٌ وَحَرْبٌ وَجَنْبٌ وَحَوْبٌ وَحِتٌّ وَحَرْتٌ وَحَلْبٌ وَحَلْبٌ

ہر جنگ اور جماعت اور خشک شیئی اور گناہ اور ہر گراوٹ اور چبانے کی آواز اور قوی و توانا اور ضعیف و ناتوان

وَحَدِيثٌ وَحَرِيثٌ وَحَوْجٌ وَحَسِبٌ وَحَصْرِيَّةٌ وَخَصْلٌ وَ

اور ہر جوان اور کھیتی اور بلوغت اور سلامتی اور خاندانی شرف اور بخل و کنجوسی اور طینت اور

حَطْبٌ وَخَطْبَةٌ وَسَيْنِعٌ وَسَمَاءٌ وَسَلِعٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ایندھن اور کثرت کلام اور ہر خوبصورت اور سننے والے اور ہر سبھولی کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ خَفِيْفٍ وَخَيْرٍ وَخَطَاوٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر خفیف اور خیر اور خطا کار اور

خَفِيٍّ وَخَبٍ وَخَطَةٌ وَخَيْتٌ وَخَرَابٌ وَخَصْبٌ وَخَضْرِيَّةٌ

پر شبیدہ کے اور ہر چھپی شئی اور خطا کے اور فریبی اور بخر و ویران اور ہر سبز و شاداب اور نورستہ سر سبزی اور پانی کی

خَضْعِيَّةٌ وَخَبٌ وَخَطِبٌ وَخَلْبٌ وَخَيْبَةٌ وَخَتٌّ وَخَرْتٌ وَخَفِيٌّ

جنش اور ضعف و ناتوانی اور ہر عظیم امر اور کثرت کلام اور دھوکہ بازی اور رسوائی اور بدنی کسالت اور سوئی کے سوراخ اور آواز کی لیتی

وَخَافِتٌ وَخَبِتٌ وَخَيْتٌ وَخَرْتِيٌّ وَخَنَابِثٌ وَخَبْرِيَّةٌ وَخَيْرٌ

اور پانی سے خالی بادل اور ہر فوتی اور منہ سے نکلی ہر آواز اور خبیثت اور ہر ردی شئی اور مذموم اور ملایم شئی کے اور احمق اور

بَجْوَجٌ وَخَدَايَجٌ وَبُهَجٌ وَتَصْرِيحٌ وَتَشْرِيحٌ وَتَسْبِيحٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سخت آندھی اور ہر ناقص اور خوش و خرم اور تصریح اور تشریح اور تسبیح کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ دَائِدٍ وَدَائِيٍّ وَدَرِيَّةٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر حرکت کے اور گرمی کی بارش اور گرانے اور سخت گرمی اور

دَكَاءٌ وَدَائِبٌ وَدَجْوِبٌ وَدِخَابٌ وَدَرِيَّةٌ وَدَرِيَّةٌ

مدافعت والی شئی کے اور طور طریقہ اور برتن یا بورے اور بلند سخت زمین اور کشادہ راستہ اور لڑائی اور محقر مقدار والے اور کھلنے والے اور

وَدَهَبٌ وَدَهْلِبٌ وَدَشِيَّتٌ وَدَائِبَةٌ وَدَائِبَةٌ وَدَعِيَّةٌ

پسائی اختیار کرنے والا شکر محقر میدان اور صبح اور ہر جاندار اور سخت کمینہ اور ہلکی بارش اور آغاز مرض اور عمدۃ البیان محدث

ذَاتِ وَدَمْتِ وَدَهَكْتِ وَدَهْمُوتِ وَدَبِجٍ وَدَبِجٍ وَخُرْجٍ وَبِجٍ وَبَكِجٍ

اور تیز رو کے اور ریتی جگہ اور کوتاہ و مختصر اور نرم و ملائم اور نقش و نگار اور کھائی کے کاغذ اور جنوبی ہوا اور نرم اور چپن اور

وَبُلُوْجِ اللّٰهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کشاہک اور سپید صبح۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بَعْدَ كُلِّ ذَاذٍ وَذَرْعٍ وَذَمَاءٍ وَذَيْتٍ وَذَنْبٍ وَذَائِبٍ وَذَهْوِبٍ وَذَيْبٍ

مطابق تعداد ہر اضطراب اور گھٹڑی شیئی اور امتی حیات اور متحرک ترین جنگلی پیل اور گناہ اور عیب اور جانے والے اور افریقائی

وَدَمْتِ وَذَاجٍ وَذَلِجٍ وَذُوْجٍ وَذَحٍّ وَذَلَّاحٍ وَذُوْجٍ وَذَلِيْلٍ وَذِي

اور دے پلے پن اور پانی پینے اور گھونٹ بھرنے اور جلدی کرنے اور تھپڑ مارنے اور کھانا کھانے اور تندی سے چلنے اور ہرزہ لے اور

رُوْحٍ وَغَيْرِ ذِي رُوْحٍ وَذُوْذِيْرٍ وَذِيْرٍ وَذَعْرٍ وَذِكْرٍ وَذَمِيْرٍ وَ

ہر جاندار اور بے جان شیئی اور ہر شیئی کا وسط اور ہر کتاب اور بھوری چھوٹی اور گھبراہٹ و خوف اور ذکر اور بہادر اور

ذُوْرٍ وَذَفْطِيْسٍ وَذَيْتِيْسٍ وَحَفِيْسٍ وَحَصَاِصٍ وَحَصِيْسٍ اللّٰهُمَّ

اگلا حتمہ معدہ کا اور مال برباد کرنے والا اور تیز رفتار اور ٹوکری اور تیز دوڑ اور زعفران کے۔ اے اللہ

يٰۤاَقَاہِرَ الْبَطِيْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ اَنْتَ

اے سخت گرفت پر قادر تو ہی ہے جس کے انتقام کی تاب نہیں لائی جاسکتی تو ہی غالب ہے

الْقَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰی الْجِبَالِ

اپنے بندوں پر اور تمام آسمان و زمین والے حتیٰ کہ مستحکم بنیاد والے بندوں والا

الرَّاسِيَّاتِ الشَّامِخَاتِ وَجَلُّ مَنْ قَهْرِكَ وَهَيْبَتِكَ مِنْ حِيْنَ

پہاڑ خوف زدہ ہیں تیرے قہر اور ہیبت سے جب سے تو نے

نَزَعْتَ الْبِيَّاسَ الْمَلَكُوْتِيَّ مِمَّنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَالرِّيَّاسَةَ بِالْقَهْرِ

اتار دیا ہے ملکوتی لباس علم و ریاست کا دعویٰ رکھنے والے سے قہر اور جبر کے ساتھ

وَالْجِبْرِ اَنْتَ الْفَرَّاقُ بَيْنَ السَّمَانِثَلَاتِ وَالرَّكَابِ بَيْنَ الْمَتَفَرِّقَاتِ

تو جدائی بگاڑنے والا ہے باہم متماثل اشیاء میں اور ترکیب دینے والا ہے متفرقات میں

هَذَا هَوْنٌ عَلَيْكَ فِي عَالَمِ الْبَثَالَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ مِنْ عَالَمِ

یہ تجھ پر زیادہ آسان ہے عالمِ مثال اور عالمِ محسوسات میں بے نسبت عالم

الْمَجْرَدَاتِ وَالْمَعْقُولَاتِ فَبَطْشِكَ شَدِيدٌ قَاهِرٌ إِنْ أَخَذْتَكَ

مجردات اور عالمِ معقولات کے پس تیری گرفت بہت سخت اور غالب ہے اگر تو اس گرفت پر آئے

فَأَحْفَظُنِي عَنْ قَهْرِكَ بِلُطْفِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَيْسَ قَهْرُكَ وَعَلْبَتِكَ

تو مجھے محفوظ رکھنا اس قہر سے اپنے لطف اور رحمت کے ساتھ اور نہیں تیرا قہر اور غلبہ

مَحْصُورَةٌ فِي قُوَّةٍ دُونَ قُوَّةٍ بَلْ كُلُّ جُنْدٍ مِنْ جُنُودِ قَهْرِكَ وَ

منحصر ایک قوت میں بغیر دوسری کے بلکہ ہر لشکر تیرے قہر و غلبہ کے لشکروں میں

عَلْبَتِكَ إِنْ أَرَدْتَ التَّسْلِيْطَ عَلَى أَصْحَابِ الظُّلْمِ وَالْعُدُوِّ إِنْ

سے اگر ارادہ کرے تو اسے مسلط کرنے کا اہل ظلم و تعدی پر

فَالدُّوْدَةُ الصَّغِيرَةُ الْمَسْمُومَةُ بِالْبَعُوضَةِ تُعْجِزُ حَيَوَانًا كَثِيرًا

تو ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو مچھر کھا جاتا ہے عاجز کر دے بہترے حیوانات کو

مُدْهِشًا إِنْ أَرَدْتَ تَسْلِيْطَهَا عَلَيْهِ فَتَدْخُلُ فِي مَدَاخِلِهِ مِنْ

دہشت زدہ کرتے ہوئے اگر تو ارادہ کرے اس کے مسلط کرنے کا ان حیوانوں پر پس وہ داخل ہو جائیگا مناسب مقامات

الْبَحْرِ وَتُصَيِّرُهَا كُلَّهَا دَرَكَاتٍ جَهَنَّمَ حَارَّةً تُقْرِقُهُ بِجُزْءٍ

دخول میں سمندروں سے اور کر دیگا ان تمام کو جہنم کے طبقات، سخت گرم اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور انہما لیکہ

طَبَاخَةٍ مُغْلِيَةٍ أَجْسَادُ مَنْ أَرَدْتَهُ بِهَا فِي مَرَاتِبِ النَّسَبِ وَ

پکانے اور گلانے والا ہوگا ان کے اجسام جن کا تو نے اس کے ذریعہ تباہی کا ارادہ کیا (یہ معاملہ تو ہے) نسبی اور

إِضَافَاتٍ فَمَا بَالُ الْقَهْرِ الْأَحَدِيِّ الْحَقِيقِيِّ وَإِنِّي الْقَهْرُ الْمُنْفِيُّ

اضافی مراتب خلق میں پس کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے قہر حقیقی کا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قہر جو فناء دہلا دے

لِشَيْءٍ صُلْبٍ كَالْجِبَالِ الشَّدِيدِ يَدَّةَ الْأَحْكَمِ الْقَاعِدَةَ أَصُولُهُمْ

کسی بھی سخت ترین شے کو مثلاً سخت پہاڑوں کو جو بہت مستحکم ہوں ان کے اصول اور بنیادوں



مَنْتَهَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ لَطِيفٍ غَيْرِ مَحْسُوسٍ يَجْعَلُ الْقَهْرَ الْقَلَاءَ

مَنْتَهَى زمین تک پہنچی ہوئی ہوں تو وہ تباہ کن قہر جو کہ اکھیڑ پھینکنے والا ہے بنائے گا ایک لطیف غیر محسوس شئی کو

لَهُ آيَةُ التَّحْلِيلِ وَالتَّجْزِي يَجْعَلُ أَجْزَاءَهَا مَسْلُوبَةً الْقُوَّةَ

اے تحلیل و تقسیم کا جو کر دے گا اس کے اجزاء کو عاری قوت

وَالثَّقْلَ حَتَّى يَصِيرَ الْمَقْهُورُ كَالْعَمْرُ الْبَقِيَّةِ بِقَهْرٍ ذِي

اور ثقل سے حتی کہ وہ مقهور بہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں بسبب اس قہر کے

نِسْبَةٍ وَإِضَافَةٍ وَلَوْ تَعَلَّقَ أَصْلَهُ بِشَيْءٍ مَّا بَقِيَ شَيْءٌ وَلَا فِي

جو نسبت و اضافت رکھتا ہے اور اگر حقیقی قہر کا تعلق کسی شئی سے ہو تو کوئی شئی بھی باقی نہ رہے۔

الْحِسِّ وَلَا فِي الْمَعْنَى بِتَغْيِيهِ فِي جِنْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَقْهُورُ

جو اس میں اور نہ حقیقت میں بسبب غائب ہونے قہر کے مقہور کی جنس میں حتی کہ ہو جائے گا مقہور

عَيْنَ الْقَهْرِ الْمُهْلِكِ فَلَقَهْرِكَ مَرَاتِبٌ لَا يُحْصَى عَدَدُهَا اللَّهُمَّ

عین تباہ کن قہر کا پس تیرے قہر کے ایسے اتنے مراتب ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکتی۔ اے اللہ

اجْعَلْ قَهْرَكَ نَاصِرِي حَيْثُ دَعَوْتُهُ بِالْهَامِكِ الصَّحِيحِ حَتَّى يَقْلَعَهُ

بنادے اپنے قہر کو میرا امدادی جہاں بھی اس کو پکاروں تیرے صحیح الہام سے حتی کہ اکھیڑ دے اس کو

مِنَ الْأَصْلِ كَالْجِبِلِّ الْمَقْلُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ يَصْرِفَهُ

بنیاد سے مانند ان پہاڑوں کے جو اکھیڑے ہوئے ہوں گے بنیادوں سے قیامت کے دن یا پھیر دے اس نظام و جاہز

مِنْ قُوَّةٍ مُؤَذِيَةٍ بَغِيرِ حَقِّ فَيُؤْذِيهِ بِأَيْلَامٍ وَشِدَّةٍ حَتَّى يَكْفَ

جو اس کی ناحق ایذا رسانی کی قوت سے پس اس کو ایذا دے الم و شدت کے ساتھ حتی کہ اسے باز رکھے اس

مَنْ فَعَلَهُ يَا إِلَهَ الْقَهَّارِ أَنْتَ تَعْظُمُ وَتُكْرَمُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ

فعل سے۔ اے اللہ غالب تو ہی عظمت و اکرام عطا کرتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے

وَإِنْ كَانَ حَقِيرًا ذَلِيلًا عِنْدَ عِبَادِكَ الْاَغْنِيَاءُ وَالْمَغْرُورِينَ

اگرچہ حقیر اور ذلیل ہو تیرے اغنیاء اور مغرور بندوں کے نزدیک

فَهَذَا عَبْدُكَ الدَّاعِي مِنْ أَرْضِكَ وَعَقْرَائِكَ وَاللَّسِي لَكَ

تو یہ تیرا دعا طلب بندہ تیرے رزق اور فقیر بندوں میں سے ہے۔ نہیں اس کا کوئی

جَاهٌ وَلَا صِدَارَةٌ فِي الْأَغْنِيَاءِ غَيْرَ أَنَّكَ مُتَوَجِّهُ إِلَيْكَ طَالِبٌ

مرتبہ اور مقام عزت اغنیاء کے نزدیک مگر وہ متوجہ ہے تیری طرف طلب گار ہے

لِلْجَاهِ وَالْعِظْمَةِ عِنْدَكَ بِأَنْ تَجْعَلَنِي وَلِيًّا مُتَصَرِّفًا فِي أَرْضِكَ

جاہ و عظمت کا تیرے ہاں بایں طور کہ کرے تو مجھے ایسا ولی جو تصرف رکھتا ہو تیری زمین میں

مُسْتَقِلًّا فِي دَعْوَةٍ كُلِّ إِسْمٍ مِنْ أَسْمَائِكَ غَيْرِ مُتَخَلِّفٍ وَتَوْقِيفٍ

مستقل ہو تیرے اسماء میں سے ہر اسم کی دعوت میں نہ ناکام اور نہ متوقف ہو ان

فِي ظُهُورِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَفَاعِيلِ وَإِنْ كَانَتْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مُتَكَرِّرَةً

کے آثار اور افعال کے ظاہر ہونے میں۔ اگرچہ ہوں ہر گھڑی میں ہزار دفعہ تکرار

أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ إِذَا قَارَبْتُ إِلَى الْفِعْلِ وَارْدَتِ الصَّرْفَ فَاصْرِفْهَا

کئے جانے والے پھر جب قریب ہوں فعل و تاثیر کے اور ارادہ فرمائے تو انہیں پھیرنے کا تو پھیرو انہیں

اللَّهُمَّ أَقْطَابُ الْمَلَكُوتِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالنَّاسُوتِ

اے اللہ ملکوت۔ سموات اور ارض اور عالم اجسام کے

تَوَائِبِكَ وَخُلَفَائِكَ فَاجْعَلْ قَهْرَهُمْ قَهْرِي مُتَصَرِّفًا بِهِ فِي

اقطاب تیرے نائب اور خلیفے ہیں پس بنا دے ان کے قہر و غلبہ کو میرا قہر و غلبہ تصرف کروں ساتھ

مَلَكُوتِ الْأَرْضِ بِالثَّوْمِ وَالْتَّخِيلِ ثُمَّ بِالْفِعْلِ فِي الْخَارِجِ

اس کے ملکوت ارض میں ساتھ توہم و تخیل کے پھر عملی طور پر خارج و واقع میں

مَعَ حُسْنِ الرِّضَا فِي الْعَاقِبَةِ أَمِينٌ مَعَ كُلِّ مَلِكٍ وَرُوحٍ نَبِيٍّ

مع حسن رضائے عاقبت میں مع ہر فرشتہ اور نبی مرسل کی روح کے امین

مُرْسِلٍ اللَّهُمَّ إِنِّي مُذْنِبٌ وَمُقَصِّرٌ فَاسْتُرْنِي وَلَا تَقْضِ حَسْبِي

اے اللہ میں گناہگار ہوں اور کوتاہیوں کا مرتکب ہیں مجھ پر پردہ ڈال اور مجھے رسوا نہ فرما

أَنْتَ سِتَارُ الْعَيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَقَرِيبُ يَوْمِ الْجَزَاءِ وَ

تو عیوب کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور قریب کر مجھے جزاء اور
الْحَشْرِ إِلَى نَبِيِّ وَرَسُولِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْفِقًا رَحِيمًا لَا

حشر کے دن طرف میرے نبی و رسول محمد علیہ السلام کے جبکہ وہ مجھ پر مشفق و رحیم ہوں
عَبُوسًا وَلَا كَارِهًا مَنِّي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي

نہ ناراض اور متنفر مجھ سے۔ اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ مجھے بالمشافہہ ان سے کلام کرنے
مُشَافِهًا مَعَهُ بِأَحْسَنِ كَلَامٍ حَتَّى يُحِبَّنِي وَيُحِبَّ أَصْحَابَهُ مِنْ

والا بنائے حسین کلام کے ساتھ حتی کہ وہ مجھ سے محبت فرمائیں اور محبت فرمائیں ان کے
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَيُّمَةَ الْمَهْدِيِّينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إِلَى صِرَاطِ

اصحاب۔ خلفاء راشدین اور آئمہ مہدیین۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے راہ راست
مُسْتَقِيمٍ وَأَمُرْنِي عَلَيْهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ وَهُوَ قُوَّةٌ هَدَايَتِكَ

کی اور مجھے مامور فرما اس پر مع متقین کے ساتھ اپنے فضل کے اور یہی تیری قوی ہدایت ہے
أَمِينٍ مَعَ كُلِّ أَمِينٍ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

آمین ساتھ ہر آمین کے امور دین میں۔ اے اللہ ہدایت عطا کر ہمیں صراط مستقیم کی
صِرَاطَ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّةِ حَبِيبِكَ وَمَحَبُّوبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو راہ ہے تیری محبت کا اور تیرے حبیب و محبوب کی محبت کا صلی اللہ علیہ
وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يَا سُبُّوحٌ يَا قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وسلم۔ پاک ہے بادشاہ قدوس۔ اے سبوح۔ اے قدوس۔ رب ملائکہ
وَالرُّوحِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ

اور روح کے۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور ساتھ ہی حمد و ثنا اس کیلئے اس کی مخلوق کی تعداد اور ذات کی رضا
عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار سبحان اللہ۔ والحمد لله ولا اله الا الله

وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ

واللہ اکبر۔ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ

أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سُبْحَانَ

بہت بڑا ہے۔ اللہ کے لیے بہت حمد ہے۔ تسبیح ہے اللہ کے لیے صبح اور شام۔ پاک ہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَا

اللہ مالک تمام جہانوں کا۔ نہیں بازگشت دگناہوں سے اور نہ طاقت نبی کی مگر ساتھ اللہ غالب حکمت والے کے نہ

مُنْحَا وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي

جائے نجات ہے اور نہ جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر طرف اسی کے۔ اے اللہ مجھے بخش۔ مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے

وَارْزُقْنِي وَاجْبِرْنِي وَعَافِنِي وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى

اور رزق عطا فرما میری شکستگی خاطر دور فرما۔ مجھے عافیت دے اور جو اللہ تعالیٰ سے عصمت حاصل کرے تو یقیناً اس کو ہدایت

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي فِي الْحَيَاةِ رَبُّطَ مُحَمَّدٍ فِي الْمَمَاتِ

دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اے اللہ مجھے عطا فرما زندگی میں ربط محمد کریم کے ساتھ۔ اور حالت موت میں

شَبَطَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْقَبْرِ رِفَاقَةَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْعَرَصَاتِ رِاقَةَ مُحَمَّدٍ

اتصال محمد کریم سے اور قبر میں رفاقت محمد کریم کی اور میدان قیامت میں سربان محمد کریم کی

وَبِأَنْقِسَامِ الْكُوْثِرِ كُوْةَ مُحَمَّدٍ وَبِالْحِسَابِ رَحْمَةَ مُحَمَّدٍ وَبِالْحَسْبِ

اور تقسیم کوثر کے وقت جام محمد کریم کا اور مقام حساب میں رحمت محمد کریم کی اور تمام

الْأُمُورِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَشْمِيتَ مُحَمَّدٍ وَبِغُفْرَةِ الذُّنُوبِ

دنوی اور اخروی امور میں دعائے رحمت محمد کریم کی اور صفائے کبار گناہوں کی

الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مغفرت کے وقت شفاعت محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَحْبُوبِكَ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّيْتَهُ وَتَعَيَّنْتَهُ

و سلام نازل فرما اپنے محبوب محمد پر کہ تو تجلی فرما ہوا اور تعین و تشخص اختیار کیا پہلے پہل ان کی

حَقِيقَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْمُطْلَقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ

حقیقت علیہ عالی مرتبت اور بلند شان مطلقہ کی صورت کے ساتھ نسبت دوسرے

الْحَقَائِقِ الْمُقَيَّدَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْبِ غُيُوبِكَ الَّذِي لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

حقائق کے جو مقید ہیں ساتھ نسبت کے طرف غیب کے تیرے غیوب میں سے کہ نہیں لوٹتا طرف اس

تَعَيَّنُ وَلَا يَهِيلُ إِلَيْهِ وَصَفٌ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ الْأُصُورَةَ

کے کوئی تعین اور نہیں میلان کرتا طرف اس کے کوئی وصف اور نہیں ہے وہ حقیقت مگر تیرے علم

عَلَيْكَ بِذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْإِجْمَالِيِّ الْإِنْدِرَاجِيِّ الْمَشْتَمِلِ عَلَى

ذات و صفات کی صورت اور اوپر طریقہ اجمال و اندراج کے جو مشتمل ہے ان

جَمِيعِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ صُورَةُ الْعِلْمِيَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ لِلشُّيُونِ وَالصِّفَاتِ

تمام حقائق پر جو تیری علمی تفصیلی صورتیں ہیں واسطے تمام شیون کے اور تمام صفات

الْوُجُودِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ مُتَمَيِّزَةً لِكُلِّ صُورَةٍ عِلْمِيَّةٍ مِّنْ غَيْرِهَا

وجودیہ الہیہ اور کونیہ باہم ممتاز ہیں ہر ایک کے لیے دوسری سے مختلف صورت ہے

فَالصُّورَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ هِيَ جَانِبٌ ظُهُورِيٌّ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ الْعَالِيَةُ كَمَا أَنَّ

تو تمام صور تفصیلیہ اس حقیقت عالیہ کی جانب ظہور ہیں جیسے کہ تیری احدیت اس کی جانب

أَحَدِيَّتِكَ جَانِبٌ بَطُونِيٌّ وَتِلْكَ الْحَقِيقَةُ بَرَزَخِيَّةٌ بَيْنَ الْبَطُونِ وَالظُّهُورِ

بطون و خفاء ہے اور وہ حقیقت برزخ و واسطہ ہے احدیت کے بطون اور واحدیت کے ظہور کے

الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَأْحِدِيَّةِ ثُمَّ تَجَلَّتْ بِصُورَةٍ ظُهُورِيَّةٍ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ وَظِلِّهَا

درمیان پھر تو تجلی فرما ہوا اس حقیقت کے ظہور والی صورت کے ساتھ اور اس کے ظل و پرتو کے ساتھ

الَّذِي يُسَمَّى بِالْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْوُجُودِ الْعَامِّ وَهَذَا الظِّلُّ بَرَزَخِيٌّ

جس کو حقیقت انسانیہ اور وجود عام کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ظل و عکس و برزخ ہے

الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ وَالْأَلُوْهِيَّةِ وَالْعِبُودِيَّةِ فَيَشْتَمِلُ سَائِرَ الْحَقَائِقِ

وجوب و امکان اور الوہیت و عبودیت کے درمیان پس شامل و محیط ہے تمام حقائق کو

إِلَهِيَّةٌ كَانَتْ أَوْخَلْقَانِيَّةٌ وَفِي هَذَا الْبُرْزُخِ تَحَقَّقَتِ الْحَقَائِقُ كَالْمَعْلُومَاتِ

النبیہ ہوں یا مخلوق والے۔ اور اسی برزخ میں۔ محقق ہیں تمام حقائق اور

تَمَيَّزَتْ بِهِ الْوُجُوهِيَّةُ عَنِ الْإِمْكَانِيَّةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اسی سے ممتاز ہوئی وجوہیت امکانیت سے۔ پاک ہے تو اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخَاطِبِ يَقُولُ مَنْ أَيْدَا اللَّهُ بِرُوحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مخاطب ہیں اس قول کے جو قول ہے ان کا جنہیں اللہ تعالیٰ

الْقُدْسِ مِنْ عُنْدِهِ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لُبًّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

تے تائید بخشی روح القدس کے ساتھ اپنے پاس سے بیشک ہم نے وحی نازل کی طرف تمہارے جیسے وحی نازل کی طرف نوح کے اور ان کے بعد

بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والے انبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر جو محبوب کہ بند مرتبت نبی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَالْأَكْبَرِ

آل پر جو محبوب کہ راز مخفی ہیں اسماء حسنی کا۔ اے اللہ بظہیر تیرے اسم اعظم اور اسماء

الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الْكُبْرَى وَكَتَبِكَ الْعُظْمَى وَصُحُفِكَ الْعُلَى

حسنی اور بند شان صفات اور عظیم کتب اور عالی شان صحف کے اور

نَعْوَتِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَشِبَائِلِ رَسُولِكَ الْمَجْتَبَى اجْعَلْ لَنَا

بظہیر اپنے نبی مصطفیٰ کی صفات عالیہ کے اور رسول مجتبیٰ کے خصائل کے بنا دے ہماری ان

الصَّلَوَاتِ مُفْرَحَاتٍ لِقُلُوبِنَا مَا نَبْعَاتٍ لِمُهْلِكَاتِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

صلوات کو موجب فرحت ہمارے قلوب کے لیے اور مانع ہماری ہلاکتوں سے اور باعث ہماری کامیابیوں کا

مَا حَيَاتٍ لَنَا نُوْبِنَا مُكْفِرَاتٍ لِسَيِّئَاتِنَا تَرَاتِ لِقَوْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

شانے والی ہمارے گناہوں کی۔ دور کرنے والی ہمارے سیئات کی بردہ پوشی کرنی والی ہمارے عیوب کی۔ بڑھانے والی ہماری نیکیوں کی

تَاَصْرَاتٍ عَلٰی اَعْدَانَا وَفَاتِحَاتٍ لِّمَهْمَاتِنَا فِي الدَّارِ الْاٰخِرَةِ وَمُبْرَعَاتٍ لِّقُبُورِنَا

مدرکار ہمارے لیے اعداء کے خلاف اور کھولنے والی ہمارے لیے مہمات کے دروازے دونوں جہانوں میں۔ بھلائی کی موجب ہوں ہماری

وَقَائِدَاتٍ اِلَى اللّٰهِ لِلصّٰلِحِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قیروں میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں صالحین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَثْنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عِنْدَ اٰخْتِصَاصِهِ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی نیتا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کے ساتھ وقت مختص فرماتے ان کے ساتھ

بِقُرْبِهِ اَمَّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنے قرب کے ایمان لائے رسول ساتھ تمام ان امور کے جو نازل کئے گئے ان پر رب کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ بَادَرَتْ الْمَلٰٓئِكَةُ بِقَوْلِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے جلدی کی ملائکہ نے اس قول و اقرار میں

لَمَّا عَلِمُوْا اَنَّهٗ حَبِيْبُهُ وَخَلِيْلُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

جب جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و خلیل ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک

لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ نَادَا اَهْلَ مَوْلَاهُ تَلْذِذًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پکار کر کہا ان کے مولیٰ نے لطف اندوز ہونے کے لیے

بِالْوَصَالِ الْعَالِيْ وَجَزْمِ مَقَامِ الشَّرْفِ الْعَالِيِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ساتھ قیمتی وصل کے اور گزر جائے شرف عالی کے مقام سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَنْبَاَهُ اللّٰهُ بِمَا كَانَ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی گذرے ہوئے امور کی

بِمَا يَكُوْنُ وَاَطَّلَعَهُ عَلٰى سِرِّ الْغَيْبِ الْمَكْنُوْنِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

وہ آتے والوں کی اور مطلع فرمایا ان کو مخفی غیب کے اسرار پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَصَفَّحَ صَفْحَاتِ السِّرِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے ملاحظہ کیا ایک ایک کر کے سرِ محفّی کے صفحات کا

المُسْتَوْرٍ وَتَلَدَّ ذِي إِطْلَاعِهِ عَلَى الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور لطف اندوز ہوئے کتابِ مسطور پر اطلاع کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِأَنْوَاعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو بطور تحفہ دیں اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی

الْكَرَامَاتِ وَخَصَّهُ بِفَرُضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کرامات اور بزرگیاں اور مخصوص ٹھہرایا انہیں پانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُفَّتْ عَلَيْهِ عَرَائِيسُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی طرف بھیجا گیا صلواتِ خمسہ والی

خَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَىٰ مَنْصَّاتِ الْخَلَوَاتِ وَالْجَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دلہنوں کو خلوتوں اور جلوتوں کی جلوہ گاہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوَّلَ عَرُوسٍ جَلِيَّتٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی دلہن جس کو آشکارا کیا گیا

عَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِ الْبَعْدُ وَدَّةِ صَلَوَةِ الْفَجْرِ الْمَشْهُودَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان پر ان پانچ شمار کردہ دلہنوں سے تو وہ صلوٰۃ فجر تھی جس میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ دن اور رات والے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر آشکارا کی گئی

الظُّهْرُ وَهِيَ ثَانِيَةُ الْأُولَىٰ قَدْ كَسَتْ صَاحِبَهَا رِضًا وَسُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ ظہر جبکہ وہ دوسرے درجہ میں تھی جس نے پہنائی اپنے ادا کرنے والے کو خلعتِ رضاء اور حصولِ مقصود کے

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر جلوہ ظاہر کیا گیا

ثَالِثَةُ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ الْوَسْطَى مِنْ تَرْكِهَا إِثْمٌ وَأَخْطَا اللَّهُمَّ

تیسرے مرحلہ میں نماز عصر کا کہ جس نے اسے ترک کیا گناہگار اور خطا کار ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتُ عَلَيْهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ظاہر کی گئی ان پر

الْمَغْرِبُ رَابِعَةٌ مَامَضَى مُبَشِّرَةٌ بِالْفَوْزِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نماز مغرب چوتھے درجہ میں پہلی تین سے درآخا لیکہ وہ بشارت دینے والی ہے کامیابی اور حصول رضا کی۔ اے اللہ صلوات و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتُ عَلَيْهِ خَامِسَةٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر آشکار کیا گیا قیمتی موتیوں سے پانچواں

الدُّرِّ الْفَاخِرَةِ وَهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

موتی اور وہ صلوات عشاء ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتُ عَلَيْهِ تِلْكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر کئے گئے یہ نفیس جواہر

النَّفَائِسُ وَتِلْكَ ذِمَّتُكَ الْوَحْدَةُ بِمَحَاسِنِ تِلْكَ الْعَرَائِيسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور لطف اندوز ہوئے مقام تفر دو اختصاص میں ان عرائس کے محاسن کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَّقَى مَا فُتْرَضَ عَلَيْهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے قبول کیا اپنے رب کے

رَبِّهِ بِالْقَبُولِ وَنَالَ مِنْهُ بِذَلِكَ السُّؤْلِ وَالْبَأْمُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرائض کو اور پایا اس وجہ سے اس کی بارگاہ سے مطلوب و مأمول۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّرَ عَيْنِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور

كَانَتْ لِأُمَّتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَصَلَّوَاتِ اللَّهِ أَرْحَمَنَا وَاغْفِرْ لَنَا

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات (کی موجب بخنی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام

بِرُحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ بِمَغْفِرَتِكَ الْكَامِلَةِ إِلَهِي لَكَ الْحَمْدُ تَقَحَّصْتَ

کے ساتھ اور مغفرت فرما اپنی مغفرت کاملہ کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے میں تکلف و اہل

أُودِيَةَ الْهَلَاكِ وَحَلَلْتُ شِعَابَ تَلْفٍ تَرْضِيَتْ فِيهَا لِسُطُوَاتِكَ

ہو گیا ہوں ہلاکت کی وادیوں میں اور اتر گیا بربادی کی گھاٹیوں میں راضی ہو چکا میں ان میں تیری سطوتوں پر

وَلِحُلُولِ عُقُوبَاتِكَ وَوَسِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ وَذُرِّيَعَتِي أَنِي لَمْ

اور تیری عقوبتوں کے نزول پر اور میرا وسیلہ تیری بارگاہ میں صرف عقیدہ توحید ہے اور میرا ذریعہ صرف یہ

أَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ الْهَاتِ وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَإِلَيْكَ

ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا اور الہ اختیار نہیں کیا اور میں نے دوڑا یا ہے طرف تیرے اپنے نفس

مَفْرُ الْمَسِيءِ وَمَفْرَعُ الْمَضِيِّ لِحِطِّ نَفْسِهِ الْمَلْتَجِي فِكُمْ مِنْ عَدُوِّ

کو اور تیری طرف ہی جانے فرار ہے ہر خطا کار کی اور جانے پناہ ہے اپنے نصیبوں کو برباد کرنے والے طالب پناہ کی۔ کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے

أَنْتَضَى عَلَى سَيْفِ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِي طَبَّةَ مَدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شِبَا

سونت رکھی ہے مجھ پر عداوت کی تلوار اور تیز کر رکھی ہے اپنی چھریوں کی دھار اور تیز کر رکھی ہے

حَدَّهِ وَدَافَ إِلَى قَوَاتِلِ سُبُومِهِ وَسَدَّ دَنْجُومِي صَوَائِبَ سَهَابِهِ وَلَمْ

ان کی دھار اور پہنچانی ہیں مجھ تک قتل کرنے والی زہریں اور مضبوطی سے لٹب کئے ہیں میری جانب اپنے نشانہ پر لگنے والے

تَنَمَّ مَتْنِي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْبُكْرُوهَ وَيَجْرِعَنِي زُعَاقَ

نیر اور نہیں سونی مجھ سے اس کی تاک والی آنکھ اور دل میں پوشیدہ کر رکھا ہے مجھے شدائد سے دوچار کرنے کا عزم اور کھونٹ کھونٹ کر کے پلاٹے

مِرَارَتِهِ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِمْ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے غم و غصہ کا کڑوا پانی جس کو تو نے دیکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرْبَتِهِ فِي الْقَدَائِبِ وَقَدْ أَحْرَقَ فِي الْأَقْدَامِ وَكُونَهُ فِي

آل پر اور آپ کی مشک پر مشکیزوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور جام پر

الْكِيْزَانِ وَكُوْبِهِ فِي الْأَكْوَابِ وَمَشْرَبَتِهِ فِي الْمَشَارِبِ وَصُورِهِ فِي

جاموں میں۔ اور گلاس پر گلاسوں۔ اور ان کے پینے کے برتن پر برتنوں میں اور ان کی صراحی پر

فِي الصُّرَاحِيَّاتِ وَكَاسِهِ فِي الْكُؤُسِ وَصَحْنِهِ فِي الصُّحُونِ وَحَفَّتِيهِ

صراحیوں میں اور ان کے پیالہ پر پیالوں میں اور ان کے چھوٹے پیالہ پر ایسے پیالوں میں اور بڑے پیالے

فِي الصِّحَافِ وَأُمَّهِ فِي الْأَقْمَاتِ وَسَلْفِهِ فِي الْأَسْلَافِ وَخَلْفِهِ فِي

پر ایسے پیالوں میں ان کی والدہ پر جملہ اہمات میں اور ان کے پیش رو پر جملہ اسلاف میں اور جانشین پر

الْأَخْلَافِ وَسَوْمَلْتِهِ فِي السُّومَلَاتِ وَقَصْعَتِهِ فِي الْقِصَاعِ وَقَارُورَتِهِ

جملہ اخلاف میں اور آپ کے بسیدہ کپڑے پر بسیدہ کپڑوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور بوتل پر

فِي الْقَوَارِيرِ وَأَوْقِيَّتِهِ فِي الْأَوَاقِي وَكَيْلِهِ فِي الْأَكْيَالِ وَصَاعِهِ

بوتلوں میں اور آپ کے اوقیہ (چالیس درم کا سکہ) ہر اوقیوں میں اور آپ کے ناپ پر

فِي الْأَصْوَعِ وَمُدِّهِ فِي الْأُمْدَادِ وَرِطْلِهِ فِي الْأَرَطَالِ وَمَعِيشَتِهِ فِي

ناپوں میں اور صاع (چار سیر کا پیمانہ) پر صاعوں میں اور مد (سیر کا پیمانہ) پر مدوں میں اور رطل (آدھ سیر کا پیمانہ) پر رطلوں میں اور آپ کی

الْمَعَايِشِ وَجُوعِهِ فِي الْجُوعَانِ وَحَجْرِ بَطْنِهِ فِي الْأَحْجَارِ وَعُطْبَتِهِ

معیشت پر معیشتوں میں اور بھوک پر بھوکوں میں اور آپ کے پیٹ پر بندھے پتھر پر پتھروں میں اور آپ کی پیاس پر

فِي الْعَطَاشِ وَزَادِهِ فِي الْأَزْوَادِ وَشَرَابِهِ فِي الْأَشْرِبَةِ وَمَشْرُوبِهِ فِي

پیاسوں میں اور آپ کے زادراہ پر زادوں میں اور آپ کے پینے پر پینے کے طریقوں میں اور آپ کے مشروب پر

الْمَشْرُوبَاتِ وَشُرْبِهِ فِي الشَّارِبِينَ وَغِذَائِهِ فِي الْأَغْذِيَةِ وَطَعَامِهِ

مشروبات میں اور آپ کے پینے پر پینے والوں میں اور غذا پر غذاؤں میں اور طعام پر

فِي الْأَطْعَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

طعاموں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا كَوْلَهُ وَأَكْلَهُ وَوَلِيَمَّتِهِ وَنَارَهُ وَمَائِهِ وَحَطْبِهِ وَضَيْفِهِ

پر اور آپ کے ماکول پر اور کھانے پر اور ولیمہ پر اور آگ پانی - ایندھن پر - مہمانوں پر

وَضِيَّافَتِهِ وَرَحِيهِ وَصَلَاتِهِ وَتَوَابِلِهِ وَمَلْحِهِ وَبَصَلِهِ وَإِدَامِهِ فِي

اور ضیافت پر جچی پر اور آپ کی سل پر اور مہالکے پر اور نمک پر اور پیاز پر اور سالن پر

الْأَدْمِ وَخَلِّهِ وَقَلْقَاسِهِ وَقَرْعِهِ وَسَلِقِهِ وَخَضْرَاتِهِ فِي الْخَضْرَاءِ

سائوں میں اور سرکہ پر۔ بہاری سبزیوں پر اور کدو پر اور چکندر پر اور ترکاری پر ترکاریوں میں

وَشَعِيرِهِ فِي الشَّعِيرَاتِ وَرَغِيفِهِ فِي الْأَرْغِفَةِ وَخَبْزِ شَعِيرِهِ فِي الْاِخْتَارِ

اور جو پر جووں میں اور ان کی گندم کی روٹی پر روٹیوں میں اور ان کی جو کی روٹی پر جووں کی روٹیوں میں

وَمَرَاقِهِ فِي الْأَمْرَاقِ وَخَبِيطِهِ فِي الْخَبِيطِ وَتُونِهِ فِي التَّيْنَانِ وَسُفْرَتِهِ فِي

اور ان کے شوربے پر شوربوں میں اور ان کے بھنے ہوئے گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور مچھلی پر مچھلیوں میں دسترخوان

السُّفْرَاءِ وَبَسَلَتِهِ فِي الْمَبْسَلَاتِ وَلَقْمَتِهِ فِي اللَّقْمَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

پر دسترخوانوں میں اور بسم اللہ پڑھنے پر بسم اللہ پڑھنے والوں میں اور ان کے ہر لقمہ پر لقموں میں تمام تعریفیں اللہ کیسے ہیں

أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَنَا وَأَوْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور کفایت فرمائی اور پناہ دی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَحْنِهِ فِي الْأَطْحَانِ وَسَوْبِقِهِ فِي السُّوْبِقِ

اور آپ کی آل پر اور ان کے پسے ہوئے آٹے پر ایسے آٹوں میں اور ستور پر ستوروں میں

وَقَدِيدِهِ فِي الْأَقْدَادِ وَلَحْمِهِ فِي اللَّحُومِ وَحَلْوَائِهِ فِي الْحَلَاوِيِّ

اور خشک گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور تازہ گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور شیرینی پر شیرینیوں میں اور

عَسَلِهِ وَشَحْبِهِ فِي الشُّحُومِ وَزَبْدِهِ وَحَيْنِهِ وَشَبْعِهِ فِي الشَّبَعَاتِ

شند پر اور چربی پر چربیوں میں اور مہن اور پنیر اور سیری پر سیر لوگوں میں

وَلَحْسِ أَصَابِعِهِ فِي الْأَلْحَسِينَ وَحَمْدَلَتِهِ فِي الْحَامِدَاتِ وَخَلَالِهِ

اور انگلیاں چاٹنے پر انگلیوں کو چاٹنے والوں میں۔ اور ان کے الحمد کہنے پر الحمد کہنے والوں میں اور خلال کہنے

فِي الْمَتَخَلِّينَ وَسُورِهِ فِي الْأَسَارِ وَفَاكِهِتِهِ فِي الْفَاكِهَاتِ وَكَلْبِهِ

پر خلال کرنے والوں میں اور ان کے بچے ہوئے کھانے پر بچے ہوئے کھانوں میں اور ان کے پھل پر پھلوں میں اور خشک کھجور

فِي النَّبْرَاتِ وَرُطْبِهِ فِي الْأَرطَابِ وَسَفْرَجَلِهِ فِي السَّفْرَجَلَاتِ وَرَبْدِهِ

پر کھجوروں میں اور تازہ کھجور پر ایسی کھجوروں میں اور ان کی ناشپاتی پر ناشپاتیوں میں اور انجور پر

الْأَعْنَابِ وَخَوْخِهِ وَرُمَّانِهِ وَنَرْبِيَّةٍ وَلَوْنِيَّةٍ وَوَقْشَانِهِ وَ

انجوروں میں۔ اور آرٹو پیر۔ اور انار پیر اور سوگی پیر۔ اور بادام پیر۔ انجیر پیر۔ اور گلڑی پیر اور

تَوْتِهِ وَحَبْحَبِهِ فِي الْحَبَابِ وَبِطِيخِهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا

آپ کے توت پر۔ اور قیس پانی پر ایسے پانیوں میں اور ان کے تربوز پر۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے پھلوں میں

وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ

اور برکت عطا فرما ہمارے مدینہ میں اور برکت عطا فرما ہمارے پیمانے (سیر) میں۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے

اَطْعَمَنَا خَيْرًا مِّنْهُ وَزِدْنَا مِنْهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَاَوَانَا وَ

اس میں (جو کھلایا ہے) اور کھلایا ہے اس سے بہتر اور اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات

اَرُوْنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي

فرمائی اور ہمیں پناہ دی اور سیراب فرمایا اور انہیں لیکر اس سے بے نیازی ہے اور نہ اس کی ناشکر گزاری۔ اے اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے میرے

وَرَحْمَتِكَ اَرْجِيْ مِنْ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتُوبُ اِلَيْكَ مِنْهَا

گناہوں سے اور تیری رحمت زیادہ امید کے لائق ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔ اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں گناہوں سے

لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

میں ان کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى قَرَابَتِهِ فِي الْاَقْرَبَاءِ وَعَشِيرَتِهِ فِي الْعَشَائِرِ وَ

اور آپ کے اہل قرابت پر اقرباء میں اور خاندان پر خاندانوں میں اور

قَبِيْلَتِهِ فِي الْقَبَائِلِ وَنَسَبِهِ فِي الْاَنْسَابِ وَاَهْلِهِ فِي الْاَهْلِيْنَ وَاَصْلِهِ

قبیلہ پر قبائل میں اور نسب پر انساب میں اور اہل پر اہالی میں اور اصل پر

فِي الْاُصُوْلِ وَفُرْعِهِ فِي الْفُرُوْعِ وَكَبْنِهِ وَمَحِيْضِهِ وَسُنْبِهِ فِي الْاَسْمَانِ

اصول میں اور ان کی فروع پر فروع میں اور دودھ پر اور خالص دودھ پر اور گھی پر گھی میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ فَخْرًا مَّفْخَرًا وَسَيِّدًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ عظیم و معظم تھے خوبصورت، حسن سے عظیم حضور

قَسِيْرًا بَعًا مِّنَ الْقَوْمِ لَا بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْبَائِنِ

وصول کرنے والے۔ درمیانہ قدر بہت دراز قامت اور نہ کوتاہ قامت۔ درمیانے قد والوں سے ذرا دراز

مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشْدَبِ مُعْتَدِلٌ الْخَلْقِ حَسْبُ الْحَسْبِ

اور طویل قامت لوگوں سے قدرے کم درازی والے۔ معتدل خلقت والے۔ حسین جسم والے

كَانَتْ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ لِمُتَعَبِهِ تَجَلَّةٌ وَلَمْ تَذُرْ بِهِ ضَعْفًا

گویا کہ وہ شاخ ہیں درمیان دو شاخوں کے۔ نہ ان کو عیب ناک کیا پیٹ کی بڑائی نے اور نہ نقص پیدا کیا سر کی چھوٹائی نے

بَادِنٌ مُّتَبَاسِكٌ وَكَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ وَأَبْيَضَ وَجْهَهُ يَتَلَاكَ الْقَمَرُ

درمیانے فریب بدن والے بڈیوں سے چپکے مضبوط گوشت والے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا اور چہرہ انور سفید جو چمکتا تھا مانند

فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ مَعَ التَّنْوِيرِ لَا بِالْمُطَهَّرِ

چودھویں کے چاند کے۔ اور آپ کے چہرہ انور میں مناسب گولائی تھی مع نورانیت کے نہ بہت بھاری پر گوشت

وَلَا بِالْمَكْتُمِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي خَلْفَةَ خُلَّةٍ فِي الدَّارَيْنِ وَخَلْعَةً فِي

اور نہ بالکل پچکا ہوا۔ اے اللہ عطا فرما مجھے باقی رہنے والی دوستی دارین میں اور باقی رہنے والی خلعت

الْكُونَيْنِ بِحُلِيَّةِ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ وَحَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ

دونوں جہانوں میں بطفیل سید کونین کے حلیہ مبارک کے اور بطفیل ان کی خلعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو مالک

وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ اللَّهُمَّ تَفَضَّلْ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ إِلَيَّ وَكُنْ لِي

دونوں جانب مشرق و مغرب کا۔ اے اللہ مجھ پر فضل فرما اور میری طرف احسان فرما اور میرا ہوجا میرے

تَكُنْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَبِيَّ وَأَكْشِفْ غَمِّي وَأَهْلِكْ عَذْرَتِي

خلعت نہ ہونا۔ اے اللہ دور فرما میرے تفکر کو اور دور فرما میرے غم کو اور ہلاک فرما میرے دشمن کو اے

وَدُودِ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَدْوَانِي

ودود۔ اے اللہ اور قبول فرما میری نیکیاں۔ اے اللہ بنا اپنے رزق کو وسیع تر

عَلَيَّ عِنْدَ الشَّبَابِ وَكِبَرِ سِنِّيْ وَأَنْقِطَاعِ عُمْرِي

مجھ پر میرے شباب کے وقت اور بڑھاپے اور عمر کے اختتام کے قریب۔ اے اللہ بنا مجھے



صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ

بہت صبر کرنے والا اور بنا مجھے بہت شکر گزار اور بنا مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی

النَّاسِ كَبِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْتَهِدُكَ لِمَرَأَتِي

نظروں میں بڑا۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کیلئے اور تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں اپنے

أَمْرِي وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ

امور میں درستگیوں کی اور پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے اپنے شر نفس سے اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں پس مجھ پر نظر رحمت فرما بیشک

أَنْتَ رَبِّي اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

تو میرا رب ہے۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ اے میرے رب مغفرت فرما

وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ اللَّهُمَّ رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

راہ کو اور مجھے راست ترین راہ پر گامزن فرما۔ اے اللہ اے پروردگار نبی محمد کے صلی اللہ علیہ

وَسَلِّمْ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهَبْ عَنِّي غَيْظَ قَلْبِي وَاجْرِنِي مِنْ

وسلم میرے گناہ بخش اور مجھ سے دور فرما میرے دل کا غضب اور مجھے بچائے رکھ گمراہ

مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

کن فتنوں سے جب تک کہ مجھے زندہ رکھے۔ اے اللہ تو سرِ سلامتی ہے اور تجھ سے سلامتی کی ابتداء و ایجاد

وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ حِينَمَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا فِي دَارِ السَّلَامِ

اور تیری طرف ہی اس کی بازگشت ہے۔ زندہ رکھ ہمیں ساتھ سلامتی کے اور داخل فرما ہمیں دارِ السلام (جنت) میں

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ

بابرکت ہے تو اے رب ہمارے اور بلند شان اے مالکِ جلال و اکرام کے۔ اے اللہ مجھے بخش۔

ارْحَمْنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

مجھ پر رحم فرما۔ اور داخل کر مجھے جنت میں ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْبَتَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی خدمت کے لیے قائم فرمایا

بِخِدْمَتِهِ مُقَرَّبَ الْأَمْلَاكِ وَجَعَلْتَهُ قُطْبًا تَدُورُ عَلَيْهِ الْأَنْجَالُ

مقرب فرشتوں کو اور انہیں ایسا قطب بنایا کہ جس پر تمام افلاک گردش کرتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَجْلَسْتَهُ عَلَى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَسِرِّ التَّمَكِينِ وَخَاطَبْتَهُ

جس محبوب کو تونے بٹھایا عزت کی کرسی پر مطلع کیا راز تمکین پر اور خطاب فرمایا انہیں

لِلرُّشَادِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّيْبِيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رہبری - تسلیم اور اعلان حق کے لیے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُلْتَ لَهُ بِطَرِيقِ التَّجْوِيلِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تونے فرمایا تکریم و تعظیم کے

وَالتَّعْظِيمِ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

طور پر " اور البتہ تحقیق ہم نے دے دی ہیں آپ کو سات آیات جو تکرار کی جاتی ہیں (نمازوں میں) اور قرآن عظیم یعنی سورۃ فاتحہ

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ

فرمادیجئے حقیقت امر من یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ جزیں نیست کہ معبود ہمتارا ایک ہی ہے

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۗ قُلْ هُوَ

تو کیا تم تامل بعداری کرنے والے ہو - فرمادیجئے وہ

اللَّهُ أَحَدٌ ۗ اللَّهُ الصَّمَدُ ۗ لَمْ

اللہ یگانہ ہے - اللہ بے نیاز ہے - اس نے

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ وَلَمْ يَكُنْ

کسی کو جنم نہیں دیا - وہ نہیں جنا گیا - اور نہیں اس کا

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۗ

کوئی ہم پلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الحمد لله المنه
کہ دین زمان سے امتا قرآن ہل
ایر و منان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت پیر محمد
مسکتی بہ

مجموعۃ الرسول

الجزء العاشر ۱۰

فِیْ اَسْرَائِهِ وَمِعْرَاجِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب دہلی

حضرت خواجہ خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِیْنِیْعِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بلند مرتبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلہ سے اور مضبوط و ناقابلِ تسخیر قلعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلہ سے اور شفاعت کرنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے توسل سے

وَبِیْدِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اور انوکھی و عمدہ نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طفیل۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تربیت فرمایا ابے تمام جہانوں کی

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِنَّا کُنَّا لَعِبْدُکَ وَاِنَّا کُنَّا

بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال سے موصوف اتیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہِ راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے

عَلَيْهِمْ غَیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اَمِیْنُ ۝ سُبْحٰنَ

نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ پاک ہے وہ ذات اقدس

الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْدَہَا لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ

جس نے سیر کرائی اپنے بعدِ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد

الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا ۝ اِنَّہٗ هُوَ السَّبِیْعُ

اقصیٰ تک جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ دکھلا میں انہیں اپنی آیاتِ خاص سے بیشک وہ سننے والے

الْبَصِیْرُ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَزَّلَ النَّبِیِّیْنَ بِحَبِیْبِہِ الْمِصْطَفٰی ۝

دیکھنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زینت بخشی انبیاء علیہم السلام کو اپنے حبیبِ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور

مَنْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ بِنَبِیِّہِ الْمَجْتَبٰی الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ

احسانِ عظیم فرمایا۔ اہل ایمان پر اپنے نبیِ مجتبیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی صلوات و سلام ہوں اپنے رسول

مُحَمَّدٌ خَيْرُ الْوَرَى الْمَسِيرِ بِهِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ النَّارِ

محمد خیر الوری پر جن کو سیر (اور مشاہدہ) کرایا گیا عرش کے اوپر رکھا کر کے وہاں اسے زمین کے نچلے طبقے تک

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جو گزر گیا۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جو باقی ہے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى مَدْحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کے رسول محمد پر جو سب مخلوق سے بہتر و برتر ہیں میں نے مدح کی ہے آپ کی یا رسول اللہ صلوات

عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ الَّذِينَ صَلَّوْا وَسَلَّمُوا عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی امی پر تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور ایمان کیساتھ اور

حَشَى اللَّهِ صَدْرَهُ عِلْمًا وَإِقَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

پر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ کو از روئے علم اور یقین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَقَّ جَبْرِيْلُ صَدْرَهُ وَخَتَمَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے شق کیا جبریل نے ان کا مبارک سینہ اور اس کو

وَعَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آب زمزم سے دھویا اور اس پر نورانی مہر لگائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ الْمُسَابِقَاتِ إِلَى الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب سوار ہوئے خیرات کی طرف مسابقتوں کی سواری پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعَ الشَّوْخَالَ بِأَسْبَابِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے قطع کیا مشغولیات کو ساتھ

الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ

بلند ترین درجات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ سوار ہوئے



مُرْكَبِ الْاَمَانِ وَالتَّامِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امن پالنے اور امن دینے کی سواری پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي شَقَّ جَبْرَيْلُ صَدْرَهُ لِلرُّشْدِ وَالْهُدٰى وَانْتَزَعَ مِنْهُ

کہ شق کیا جبرئیل علیہ السلام نے ان کا مبارک سینہ رشد و ہدایت (سے مزید پیری) کیلئے اور نکال دیا قلب مقہوس

عَلَقَهُ سُودًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

کے اندر سے سیاہ گوشت پارہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ نِعْمَةُ اللّٰهِ لَا تَحْصٰى اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود نعمت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اُسْرِيَ بِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سیر کرانی گئی

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

رات کے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ثَبَّحْنَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مضبوط فرمایا ہدایت کا نور حاصل کرنے کے

الْهُدٰى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

مراکز کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي اُسْرِيَ بِهِ وَهُوَ ابْنُ اِحْدٰى وَخَمْسِينَ سَنَةً

کہ جس محبوب کو اسراء کرایا گیا جبکہ وہ اکیاون سال اور

وَتِسْعَةَ اَشْهُرٍ عَدَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نو ماہ کی عمر میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى بِالْاَنْبِيَاءِ فِي الْبَيْتِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نماز پڑھائی انبیاء علیہم السلام کو بیت

الْمُقَدَّسِ وَيَجْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْفَعِ الْمُنْبَرِ وَالْمُجْلِسِ

المقدس میں اور تشریف فرما ہوں گے قیامت کے دن بلندتر مقام اور مجلس میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي أَخَذَ اسْرَافِيلُ بِرِكَابِهِ وَلَاذِمِيكَائِيلُ بِجَنَابِهِ اللَّهُمَّ

جس محبوب کی رکاب تھامی اسرافیل نے اور پناہ پچڑی میکائیل نے ان کی بارگاہ میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب

مَأَلَتْ بِهِ الصَّخْرَةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ شَدَّهَا لَهُ جِبْرَائِيلُ مِنَ الْجَهَةِ

نال ہوا صخرہ بیت المقدس کا ساتھ ان کے شب اسراء تو مضبوط کیا اسے جبریل نے دوسری

الْآخِرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جانب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الصَّخْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مُبَادِرًا

جس نے جب اپنا قدم مبارک رکھا صخرہ مذکور پر جلدی کے ساتھ تو

غَاصَتْ رِجْلُهُ فِيهَا وَلَمْ يَزَلِ الْاَثَرُ إِلَى الْاِنِّ ظَاهِرًا اللَّهُمَّ

آپ کا قدم مبارک اس میں دھنس گیا اور وہ نشان قدم اب تک اس میں ظاہر و محسوس ہوتا ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی تشریف آوری پر مسکرائے

ضَحِكَ اسْرَافِيلُ لَهُ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِأَحَدٍ قَطُّ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ

اسرافیل اور ان سے خیریت دریافت کی حالانکہ کبھی نہیں مسکرائے تھے کسی کے لیے آپ سے پہلے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

رَكِبَ الْبُرَاقَ مَسْرُوجًا مَلْجُومًا وَ اخْتَرَقَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ فَخُصُومًا

سوار ہوئے براق پر جبکہ اس پر زین رکھی ہوئی تھی اور لگام دی ہوئی تھی اور عبور فرمایا اپنے ساتوں آسمانوں

مَكْرُومًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کو انخاص و اکرام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفِيَ فِي السَّمَاءِ بِنُعْلَيْنِ مِنْ نُورٍ يَلْمَعُ وَ كَانَ صَرِيرٌ

پر جو محبوب آسمان پر چڑھے نور کا جو تاپہنے جو چمکتا تھا اور ان کے جوڑے

نُعْلِيهِ بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ يُسْمِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جاتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو معراج کرائی گئی روح اور جسم سمیت اور

وَرَأَى مَا لَمْ يَرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہوں نے دیکھا وہ کچھ جو کسی نبی نے نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ يَقْظَانًا غَيْرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو معراج کرایا گیا بیداری کی حالت میں نہ کہ

نَائِمًا وَ بَدَأَهُ اللَّهُ بِالتَّحِيَّةِ وَ هُوَ إِلَيْهِ قَادِمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نیند کی حالت میں اور آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تحیہ و سلام کا جبکہ آپ اسکی طرف آئے تھے اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى وَ

نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قریب ہوئے پس بہت قریب ہوئے اور

أُنزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مُفْصَلًا وَ خُصَّ بِالْقُرْبِ فِي الْإِسْرَاءِ وَ

نازل کی گئی ان پر تفصیلی کتاب اور مخصوص ٹھہرائے گئے شب اسراء قریب خاص کے ساتھ اور

رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دیکھا آپ نے رب کی بڑی آیات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِّجَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْبَيْتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت

الْمُقَدَّسِ ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى الْبُرَاقِ وَعُرِّجَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ

المقدس تک اور پہلے آسمان تک براق پر اور معراج کرایا گیا انہیں ساتوں آسمانوں تک

الْمَلَائِكَةِ إِلَى السَّبْعِ الطَّبَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ملائکہ کے پروں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَتْ بِهِ رِزَارِفُ الْأَشْفَاقِ إِلَى

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لے اڑیں شفقتوں کی

بِسَاطِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیز رفتار سواریاں ملک خلاق کی بارگاہ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِّجَ بِهِ عَلَى أَسْرَةِ الْبِهَاءِ وَعُرِّجَ

آپ کی آل پر جس محبوب کو معراج کرائی گئی حسن و خوبی کے عرشوں پر اور معراج کرائی

بِهِ عَلَى جَنَاحِ جَبْرِيْلَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گئی انہیں جبرائیل کے پروں پر سدرۃ المنتہی تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِّجَ بِهِ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں معراج کرایا گیا

جَنَاحِ الرَّفْرِ الْكَرِيمِ إِلَى عَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بزرگ رفرف کے پروں پر عرش عظیم تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِّجَ بِهِ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا

جَنَاحِ النَّائِيْدِ الْأَسْنَاءِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عالی شان تائید و تقویت کے پروں پر "قاب قوسین او ادنیٰ" کے قرب تک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوَدِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو نوازدی گئی

سَبْعَ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اَدْنٰ حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٌ لِكَمَالِ الْمَبْرَةِ وَ

سات لاکھ مرتبہ "قرب ہواے میرے حبیب محمد" واسطے کمال احسان اور

الْمَسْرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

مترت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ كَانَتْ الْمَلٰٓئِكَةُ فِيْ مَرْكَبٍ اِلٰى سِرَآءٍ تَرْجُمُ عَلَيْهِ

آل پر کہ جس آقا کے لیے ملائکہ اسراء کے وقت سواری بننے میں ازوجام کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِيْ جُعِلَتْ لَهٗ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ شَبْعَتَيْنِ وَجِبْرٰٓئِيْلُ

جس محبوب کے لیے بنایا گیا سورج اور چاند کو دو شعبتیں اور جبرائیل علیہ السلام

حَامِلُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انہیں اٹھانے والے تھے ان کے آگے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ رَاقِيَ السَّمٰوٰتِ وَاَنْزَلَ الْمَنْزِلَ

اور آپ کی آل پر کہ جو آقا آسمان پر چڑھے اور ان کو اُنارا گیا منزل

الْمُقَرَّبِ وَرَاٰى اُمَّهٗ تَنْظُرُ اِلَيْهِ فِيْ كُلِّ مَوْقِفٍ وَتَتَعَجَّبُ

مقرب میں اور دیکھا آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف ہر موقف میں اور تعجب کرتے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ زُجِرَ فِي التُّوْرِ وَرَفِعَ لَهٗ بَيْتُ الْمَعْمُورِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس محبوب کو آراستہ کیا گیا تور میں اور سامنے کیا گیا ان کے بیت المعمور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُقِيمَ مَقَامُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو قائم کیا گیا عزت اور وفا کے

الْعِزِّ وَالْوَفَا وَوَقَفَ مَوْقِفَ الْكَرَامَةِ وَالرُّفِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

مقام پر اور جو ٹھہرے کرامت اور قرب کی منزل میں - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ آگے گزر گئے

سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَاعْتَلَى وَسَمِعَ خُطَابَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

سدرۃ المنتہی سے اور بلند ہو گئے اور سنا خطاب اللہ بلند شان کا - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سوار

رَكِبَ رَفْرَفَ الْعُلَى طَلِبًا لِلْقُرْبِ مِنَ الْمَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوئے بلند مرتبت رفوف پر مولیٰ تھانے کے قرب کی طلب میں - اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَرَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عبور فرما گئے

سَبْعِينَ حِجَابًا عَلَى الثَّمَامِ غَلْظُ كُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا مِائَةُ

ستر حجابات کو مکمل طور پر کہ جن میں سے ہر حجاب کی موطائی

خُمْسِيَّاتٍ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پانچ سو سال کی مسافت ہے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَرَ الْكَائِنَاتِ وَالْأَسْرَادِ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب آگے گزرے ساری کائنات سے اور عبور کیا

الْحُجُبِ وَالسُّرَادِقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام حجابات اور سرائقات کو - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَ إِلَىٰ قَابِ قَوْسَيْنِ وَهُوَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو نماز ہونے کا قاب قوسین کے قرب پر اور وہ

لَيْسَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَيْبٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

نہیں ہیں غیب (کی خبروں) پر بخیل - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَ بِمُسْتَوَىٰ يُسْمَعُ فِيهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند ہوئے اس مقام تک کہ سنتے تھے اس میں رکابان قدرت

صَرِيرَ الْأَقْلَامِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کی قلموں کی آواز - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عَمُودَ الْكِتَابِ اخْتَلَسَ مِنْ تَحْتِ

آل پر کہ جس محبوب نے مشاہدہ فرمایا کہ کتاب اللہ کے عمود (نور) کو کہ نکالا گیا ہے ان کے ٹیکر کے نیچے

وَسَادَتِهِ وَعُودِيهِ إِلَى الشَّامِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور قصد کیا گیا ہے اس کے شام کی طرف لے جانے کا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّىٰ اللَّهُ لَهُ الْبَيْتَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر فرمایا اللہ نے بیت

الْمُقَدَّسِ وَكَطِفَ يَخْبِرُ أَصْحَابَهُ بِآيَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُمْ

المقدس اور آپ خبریں دینے لگے اپنے ساتھیوں کو اس کی علامات کی حالت آپ بیٹھے

فِي الْمَجْلِسِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہوئے تھے ان کے ساتھ مجلس میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنَ الْقُدُسِ إِلَى مَقَامِ الْعُلَىٰ

آل پر کہ قریب کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے قدس سے مقام علی (عرش) تک

وَجَمِيعِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ تَبَاشَرُ بِقُدُومِهِ وَرُؤْيَاةِ اللَّهِ

اور تمام فرشتے آسمانوں کے خوشیاں منا رہے تھے ان کی تشریف آوری پر اور ان کے دیدار سے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے

رَايَاتُهُ تَخْرُقُ الْعُلَى وَأَعْلَامُهُ انْتَشَرَتْ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى

جھنڈے بندیوں کو پھاڑتے ہیں اور جن کے پرچم لہراتے ہیں ملا اعلیٰ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَبَّأَ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فِي صُورَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ خَلَقَ اللَّهُ

کہ محبوب کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی ان کی صورت بشریہ میں تو پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے

لَهُ صُورَةً عَلَى صُورَةِ أَبِي يَكْرَ تُونِسَةَ فِي أَمَاكِنِ الرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ

ان کے لیے ایک صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صورت پر جو آپ کی مومن تھی روحانی مقامات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

رَفَى الْمِعْرَاجَ فِي عَالِمِ السَّمَوَاتِ وَذَاقَ حَلَاوَةَ الْوَصْلِ وَلَذَّةَ

معراج (نورانی سیڑھی) کے ذریعے چڑھے آسمانوں کے جہان میں اور حاصل کی حلاوت وصل کی اور لذت

الْمُنَاجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ آدَابَ الْعِبَادِيَّةِ فِي حَضْرَةِ

آل پر کہ جس مخدوم کائنات نے سکھائے ملائکہ کو عبودیت کے آداب بارگاہ ربوبیت

الرُّبُوبِيَّةِ وَافْتَرَضَتْ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَوْقَ سَبْعِ سَلَوَاتٍ

میں اور فرض کی گئیں ان پر پانچ نمازیں سات آسمانوں سے اوپر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الذی استَحْيَا مِنْ شَرِّهِ أَنْ يُرَاجِعَهُ وَمَا لِمَسْتُ يَدَا يَدِ امْرَأَةٍ

جس مردن حیا نے شرم محسوس کی اپنے رب سے کہ (پانچ نمازوں کی تخفیف میں) اس سے رجوع کریں اور نہ مس کیا ان کے

قَطُّ لِلْبَيَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت کے لیے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْأَذَانَ بِهَيْئَتِهِ وَصُورَتِهِ فِي

آل پر کہ جس محبوب کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے آذان بمع اپنی ہیئت و صورت کے اپنی

حَضْرَةِ الْوَهَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بارگاہ الوہیت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَازَ كَسْبَ الْكِمَالِ وَعَايِنَ انْشَوَارِ

آل پر کہ جس محبوب نے جمع کیا ہر قابل کسب کمال اپنے اندر اور مشاہدہ فرمائے انوار

الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جلال۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَكَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَكْوَانِ وَصَلَّى إِمَامًا

پر کہ جس محبوب کو مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی چابیوں کا اور جنہوں نے نماز پڑھی بطور امام ہونے

فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ الدِّيَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے اور شہنشاہ جزاء دینے والے کی بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَحَا اللَّهُ لَهُ أَسْتَارَ الْجَلَالِ وَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے پھیلائے اللہ تعالیٰ نے پردے جلال کے اور

سَاقِ اللَّهِ لَهُ مِنَ التُّحَفِ مَا لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ وَلَا نَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہنچائے انہیں ایسے تحائف کہ جنہیں کوئی نہ پائے گا اور نہ ہی کسی نے پائے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَامَ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ (محبت مولیٰ میں) سرگردان ہے

أَوْ دِيَةِ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فناء (فی اللہ) اور بقاء (باللہ) اور غیبت (ذات بخت) اور حضور (وتموذات) کی وادیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْفَسَ فِي بَحَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ غوطہ زن ہوئے انوار احدیت کے

أَنْوَارِ الْأَحْدِيَّةِ بِأَسْرَارِ الْأَوْهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سمندروں میں اسرار الوہیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ الْمَسَابِقَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب سوار ہوئے خیرات کی طرف

إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَطَعَ الشَّوَاغِلَ عَلَى أَسْبَابِ الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ

مسابقتوں کی سواری پر اور قطع فرمایا مشغول و مصروف رکھنے والے اسباب کو عالی درجات سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

رَكِبَ مَرْكَبَ الْأَمَانِ وَالْتِمَامِينَ وَرَفَعَ مَقَامَهُ فِي عُلَى

سوار ہوئے امن پانے اور امن دینے کے مرکب پر اور بلند کیا گیا مقام ان کا اعلیٰ

عَلِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علیین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ التَّقْدِيمِ وَالْإِقْدَامِ لِمَنَاجَاتِ الْمَلَائِكَةِ

جو محبوب سوار ہوئے آگے لے جانے اور آگے بڑھنے والے مرکب پر واسطے ملک مناجات کی مناجات

الْعَلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہمکلامی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ التَّخْصِصِ وَالْعِنَايَةِ وَاقْتَعَدَ سَكَّامَ الدَّرَجَاتِ

جو محبوب سوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے اختصاص و عنایت کے مرکب پر اور بیٹھے رشد و ہدایت کے

الْهِدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اعلیٰ مقام پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ جَنَاحَ التَّائِيْدِ وَرَفِيَ مَرَاقِي الْعِزِّ وَالتَّائِيْدِ اللَّهُمَّ

پر جو محبوب سوار ہوئے توفیق خداوندی کے پروں پر اور بلند ہوئے عزت و تائید کی سیڑھیوں پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَدَى

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے اوڑھی

رِدَاءَ الْأَمْنِ وَالْعُلَاوَزِ اذْ رَفَعَهُ وَعُلَا عَلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ

چار امن اور برتری کی اور بڑھ گئے از روئے رفعت و علو کے ملکوت اعلیٰ سے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَبْشَرَ بِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی وجہ سے خوش ہو گئے

أَقْطَارَ السَّمَوَاتِ لَهَا أُسْرَى بِهِ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَالْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّ

آسمانوں کے اطراف و اکناف جبکہ انہیں معراج کرایا گیا اعلیٰ مقامات تک اور پہنائی انہیں اللہ تعالیٰ نے پوشائیں

الْبَهَاءِ وَالْبَحَامِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حسن و خوبی اور تعریف و ثناء کی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي يُسْتَبَلُّ تَحْتِ لَوَائِحِهِ كُلِّ حَامِدٍ وَخَلَعِ عَلَيْهِ الْمَلِكِ

آل پر کہ جس محبوب کے لواء الحمد کے نیچے سایہ حاصل کرے گا ہر حمد کرنے والا اور خلعت بختی انہیں ملک

الْمَعْبُودِ خَلَعِ الرَّضَى وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معبود نے رضا و پسندیدگی اور جود و کرم کی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَاحَتْ لَهُ لَوَائِحُ الْبُرُوقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے ظاہر ہوئیں چمکتی بجلیاں

وَلَوَائِعُ الْأَنْوَارِ وَظَهَرَتْ لَهُ طَوَائِعُ الْمَشَاهِدَاتِ وَالْأَسْرَارِ

اور روشن انوار اور ظاہر ہوئے ان پر مشاہدات کے آفتاب و ماہتاب اور

الشُّرُوقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دیکتے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَشَفَ اللَّهُ لَهُ عَالَمَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ

پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا عالم ملکوت کو اور انہوں نے مشاہدہ کیا انوار

الْجِبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبروت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي وَطَّئَتْ لَهُ بِسَطَ الْجَلَالِ وَمُهَّدَتْ لَهُ أَكْنَافَ الْقَبُولِ

کہ جس محبوب کے قدموں میں بچھائے گئے جلال و بزرگی کے بچھونے اور پھیلائے گئے ان کے لیے قبولیت

وَالْإِقْبَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور نیک بختی کے پہلو اور آغوشیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي صَيَّغَ مِنَ الْجَلَالِ وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَنَبْرَهَا

آل پر کہ جو محبوب ڈھالے گئے عنصر جلال سے اور دیکھا سدرۃ المنتہیٰ کو اور اس کے پھولوں کو

كَالِقَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مانند مثلوں کے (بڑائی میں)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالثَّبَاتِ حِينَ رَأَى عَطَاةَ

آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ثبات قدمی جبکہ مشاہدہ فرمایا عظیم ترین

الْمَخْلُوقَاتِ السَّبْعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَدَوَاهِمَهُنَّ

مخلوقات کا ساتوں آسمانوں اور زمینوں والی کا اور ان کے علاوہ کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے قدموں میں بچھائے

لَهُ بِسَاطِ الرَّبُّوبِيَّةِ يَا قَدْ أَمَرَهُ وَأَحْرَمَتْ الْمَلَائِكَةُ

گئے بچھونے تربیت اور شائستگی کے ان کی آمد پر اور احرام باندھا ملائکہ نے ان کے احرام باندھنے پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُفِّفَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے طفیل ہلکا کر دیا گیا

بِهِ الْعَذَابُ عَنِ الْكُفَّارِ حِينَ اَظْلَعَهُ عَلَى النَّارِ وَخُفِّفَ بِهِ الْعَذَابُ

کفار پر سے عذاب جبکہ انہوں نے مشاہدہ فرمایا آتش ووزخ کا اور ہلکا کر دیا گیا ان کی بدولت

الْوَاصِبُ عَنْ عَمَّةِ اَبِي طَالِبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

دامی عذاب ان کے چچے ابو طالب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُفِّفَ بِهِ الْعَذَابُ عَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل کم کر دیا گیا عذاب

اَبِي لَهَبٍ لِّعِتْقِهِ الْوَلِيْدَةَ الَّتِي بَشَّرْتَهُ بِوَلَادَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ابولہب سے بسبب اس کے آزاد کرنے کے اس لونڈی کو جس نے اسے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَاَلَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب سے مطالبہ کیا

الْبِرَاقُ اَنْ يَّشْفَعَ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

براق تے کہ اس کے لیے شفاعت فرمادیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا مَرَّ عَلٰی نَبِيٍّ وَّ لَا مَلِكٍ اِلَّا رَحَّبَ

اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب نہ گزرے کسی بھی نبی اور فرشتہ پر مگر سب نے

بِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آپ کو مرجھا کہا اور سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ عَجِيْبَةً اِلَّا اَظْلَعَهُ عَلَيْهَا

آل پر کہ نہیں تھی آسمانوں میں کوئی عجیب شئی مگر آپ اس پر مطلع ہوئے اور

وَلَمْ تَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ مُنْحَةً غَرِيْبَةً اِلَّا وَصَلَّ اِلَيْهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

نہیں تھا کوئی انوکھا عطیہ مگر آپ اس تک پہنچے اور اسے حاصل کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَعِيثِ الْمَعْرُوفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفْتُبَارُونَكَ عَلٰى مَا يَرَوْنَ وَالْمَلَائِكَةُ

اس قول سے "نہیں جھٹلایا دل نے جو انہوں نے دیکھا کیا تم ان کے ساتھ جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتے ہیں اور البتہ

رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُلُوبَنَا مَعْمُورَةً بِالْبَيْتِ

دیکھا انہوں نے اسے دوسری دفعہ اترتے ہوئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما بظہیر بیت معمور

الْمَعْمُورِ بِمَعَارِفِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَأَرْوَاحَنَا مَنُورَةً بِأَنْوَارِ السَّيِّئَةِ

کے ساتھ اپنے محبوب کے علمی معارف کے اور ہمارے ارواح کو منور فرما ان کے عالی شان انوار کے ساتھ

وَعُقُولَنَا تَابِعَةً لِّمَا مَوْرَاتِهِ وَنَفُوسَنَا حُجُورَةً بِمَنْهِيَّاتِهِ

اور ہمارے عقول کو آپ کے فرمودات کے تابع بنا اور ہمارے نفوس کو آپ کے منہیات کے ذریعے مجبور ٹھہرا اور

وَأَبْدَانَنَا مُنْقَادَةً لِّعَظِيمِ ذِكْرِكَ الْهُدَىٰ مَا أَحْيَيْتَنَا أَبَدًا اللَّهُمَّ

ہمارے بدنوں کو فرمانبردار بنا آپ کی اس عظیم ہدایت کا جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے۔ اے اللہ

اجْعَلْ حَيَاتِنَا عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَمَوْتِنَا عَلَىٰ مَوْتِهِ وَاجْعَلْهُ حَيَاتِنَا

بنا ہماری زندگی آپ کی سنت کے مطابق اور ہماری وفات آپ کے وصال کے موافق اور بنا آپ کو ہماری التجاؤں کو قبول

فِي الْبُرْزَخِ عِنْدَ السُّؤَالِ وَشَفِيعًا لَّنَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

زمانے والے برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن عذاب الیم

النَّكَالِ وَعَظِيمِ الْإِهْوَالِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَّنَا مَجِيدًا مِّنْ عَدَدِ أَرْوَاحِنَا

اور عظیم ہولنا کیوں سے۔ اے اللہ بنا انہیں ہمارے لیے پناہ دینے والے تیرے

وَعِقَابِكَ وَاجْعَلْ لَّنَا جَارًا فِي دَارِكَ وَمِنْ عَمَلِنَا مَا يَنْجِي

عذاب اور عقاب سے اور بنا آپ کو ہمارا پرطوسی اپنے دار ثواب میں بغیر کسی عذاب اور

امْتِحَانٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا مَغِيثُ يَا قَابِلُ السُّؤَالِ اللَّهُمَّ

امتحان کے اے مہربان۔ اے محسن۔ اے فریاد رس۔ اے توبہ قبول کرنے والے۔ اے اللہ

مَتَّعْنَا بِشُهُودٍ طَلَعَتْ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَيْسًا فِي

ہمیں نفع اندوز فرما ان کے چہرہ زیبیا کی زیارت کے ساتھ دارین میں۔ اے اللہ انہیں بنا ہمارے لیے مونس

الْكَوْنَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَةِ فِي الْبِدَايَةِ وَ

دونوں جہانوں میں۔ اے اللہ ہمیں بنا ان کے ہاں عنایت کے لائق ابتداء اور انتہاء

النِّهَايَةِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاتَّوَسَّلُ بِكَ يَا إِلَهِي فِي

میں آمین یا رب العالمین اور میں ان کے ساتھ توسل کرتا ہوں اے میرے الہ

الْبَعْدِ عَنْ كُلِّ لَأِيٍّ وَأَسْأَلُكَ الْقُرْبَ إِلَيْكَ وَالْإِعْتِمَادَ عَلَيْكَ

دور رہنے میں ہر اس شئی سے جو لہو و لعب میں ڈالنے والی ہے۔ اور سوال کرتا ہوں قرب کا طرف تیرے اور اعتماد کا اور تیرے

إِلَهِي بَسَطْتَ إِلَيْكَ يَدَ الْفَاقَةِ وَالْإِفْتِقَارِ وَجَدْتُ بِحَالَةِ الدَّلِّ

اے اللہ میں نے بھیلایا ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ فاقہ اور افتقار کا اور میں حاضر ہوا ہوں عجز و انکساری کی حالت کیساتھ

وَالْإِنْكَسَارَ وَقَدْ وَقَفْتُ بِالْبَابِ وَتَوَسَّلْتُ بِالْأَحْبَابِ فَاجِبُ

اور کھڑا ہوں تیرے در پر اور وسیلہ بنایا ہے تیرے احباب کو پس قبول فرما

سَوَالِي وَلَا تُخَيِّبْ أَمَالِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ لَهْمِنَ التَّابِعِينَ

میرا سوال اور نہ رسوا فرما میری آرزوں کو۔ اے اللہ بنا دے ہمیں اپنے فضل سے ان کے تابعدار

وَالِي سُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ مِنَ الْمُقْتَفِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ

اور ان کی سنت اور طریقہ پر چلنے والے اور ان کے حوض کوثر پر وارد ہونے والوں سے

وَالِي قَدَمِهِ مِنَ الْوَاصِلِينَ وَبِحُبِّكَ وَحُبِّهِ مِنَ الْمَشْغُولِينَ

اور ان کے قدموں تک پہنچنے والوں سے بنا۔ اور اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت میں مشغول ہونے والوں سے بنا

وَالِي طَلَبِكَ قَاصِدِينَ وَفِيهَا عِنْدَكَ رَاغِبِينَ وَإِلَيْكَ مُتَوَجِّهِينَ

اور اپنی طلب کا قصد و عزم رکھنے والوں سے اور اپنے ہاں موجود نعمات میں رغبت رکھنے والوں سے اور اپنی طرف متوجہ فرما

وَعَلَى مَا يَرْضِيكَ مُقْبِلِينَ وَعَسْنُ لَا يَرْضِيكَ مُنْقَطِعِينَ وَ

اور جو امرتھے راضی کرے اس پر قائم رہنے والوں سے بنا اور جو نکتھے راضی نہ کرے اس سے منقطع ہونے والوں سے بنا اور

بِكَ مُتَوَلِّعِينَ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَكَ شَاهِدِينَ وَبِمَا عَطَيْتَنَا

اپنی ذات کا شوق وافر رکھنے والوں سے اور ہر شئی میں اپنی ذات کا شاہدہ کرنے والوں سے بنا اور جو تو نے عطا کیا اس پر

رَاضِينَ وَفِي جَمَالِكَ مُسْتَعْرِقِينَ وَفِي كَمَالِكَ مُسْتَهْلِكِينَ

راضی ہونے والوں سے اپنے جمال میں مستغرق ہونے والوں سے اور اپنے کمال میں غانی ہونے والوں سے

وَبِجَمَالِكَ عَارِفِينَ وَبِكُلِّ نَاطِقٍ لَكَ سَامِعِينَ وَبِكُلِّ مُبْصِرٍ

اور اپنے جمال کا عرفان رکھنے والوں سے بنا اور اپنی گفتگو کرنے والوں کا سامع بنا اور اپنی ذات کی بصیرت رکھنے والوں کا

لَكَ مُبْصِرِينَ وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَمَّنْ وَسِعَكَ وَفِي كُلِّ مَظْهَرٍ

دیدار کرنے والا بنا اور بنا ہمیں اے اللہ ان مقبولان بارگاہ سے جو تیری گنہگار رکھتے ہیں اور تیرے ہر مظہر کی

لَكَ فَلَمْ يَنْكَرْكَ فِي شَيْءٍ صَدَّرَ عَنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مَظْهَرٍ

پس نہیں انکار کیا انہوں نے تیرا کسی بھی ایسی شئی میں جو تجھ سے صادر ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

رِضَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ عَلَيَّ قُرَّةَ عَيْنٍ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

رب العالمین کی رضا کے مظہر اتم پر اور صلوٰۃ نازل فرما اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر

وَتَقَبَّلْنَا بِجَاهِهِ آمِينَ ط وَأَسْأَلُكَ بِهِ مِنَ الرَّفِيقِ أَحْسَنِهِ وَ

اور ہمیں قبول فرما بطویل ان کی عزت و حرمت کے آمین اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان کے طفیل خوبترین رفیق کا اور

مِنَ الطَّرِيقِ أَسْهَلَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ أَصْلَحَهُ

آسان تر راستہ کا۔ اور نافع ترین علم کا اور موزوں ترین عمل کا اور کشادہ ترین

وَمِنَ الْمَكَانِ أَفْسَحَهُ وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدًا وَمِنَ الرِّزْقِ

مکان کا اور خوشگوار ترین گزران کا اور پاکیزہ ترین اور وسیع ترین رزق کا

أَطْيَبَهُ وَأَوْسَعَهُ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ يَا وَاحِدًا

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہمیں داخل کرے ان کے دروازہ سے اے واحد

يَا أَحَدًا إِلَى حَضْرَةِ الْهُدَايَةِ وَالْإِهْتِدَادِ يَا مُهْدِيَّ وَأَنْ تُدْخِلَنَا

اے احد طرف بارگاہ ہدایت و اہتداء کے اے ہدایت دینے والے اور داخل فرمائے ہمیں

مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ يَا سَامِعَ السِّرِّ وَالتَّجْوَى وَأَنْ تُدْخِلَنَا

ان کے دروازہ سے اپنی بارگاہ کی طرف اے سننے والے مخفی اور آشکار کے اور شرف باریابی بخشے

مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ

انہیں والے دروازہ سے اپنی بارگاہ خاص میں اے احکم الحاکمین اور شرف باریابی بخشے انہیں والے

بَابِهِ إِلَى حَضْرَةِ الْعِيَانِ وَالكِفَاحِ وَأَسْقِنَا مِنْ يَدِهِ شَرْبَةً

باب رحمت سے طرف بارگاہ شہود اور عیان کے اور پلائے ہمیں ان کے دست کرم سے خوشگوار

هَنِيئًا لَا نَنْظُرُ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَدْخِلْنَا مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ

شریت کہ جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں اور حاضری کا شرف بخش ہمیں انہیں والے دروازہ سے اپنی بارگاہ کی طرف

بِسْمِكَ وَكَرَمِكَ يَا مَنَّانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنے احسان اور کرم کے ساتھ اے احسان فرمانے والے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى رَبَّهُ رُءْيَا عَيْنٍ بِلَا حِدٍّ وَلَا آئِينَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا اپنے رب تعالیٰ کو چشم سر کے ساتھ بلا جہت و حد اور بغیر مکان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي رَأَى رَبَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَمَّا

جس محبوب نے دیکھا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جبکہ وہ محبوب علیہ السلام بہت حسین صورت میں تھے اور

بُغَيْبَتِهِ وَسُرُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ نے دکھلایا انہیں ان کا مقصد اور سرور اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى جِبْرِيلَ وَلَهُ سُبْحَانَهُ جَنَاحٍ فِي صُورَتِهِ

کہ جنہوں نے دیکھا جبرئیل علیہ السلام کو ساتھ قوت انسانیہ بشریہ کے جبکہ اس کے چھ سو پر تھے اس کی

الرُّوحَانِيَّةِ بِالقُوَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صورت روحانیہ نورانیہ میں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَالِدِ الْأَحْمَرِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا ملک الموت علیہ السلام کو حالت اختصار سے قتل

وَرَأَىٰ إِسْرَافِيلَ مُلْتَقِمًا بِفِيهِ الصُّورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور دیکھا اسرافیل علیہ السلام کو منہ میں لیے ہوئے صور کو۔ اے اللہ (صلوٰۃ) اور سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مَلَكَ الْحِجَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا حجاب عظمت والے فرشتے کو

عَلَىٰ عُلُوِّ مَنْزِلِهِ وَرَأَىٰ مِيكَائِيلَ وَالْعَرْشَ عَلَىٰ كَاهِلِهِ اللَّهُمَّ

باوجود اس کے علو منزل کے اور دیکھا میکائیل علیہ السلام کو در آغوش عرش خداوند تعالیٰ ان کے کندھے پر تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

رَأَىٰ الْخَزَنَةَ وَالزَّبَانِيَةَ وَرَأَىٰ حَمَلَةَ الْعَرْشِ الثَّمَانِيَةَ اللَّهُمَّ

دیکھا جنت کے خزانوں اور دوزخ کے موکل ملائکہ کو اور عرش کے حامل آٹھ فرشتوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا

الْحَوْضَ الْكَوْثَرَ وَرَأَىٰ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ

حوض کوثر کو اور دیکھا جنت میں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سنا اور نہ کھٹکا کسی بشر کے دل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ النَّيْلَ وَالْفُرَاتَ

محمد پر اور ان کی آل اظہار پر کہ جس محبوب نے دیکھا نیل اور فرات

يَجْرِيَانِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوہتے ہوئے آسمانوں سے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ وَرَأَىٰ الْحِجَابَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا جو شش دلائے ہوئے سمندر کو اور مشاہدہ کیا حجاب

الْأَعْظَمَ وَالنُّورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اعظم اور نور کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ بَحْرَ الْحَيَوَاتِ وَرَأَىٰ مَوْقَاتَ السَّمَوَاتِ

پر کہ جس محبوب مکرم نے دیکھا بحر حیوات کو اور مشاہدہ فرمایا آسمانوں کی مقدار کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے

رَأَىٰ النَّارَ يَحِطُّ بِبَعْضِهَا بَعْضًا وَرَأَىٰ أَهْلَ النَّارِ وَتَفَاوُتَهُمْ

دیکھا آتش دوزخ کو کہ توڑتی اور مغلوب کرتی تھی اس کی بعض بعض کو اور دیکھا اہل نار کو اور عذاب میں

فِي الْعَذَابِ أَيْضًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے باہم فرق کو بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عَجَائِبَ الْغُرَائِبِ وَغَرَائِبِ

کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا انوکھے اشیاء کے عجائب کو اور عجائبات قدرت نے

الْعَجَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

انوکھے مناظر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عَمْرَو بْنَ لُحْيٍ يَجْرُقُ قَصَبَهُ فِي النَّارِ وَهُوَ

جس محبوب نے دیکھا عمرو بن لُحْي کو اپنی انتڑیاں آتش دوزخ میں گھسیٹتے ہوئے اور وہ

أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِغَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہلا شخص تھا جس نے (توں کے لیے) اونٹنیوں کو آزاد کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ وَقَدْ جَاءَهُ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا ابلیس لعین کو جبکہ وہ آپ کے پاس آکر

يَسْأَلُهُ عَنِ عُلُومِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سوال کرتا تھا علوم دین کے متعلق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عَفْرِيَّتًا فِي يَدَيْهِ شُعْلَةً مِّنَ النَّارِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا سرکش جن کو در آغا لیکہ اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا

فَعَصَبَهُ مِنْهُ الْجَبَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

پس محفوظ رکھا آپ کو اس سے جبار تعالیٰ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مَنَازِلَ أَصْحَابِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَخْبَرَ بِنَا

کی آل پر کہ جس آقا نے ملاحظہ فرمایا اپنے صحابہ کی منزلیں جنت میں اور خبر دی اس کی جو

يُصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِّنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنچے گی ان میں سے ہر ایک کو آزمائش اور امتحان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مِنْ حَارِ كَلْبٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا اپنے ساتھ جنگ کرنے والے

الْكُفَّارِ يَسْحَبُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کفار کو کہ گھسیٹے جاتے ہیں اپنے مونہوں کے بل آگ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَرْدَةَ وَالشَّيَاطِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا سرکش جنوں اور شیطانوں کو

الْأَصْفَادِ مُقَرَّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

فتود میں جکڑے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ صَاحِبَةَ الْبَهْرَةِ تُعَذَّبُ فِي النَّارِ

آل پر کہ جس آقا نے دیکھا بلی والی عورت کو عذاب دئے جاتے ہمیشہ کے لیے آتش دوزخ میں

الدَّوَامِ لِحَبْسِهَا أَيَّاهَا عَنِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بسبب اس کو بند رکھنے کے پینے اور کھانے سے (حتیٰ کہ پیاسی بھوکی مرگئی)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مَسْجِدَ الضَّرَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا مسجد ضرار کو

وَمُصَارَعَةَ حَيْنِ انْهَارَةٍ إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اس کے گرانے والے کو وقت اس کے گرانے کے ساتویں زمین تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مُحَاسِبَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا رب تعالیٰ کے محاسبہ

الرَّبِّ لِبَعْضِ الْعَبِيدِ قَبْلَ يَوْمِ الْوَعْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و مواخذہ کو بعض بندوں سے متعلق پہلے قیام قیامت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى فِي الْجَنَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا جنت میں

الرَّمِيضًا إِلَى جَانِبِ قَصْرِ تَتَوَضَّأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رمیضا (زوجہ ابی طلحہ) کو ایک محل کی جانب میں روشنی پھیلانے (اپنے انوار سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْوُلْدَانَ وَالْحُورَ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا ولدان کو اور حوروں کو

الْغُرَفَاتِ وَالْقُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جنت کے بالا خانوں اور محلات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى فِي الْجَنَّةِ بِلَا أَرْتِيَابٍ جَارِيَةً

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا بلا ریب و تردد جنت میں

لِعَمْرِ ابْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جنتی بیوی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَلَائِكَةَ تُظِلُّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ جَبْرِ

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے مشاہدہ فرمایا ملائکہ کو سایہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جبیر پر

وَهُوَ قَتِيلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْجَبَّارِ نَصْفَهُ مِنْ نَارٍ

پر کہ جس آقا نے مشاہدہ فرمایا ایک فرشتہ کو اللہ جبار کے ملائکہ سے کہ جس کا نصف برف سے تھا

نَصْفَهُ مِنْ نَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اور نصف نار سے تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَلِكَ بِحِرَاءَ فَعَلِمَهُ اقْرَأْ وَلَمْ يَكُنْ

محمد کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا فرشتہ بھیریل کو غار حراء میں پس اس نے پڑھائی آپ کو اقرء والی آیات حالانکہ

يَقْرَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

آپ پلے نہیں پڑھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي رَأَى الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ بَدْرٍ تَسِيرًا وَتَغْيِيرًا رَأَى مَلَكًا بِحُسْبَانٍ

جس آقا نے دیکھا ملائکہ کو بدر کے دن چلتے ہوئے اور حملہ آور ہوتے اور دیکھا ایک فرشتے کو پرچم اٹھانے

الرَّأْيَةَ عَلَى صُورَةِ مُصْعَبِ بْنِ عَمِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو حضرت مصعب بن عمیر کی صورت پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى أُمَّهُ حَمَلًا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا اپنی والدہ ماجدہ کو جبکہ

حَمَلَتْ بِهِ عَلَى التَّهَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہ حاملہ ہوئیں ساتھ آپ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى خُرُوجَ النُّورِ مِنْ أُمَّهِ حَمَلًا

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا ظہور نور کا اپنی والدہ ماجدہ سے یہاں تک کہ

أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روشن ہو گئے ان کے لیے محلات شام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِسْرَافِيلَ كُلَّ شَيْءٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مشاہدہ کیا اسرافیل علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان ہر شے کا

أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّنْزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو نازل کی گئی آپ پر اس کے نازل کئے جانے سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ دَوَائِرَ أُمَّتِهِ مَكْتُوبًا وَرَأَىٰ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھے اپنی امت کے دیوان لکھے ہوئے اور دیکھے

مَوَازِينَ أُمَّتِهِ مَنْصُوبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میزان اپنی امت کے نصب کئے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ اسْتِغْفَارَ أُمَّتِهِ أَيْضًا مِنْ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے دیکھا اپنی امت کی استغفار کو (مثالی صورت میں) سفید کاغذ سے

الْقِرْطَاسِ وَرَأَىٰ ذُنُوبَ أُمَّتِهِ أَسْوَدَ مِنَ الْغَطَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بھی زیادہ سفید اور دیکھا امت کے گناہوں کو (مثالی صورت میں جو) کہ شب تاریک سے بھی زیادہ سیاہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا

سَوَادَ الْأُمَمِ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْعَدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

امتوں کے مجمع کو ان کے عدم سے وجود میں آنے سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ دَارَ هِجْرَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا (خواب میں) اپنے دار ہجرت کو

بِالتَّعْيِينِ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

معیین طور پر جو کہ ایک نخلستان ہے جو دو سنگتوں کے درمیان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی

ثَابِتِهِ الْحَمْرَ آءِ يَلْبِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرخ اونٹنی پر تلبیہ حج کہتے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْأَنْبِيَاءَ يُطَوِّفُونَ بِالْبَيْتِ وَرَأَى

آل پر جس محبوب نے دیکھا (تور نبوت سے) انبیاء علیہم السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے اور دیکھا

الْأَعْوَرَ الدَّجَالَ وَكَانَ عَيْنُهُ عَنَبَةً طَافِيَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کانے دجال کو جبکہ اس کی ایک آنکھ پانی میں تیرتے انجور کی مانند تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَرَى مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دیکھتے تھے

أَعْلَى الْمَلَكُوتِ إِلَى ظَهْرِ الْحَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ملکوت اعلیٰ سے بیکرزیرین مچلی کی پشت تک اکی ہر شئی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى قَابَ قَوْسَيْنِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو پہنچے قاب قوسین

أَوْ أَدْنَى وَأَرَى فِيهِ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَنْتَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى وَ

او ادنیٰ کے قرب تک اور دکھلائی تو نے انہیں بہت بڑی آیت و نشانی اور عطا کی انہیں انتہائی رفعت و بلندی

أَكْرَمْتَهُ بِالْمَخَاطِبَةِ وَالْمِرَاقِبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَ

اور عزت دی انہیں ہمکلامی اور نگہداشت۔ رو برو ہونے اور مشاہدہ کرنے اور

الْبِعَايِنَةِ بِالْبَصْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

چشم سر کے ساتھ دیدار کرنے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَنَجْمُ نَبِيِّتِهِ عَلَى فَنَاهِجِ شَرِيْعَتِهِ

کی آل پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ان کی نبوت کا ستارہ ان کی شریعت کی شاہراہ پر تھا

وَبَدْرُ إِشْرَاقِهِ عَلَى مَتْنِ بَرَاقِهِ وَكُوكَبُ سَعُودِهِ عَلَى مَعْرَاجِهِ

ان کے نور و ضیاء کا بدر کامل براق کی پشت پر تھا اور ان کی سعادت مندی کا ستارہ بلندی کے

صُعُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

معراج پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَسِرَاجُهُ الْوَهَّابُ عَلَى دَرَجَاتِ الْمِعْرَاجِ

پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ان کا روشن سپرنا معراج کے بلند درجات پر تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الْعُرُوجِ وَالْمِعْرَاجِ الْجَسَدِيُّ الْيَقْظِيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب کہ بندیوں پر فائز اور جسمانی اور حالت بیداری کے معراج والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْبَةِ مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ معراج سے بھی زیادہ قربت

الْمِعْرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى بِتَارِحِ بَهَائِهِ عَلَى عَرْشِ الْجَلَالِ وَارْجَاءِهِ

آل پر کہ جنہوں نے معراج کیا اپنے حسن و بہار کا تاج پہنے عرش جلال پر اور اس کے کناروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى مُرَكَّبٌ مُنَاجَاتِهِ عَلَى مَرَاتِقِ الْعِزِّ وَغَايَاتِهِ اللَّهُمَّ

کہ چلا شب اسراء ان کی مناجات و ہمکلامی کا مرکب عزت کے بلند مقامات اور اس کی غایات پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

سَرَى قَمَرُ سَيَّارِهِ عَلَى رَفْرِفِ الْعُلَى وَبِهَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

چلا شب اسراء ان کی رفعت کا ماہتاب بلندی اور حسن و خوبی کے رفعت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْإِرَانِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے سیر فرمایا جبکہ براق

يُحِبُّهُ وَالْبَلَدِ تَبْرَةً وَتُبَّجَلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں اٹھائے ہوئے تھا اور ملائکہ ان کی برادرت و طہارت بیان کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى جَبَالَ مُجَبَّاهُ إِلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ معراج فرمایا جن کے جمیل چہرہ نے

بَسَاطِ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بارگاہ مولیٰ کی بساط تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْأَكْوَانِ تَحْرُسُهُ وَرُؤْسُهُ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا جبکہ بھی جہاں آپ کی حفاظت کر رہے تھے

الرُّوحَانِيِّينَ تَكْنِفُهُ وَتُرْسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور روحانیوں کے روضہ آپ کے گرد گھیرا ڈالے تھے اور انس مہتیا کرتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلِوَاءِ الْفَخْرِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے معراج فرمایا محل قرب اور انس تک جبکہ فخر کا پرچم

رَأْسِهِ إِلَى مَحَلِّ قُرْبِهِ وَأَنْسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کے سرناز پر لہراتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَطَرَّازِ الشُّوْبِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا جبکہ نور کا سہرا ان کی

جَبِينِهِ وَجَبْرِيلَ أَخَذَ بِيَمِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جبین اقدس پر سجا تھا اور جبریل امین ان کا دایاں ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَتَوَاجُّهُ الْجَبَالِ إِلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر چلے تو تاج جمال ان کے

فَرَّقَهُ وَالذُّرِّيَّتَ سَاقَطَ مِنْ مَنَاطِقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سرناز پر سجا تھا اور موتی بھڑتے تھے ان کے بولنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَكَتَابُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر چلے جبکہ نصرت کے

النَّصْرِ تَحْفُ بِسُرَاةٍ وَالْمَلَكَةُ تَتَشَوَّقُ لِلْقِيَاةِ وَمَرَاةُ اللَّهِ

شکران کے مقام سیر کو اپنے گھرے میں لئے ہوئے تھے اور ملائکہ ان کی ملاقات اور ویدار کے بہت شائق تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج

سَرَىٰ وَرَوْنَقُ الرِّسَالَةِ فِي وَجْهِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

پر چلے تو رسالت کی رونق و بہار ان کے چہرہ انور سے نمایاں تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَخَاتِمُ النَّبِيِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے تو مہر نبوت

بَيْنَ كِتْفَيْهِ وَاحِدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے کندھوں کے درمیان چمکتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْأَنْبِيَاءُ فِي السَّمَاءِ نُسَايِرُهُ وَ

آپ کی آل پر کہ وہ محبوب معراج پر چلے تو انبیاء علیہم السلام آسمانوں میں ان کے ساتھ چلتے تھے

الْمَلَكَةُ جَنُودُهُ وَعَسَاكِرُهُ اللَّهُمَّ رَبِّ الْجَلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبِّ

اور ان کے لشکر و سپاہی تھے۔ اے اللہ۔ اے رب جلت و حرم اور رب

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

مشعر حرام کے۔ رب بیت حرام کے۔ رب حجر اسود اور رب مقام ابراہیم کے

أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

پہنچا سیدنا و مولانا محمد کو ہماری طرف سے سلام۔ اے اللہ انہیں عطا فرما مقام وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَالرَّحْمَةَ

وفضیلت اور بلند ترین درجہ اور قائم فرما انہیں مقام محمود میں جس کا

وَعَدْتَهُ وَأَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے انہیں وعدہ دیا ہے اور ہمیں نصیب فرما ان کی شفاعت قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَمِنْ الْكُلِّ

سیدنا محمد پر جو مقصود و محبوب ہیں کل کائنات میں اور سب سے

فِي الْعَالَمِ الْإِنْسَانِيِّ الْكَمَالِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محبوب ترین عالم انسانی کے کمالات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ أَبَدًا أَبَدِينَ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ

محمد پر ہمیشہ ہمیشہ اور اتارنا انہیں اپنی قریب ترین منزل میں

الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ يَا حَلِيمٌ ذَا الْإِنَاءَةِ فَلَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِكَ

قیامت کے دن۔ اے اللہ۔ اے حلیم۔ اے بردبار جس کے برابر کوئی شے نہیں اس کی مخلوق سے

أَحْلَمُ عَنِّي كُلَّ خَطَرَاتِ نَفْسَانِيَّةٍ حَيَوَانِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَكُلِّ

بروباری سے کام لے میری طرف سے تمام خطرات نفسانیہ، حیوانیہ، شیطانیہ میں اور تمام

وَسَاوِسٍ وَهُوَاجِسٍ وَنِيَّاتٍ سَيِّئَةٍ رَدِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ رَدِيَّةٍ

وسوس اور خیالات اور بری اور ردی نیاات اور ناپسندیدہ اعمال

بِمَرْضِيَّةٍ وَأَخْلَاقٍ سَبْعِيَّةٍ نَفْسِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ فَإِنَّكَ رَحِيمٌ

اور زندگی والے اخلاق نفسانیہ شیطانیہ میں کیونکہ تو تمام

الْأَنَابَاتِ مُتَحَيِّلٌ وَالْعَجَلَةُ شَانُ الْعَاجِزِ فَارْزُقْنِي الْإِسْلَامَ

لمعات میں متحمل سے کام لیتا ہے۔ اور جلد بازی (مواخذہ میں) عاجز کا کام ہے پس مجھے نصیب

النَّصُوحَ وَاجْعَلْنِي مُسْتَقِيمًا عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّكَ لَرَحِيمٌ

فرما خالص توبہ اور مجھے اس پر قائم و دائم رکھ اور میرے خطرات اور فاسد خیالات کو

بِأَلْهَامَاتٍ كَمَا تَبَدَّلُ الْحَجَرَ بِالذَّهَبِ وَبَدَّلِ الْأَخْلَاقَ السَّبْعِيَّةَ

الہامات میں بدل دے جیسے کہ پتھر کو سونے سے تبدیل کیا جاتا ہے اور تبدیل فرما میرے دوزندوں والے اخلاق کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِهِ وَبِحُرْمَتِهِ صَلِّ عَلَى جَبِيْعِ إِخْوَانِهِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما اپنے حبیب پر اور ان کے عزیز و جاہ کے طفیل رحمت کاملہ نازل فرما آپ کے برادران منصفی

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ

یعنی انبیاء پر اور ان کے ساتھ صدیقین و شہداء اور صالحین پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ

رحمت نازل فرما محمد کریم پر اور آپ کی آل طیبین پر اور عطا فرما انہیں

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

مقام وسیلہ و فضیلت اور بلند ترین درجہ اور ان کو قائم فرما مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ وَ

محمود پر جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے (رحمت نازل ہو ان پر) مع ان کے برادران منصفی رسل کرام پر اے اللہ اور

أَعْطِ مُحَمَّدَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ

عطا فرما محمد کریم کو وہ مقام جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ محبوب کہ جب بات کریں

صَدَّقْتَهُ وَإِذَا سَأَلَ أُعْطِيَتْهُ اللَّهُمَّ وَعَظْمُ شَانِهِ وَبَيِّنْ

تو تو ان کی تصدیق فرماتا ہے اور جب طلب کریں تو عطا کرتا ہے اے اللہ اور عظیم بنا ان کی شان کو اور واضح فرما

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بُنْيَانِهِ وَأَبْلِغْ حُجَّتَهُ وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ

ان کی دلیل و برہان کو اور شرف و فضیلت سے ان کی بنیاد کو اور روشن فرما ان کی حجت کو اور نمایاں فرما ان کی فضیلت کو

اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

اے اللہ اور قبول فرما امت کے حق میں ان کی شفاعت کو اے اللہ اور عطا فرما انہیں مقام وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا

و فضیلت اور شفاعت عظمیٰ اور درجہ رفیعہ اور پہنچا انہیں مقام

مُحَمَّدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ يَا كَرِيمَ

محمد تک جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا۔ اے اللہ میرے
یَلِّغُهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزَهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا بَخَرَيْتَ بِهِ

رب پہنچا آپ تک ہماری طرف سے افضل ترین سلام اور جزاء دے آپ کو ہماری طرف سے افضل ترین جزاء
النَّبِيِّ عَنْ أُمَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان تمام سے جو کسی بھی نبی کو ان کی اُمت کی طرف سے عطا کی ہے اے رب العالمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلَوْ أَمِعَ أَنْوَارَ تَشْرِيقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمایا اور ان کے چمکتے انوار صوفیوں کے
وَلَوْ أَمِعَ عِزَّةَ بِالْأَفْقِ يَخْفِقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کی عزت و جہاں کا پرچم افق پر لہراتا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَرَوَّاحِلُ الشُّوقِ بِهِ تَهْتَرُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ شوق و محبت کی سواریاں ان کی وجہ سے
وَالْخَلَائِقُ بِجَاهِهِ تَعْتَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جھومتی تھیں اور مخلوقات ان کی عزت و جہاں کے ذریعے عزتیں پاتی تھیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أَسَكَ عَنَانَ الْمَجْدِ

اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب سیر کے لیے چلے جبکہ آپ نے بزرگی کی باگ تھامی ہوئی تھی اور
وَقَادَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

اس کی قیادت فرمائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جو معراج پر چلے در آنحالیکہ
قَدْ نَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ السِّيَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مضبوطی سے سجایا گیا تھا سیادت کا تاج ان کے سر ناز پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَكَنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء چلے در آنحالیکہ چلا رہے تھے

جَمِيعَ الْمَكْرَمَاتِ اَمَامَهُ وَمَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ خَلْفَهُ وَقَدْ اَمَهُ

تمام بزرگیوں کو اپنے آگے اور آسمانوں کے فرشتے (بطور خدام) آپ کے پیچھے اور آگے تھے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِى سَرَى وَقَدْ بِاللَّغَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي تَعْظِيْمِهِ وَاكْرَامِهِ وَقَدْ

جو معراج پر تشریف لے گئے اور ملائکہ نے حد سے زیادہ آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ اور تحقیق

اَحْرَمَتْ اَهْلَ السَّمَوَاتِ لِاِحْرَامِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

احرام باندھا تمام آسمانوں پر بسنے والوں نے ان کے احرام باندھنے کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَرَى وَقَدْ حَانَ قَصَبُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے شب اسراء میں جمع کر لیا مسابقت کے

السَّبْقِ وَسَادَ جَمِيعِ الْخَلْقِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام نشانات کو اور سردار بن گئے تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَرَى وَقَدْ مَلَأَ نُورُهُ الْمَلَا الْاَعْلٰى

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمایا در آسما بیکہ معمور کر دیا تھا ان کے نور نے ملا اعلیٰ کو

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِى سَرَى وَقَدْ سَبَقَ اَهْلَ الْفَضْلِ وَالتَّقْدِيْمِ اِلَى حِلِّ الْفَخْرِ

جو محبوب مکرم معراج پر گئے اور سبقت لے گئے تمام اہل فضل اور متقدّمین سے مقام فخر

وَالْتَعْظِيْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

و تعظیم کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى سَرَى وَقَدْ اَنْتَشَرَتْ اَعْلَامُهُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ

آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا اور پھیل چکے تھے ان کے پرچم آسمانوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

سَرَى وَافْتَحَرَتْ بِهِ الْكَائِنَاتُ مِنَ الْعُلُوبِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ اللَّهُمَّ

معراج فرمایا اور فخر کیا ان کے ساتھ تمام کائنات بلندی و پستی والی نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرَى وَقَدِ ارْتَدَى بِرِدَائِهِ الْبَحْبَةَ وَالْخُلَّةَ وَتَحَلَّى بِأَحْسَنِ

معراج پر گئے جبکہ آپ نے محبت و خلعت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور خوبترین حلہ و پوشاک

الْحَلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زیب تن کئے ہوئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اشْرَقَ نُورُهُ الدِّيَّاجِحِي وَاهْتَدَى إِلَيْهِ

کہ جس محبوب نے معراج فرمایا جبکہ ان کے نور نے روشن کر دیا اندھیروں کو اور ہدایت پائی طرف ان کی

كُلِّ فَرِيقٍ نَّاجِحِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہر نجات پانے والے فریق نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَرَقَ بَرَقُ الرِّضَا مِنْ

آل پر کہ جو آقا معراج پر گئے در آنجا بیکہ چمک رہی تھی رضا الہی کی بجلی ان کی

جَبِينِهِ وَاقْتَدَى أَهْلُ الْكِمَالِ بِدِينِهِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

جبین اقدس سے اور اقتداء کی اہل کمال نے ان کے دین کی۔ وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود

إِلَّا هُوَ الْجَمِيلُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْخَلِيمُ الرَّؤُوفُ الْعَفُوفُ

برحق مگر وہی جو صاحب جمال ہے اور غایت رحمت والا مہربان۔ صاحب لطف و علم، رؤف اور درگزر فرمانے والا ہے

الْمُؤْمِنُ النَّصِيرُ الْمَجِيبُ الْمُبْعِثُ الْقَرِيبُ السَّرِيعُ ذُو الْإِكْرَامِ

امن و ایمان دینے والا۔ نصیر۔ قبول فرمانے والا (دعاؤں کا) فریادرس۔ قریب۔ سرعت کے ساتھ حساب لینے والا صاحب

ذَوِ الطُّوْلِ رَبِّ اَكْسَى مِنْ جَمَالِ بَدَائِعِ الْاَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ مَا

اکرام قوت کا مالک۔ اے میرے پروردگار مجھے پہنا انوار جمالیہ کے انوکھے جمال کی خلعت جو

يُدْهِشُ الْبَابَ الذَّرَاتِ الْكُوْنِيَّةِ فَتَتَوَجَّهُ اِلَى حَقَائِقِ

مدہوش کر دے ذرات کونیہ کے عقول کو پس وہ متوجہ ہوں مخلوقات کے

الْمَكُوْنَاتِ تَوَجُّهَ الْمَحَبَّةِ الذَّائِبَةِ الْجَاذِبَةِ اِلَى شُهُودِ

حقائق کی طرف مثل محبت ذاتیہ کی توجہ کے جو کھینچنے والی ہے طرف جمال

مُطْلَقِ الْجَمَالِ الَّذِي لَا يُضَارُّهُ قَبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنْهُ اِيْلَامٌ

مطلق کے مشاہدہ کے جس کو صزر نہیں دیتا فتح (کیونکہ وہ اس کے گرد و امن کو بھی نہیں چھو سکتا) اور نہ منقطع کرتی ہے اس سے ایذا رسانی

وَاَجْعَلْنِي مَرْحُوْمًا مِنْ كُلِّ رَحِيْمٍ بِحُكْمِ الْعُطْفِ الْحَيِّ الَّذِي

اور بنا دے مجھے رحم کیا ہوا ہر رشتہ دار کی طرف سے بقاضائے عنایت مہمانہ کے جس میں

لَا يَشُوْبُهُ اِنْتِقَامٌ وَلَا يَنْغَصُّهُ غَضَبٌ وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَةَ سَبَبٍ وَّ

انتقام کی آمیزش نہ ہو اور نہ گدلا کرے اس کو غم و غصہ اور نہ قطع کرے اس کی مدد کو کوئی سبب اور

تَوَلَّ ذَلِكَ بِحُكْمِ اَيْدِيَّةٍ وَّارِثِيَّةٍ اِلَى غَيْرِ نِهَائِيَّةٍ لَا تَنْقَطِعُ

متولی ہو تو آپ اس امر کا مطابق تقاضے اپنی ابدی وارثیت کے بغیر کسی انتہاء کے جس پر منقطع نہ ہو

غَايَتُهُ يَا رَحِيْمٌ هُوَ الرَّحِيْمُ رَبُّنَا يَا خَفِيًّا لَا يَظْهَرُ

غایت اس کی۔ اے رحیم وہی رحیم ہے۔ اے رب۔ اے رب۔ اے زیادرس۔ اے کہ جو مخفی ہے کہ کسی پر ظاہر نہیں (حقیقت سنی)

يَا ظَاهِرًا لَا يَخْفَى لُطْفُ اسْرَارِ وُجُوْدِكَ الْاَعْلَى فَتُرَى فِي كُلِّ

اے ظاہر کہ نہیں مخفی (آثار قدرت اس کے)۔ لطیف ہیں تیرے وجود عالی شان کے اسرار پس دیکھے جاتے ہیں ہر

مَوْجُوْدٍ وَّوَعَلَتْ اَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْاَقْدَاسِ فَبَدَأَتْ فِي كُلِّ

موجود میں اور بلند و بالا ہوئے تیرے ظہور اقدس کے انوار پس نمایاں ہوئے ہر

مَشْهُودٍ وَّاَنْتَ الْحَلِيْمُ الْمَنَّانُ بِالرَّأْفَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيْعِ

مشہور و محسوس شئی میں اور تو ہی حلیم ہے اجمان فرمانے والا ہے ساتھ رافت اور درگزر کے۔ جلد

بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْخَائِفِينَ نَصِيرًا الْمُسْتَعِيثِينَ الْقُرْبُ

مغفرت، فرمانے والا ہے مؤمنین خائفین کے لیے مددگار ہے فریادوں کا۔ قریب ہے

بِمُجَاهَاتِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ عَنِ عَيُونِ الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ يَا

بسیب مٹا دینے قریب اور بعد کی جہات کو عارفین کی آنکھوں سے۔ اے کریم۔ اے

كَرِيمُ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْاِكْرَامِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَ

کریم۔ اے مالک قوت اور اکرام کے سلام ہے کہا ہوا رب رحیم کی طرف سے۔ اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا

سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ مالک ساتوں آسمانوں کے اور جو کچھ

أَظْلَتُ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا

ان کے سایہ میں ہے اور مالک تمام زمینوں کے اور جو کچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مالک شیاطین کے اور جنہیں

أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ هُ أَنْ يَفْرَطَ

انہوں نے گمراہ کیا ہو مجھے پناہ دینے والا اپنی تمام مخلوق کے شر سے کہ نتجاوز کرے

عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يُطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللَّهُمَّ

مجھ پر ان میں سے کوئی یا سرکشی کرے۔ عزت والا ہوا تیری پناہ لینے والا اور بابرکت ہے نام تیرا اے اللہ

رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَرِيْدٌ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا

رب ہمارے اور رب ہر شئی کے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی رب ہے اکیلا نہیں

شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَ

کوئی شریک تیرے لیے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عبد خاص اور

رَسُولُكَ وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ وَأَجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَ

رسول برحق ہیں اور سبھی بندے باہم اخوت اسلامی میں منسلک ہیں اور بنا مجھے اور میرے اہل کو اپنا مخلص

أَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

ہر ساعت میں دنیا و آخرت میں اے مالک جلال و اکرام کے

اسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ

اس دعا کو سن اور شرف قبولیت بخش اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں

وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حَسْبِيَ اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اور زمینوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور اچھا کارساز ہے وہ اللہ اکبر

اَلَا اَكْبِرُ وَنَسَّكَ اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ

اللہ اکبر اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ بظیفیل تیرے نوروات کے جس نے بھر دیا ہے تیرے عرش کے ارکان

اَنْ تَزْرَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَعْرِفَتَكَ حَتّٰى اَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا

واجزاء کو کہ بونے میرے دل میں اپنی معرفت (کا بیج) یہاں تک کہ میں پہچان لوں تجھے جیسے کہ

يَتَّبِعِيْ اَنْ تَعْرِفَ بِهِ وَصَلَّى اَللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

حق ہے پہچاننے کا جیسے کہ لائق ہے تجھے پہچانا جائے اس وجہ سے اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ محمد پر اور آپ کی

اَجْمَعِيْنَ ۙ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ رَبُّ عَظِيْمٍ لَا يَسْعُكَ مِمَّا خَلَقْتَ وَ

آل اور اصحاب سبھی پر۔ اے اللہ تو عظیم رب ہے نہیں گنجائش رکھتا تیری مخلوق میں سے کوئی اور

اَنْتَ تَرَى وَلَا تُرَى وَاَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْاَعْلٰى وَاِنَّ لَكَ الْاٰخِرَةَ وَ

تو دیکھتا ہے اور دیکھا نہیں جاتا اور تو منظر اعلیٰ پر ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں اور تو ہی مالک ہے آخرت کا اور

الْاٰوَّلٰى وَلكَ الْمَمٰتُ وَالْبَحِيَا وَاِلَيْكَ الْمُنْتَهٰى وَالرُّجْعٰى نَعُوْذُ

دنیا کا۔ اور تیرے ہی ملک میں ہے مامت اور حیات۔ اور تجھ تک ہی ہر شئی کی انتہاء اور بازگشت ہے ہم تیری پناہ

بِكَ اَنْ تَنْزِلَ وَنَخْرٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

طلب کرتے ہیں اس سے کہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ سَرٰى وَقَدْ بَاھٰى بِنُوْرِهِ جَمِيْعُ

آپ کی آل پر کہ جنہوں نے معراج فرمایا تو مخزومیاہات کا اظہار کیا بسبب ان کے نور کے تمام

الْاَنْوَارِ وَدَاَنْتَ لِبَهْجَتِهِ الشَّمْسُ وَالْاَقْبَارُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

انوار نے۔ اور قریب ہوئے اس کی رونق و بہار (سے استفادہ) کیلئے آفتاب اور ماہتاب۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے

وَقَدْ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْبَهَاءِ وَالْكَمَالِ وَقَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ

اس شان سے کہ پہنایا انہیں اللہ تعالیٰ نے حلتہ حسن و خوبی اور کمال کا اور رفعت بخشی انہیں اللہ تعالیٰ نے

الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام انبیاء و مرسلین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ هَبَتْ نَسِيمٌ قُرْبًا وَ

آپ کی آل پر جو معراج کے لیے چلے اس شان سے کہ چلی ان کے تقرب اور

اجْتِبَاءَهُ إِلَىٰ مُقَرَّبٍ عِزِّهِ وَأَصْطَفَاءَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انتخاب کی نسیم بہاران کی عزوجاہ اور اصطفاء کے مقام مقرب تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب شب امراء چلے اس شان سے

لَا حَتُّ لَوَامِعِ أَنْوَارِهِ بِوُضُوحِ أَسْرَارِهِ وَأَخْبَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ ظاہر ہو گئے ان کے چمکتے انوار ساتھ ان کے اسرار و اخبار کی وضاحت و صراحت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے

وَقَدْ ظَهَرَتْ فِي جَبِينِهِ أَشْعَةُ النُّورِ الْمَكْنُونِ وَجَلَّ فِي حُسْنِ

در آخا لیکہ ظاہر ہو چکی تھیں ان کی جبین اقدس میں نور مکنون کی شعاعیں اور نکھر چکے تھے

جَمَالِهِ الْبَصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اپنے مخفی جمال کے حسن و کمال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ خَلَعَهُ اللَّهُ

کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اس شان سے کہ انہیں پہنائی گئی تھیں خلعتیں حلتہ ہائے جلالت کی

وَفَاقَ أَهْلَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور فرقیات لے گئے تھے انبیاء پر اور اہل رسالت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدِ اتَّحَفَتِ الدُّنْيَا

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے تو اوڑھا دُنیا نے

بِثُوبِ الضِّيَاءِ وَتَأَهَّتْ بِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

نور و ضیاء کا لباس اور مخرو و انبساط حاصل کیا ساتھ ہر رتبہ عالیہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدِ اكْتَسَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے جبکہ رات نے

اللَّيْلُ بِنُورِهِ حُسْنًا وَازْدَادَ بِهِ سُرُورًا وَيَمْنًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے نور کی بدولت اوڑھا لباسِ حسن کا اور بڑھ گئی بطفیل اس کے ازروئے سرور اور برکت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَعَمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ ان کا

نُورُهُ الْفَضَاءَ وَالرَّبُّ يَلْحَظُهُ بِعَيْنِ الرَّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نورِ فضا کو محیط ہو چکا اور ان کا پروردگار انہیں دیکھتا تھا رضا و پسندیدگی کی نگاہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے اس شان سے کہ

أَرْضَاهُ اللَّهُ وَأَصْطَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

انہیں راضی کر دیا ان کے اللہ نے اور منتخب فرما لیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْسَلِ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو بھیجا گیا تمام مخلوق کی طرف واسطے

رَحْمَةٍ وَرِعْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

رحمت اور انعام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

آل پر جو مراد و مقصود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے "البتہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

اہل ایمان پر جبکہ مبعوث فرمایا ان میں عظیم رسول انہیں میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ کی آیات اور پاک کرتے ہیں انہیں اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب و حکمت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے

وَالْبِعْرَاجَ حَيْرَتُهُ بِهِ ارْتَجَاجًا وَالْبِرَاقَ يَبْتَهِجُ بِهِ ابْتِهَاجًا

تو نورانی سیر بھی جھومتی تھی ساتھ ان کے اور براق ناز کرتا تھا ان کی بدولت بہجت و سرور سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَطَوَّأَ لِعِ السُّعْدِ تَحْفٌ بِالْمَسْرِي وَطَلَّاعُ الْعِزِّ

جو معراج کے لیے چلے اس شان سے کہ نیک بختی کے ستارے گھیرا ڈالے ہوئے تھے مقام اسراء کے گرد۔ اور عز و جاہ کے

تَسْبِقُ بِالْبُشْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مقدمہ ہمیشہ دوڑ رہے تھے اگے اگے بشارت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَفَرَشَ الْجَلَالَ تَهْدِي لِقَدْرِ أَفْه

آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور بزرگی و حرمت کے بچھونے بچھانے جارہے تھے ان کے

وَنَبَارِقُ الْكِبَالِ تَبْسُطُ لِقَدَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

قدموں میں اور کمال کے گدے بچھاتے جارہے تھے ان کی تشریف آوری کی خاطر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَأَهْلًا

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے در آنجا لیکہ قصور جنت کے باسی ان کا

يَتَشَوَّقُ وَيَتَشَرَّفُ وَعُرْفَاتُ التَّعِيمِ لَهُ تَزْيِينٌ وَتَزْخِيفٌ اَللّٰهُمَّ

شوق ویدار رکھتے اور ان سے شرف اندوز ہوتے تھے اور جناتِ نعیم کے بالا خانے ان کے لیے مزین اور آراستہ کئے جاتے تھے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرِي وَسَائِرُ الْاَنْعَامِ تُهَيَّا لِمَتَّكَاةٍ وَنَزَارِ ابْنِ الْجَلَالِ تُطْرَحُ لِمُشَاهَدَةِ

معراج کے لیے چلے در آنچا لیکہ تمام آسائتیں تیار کی جا رہی تھیں ان کی تکیہ گاہ کے لیے اور جلالت و بزرگی کے قابلین بچھانے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جا رہے تھے ان گزر گاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرِي وَمَرَاتِبُ التَّخْصِيصِ لَهُ مَبْثُوثَةٌ وَمَرَاكِبُ

کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے در آنچا لیکہ اختصاص کے مراتب ان کیلئے پھیلائے گئے تھے اور خلود و

الْخُلُودِ لَهُ مَحْثُوثَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دوام کی سواریاں ان کے لیے تیار کی ہوئی تھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَنَجَائِبُ السُّعْدِ لَهُ تَسْرِجٌ

اور آپ کی آل پر جو معراج پر تشریف لے چلے جبکہ سعادت کی سواریوں پر ان کے لیے زینیں رکھی جا رہی تھیں

وَمَطَايَا التَّائِيْدِ لَهُ تُتَبَرِّجُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تائید الہی کی سواریاں ان کے لیے باہر لائی جا رہی تھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَكُنُوزُ الْجَنَانِ تُعْرَضُ

اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور جنّتوں کے خزانے ان پر پیش کئے جا رہے تھے

عَلَيْهِ وَذَخَائِرُ الْغَيْبِ تُوَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غیب کے ذخائر ان کے سامنے رکھے جا رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے جبکہ

العناية الربانية تكفنه والملائكة تحفه وتزفنه اللهم

عنايت ربانية انہیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور انہیں دو لہا بنائے ہوئے تھے۔

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج

سرى وجميع الكائنات تهديته والملائكة والانبياء تقبله و

پر چلے جو کہ سبھی کائنات انہیں تنہیت اور مبارکباد کہہ رہی تھی اور ملائکہ و انبیاء ان کے برسے لے رہے تھے اور

تحية الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا

ہدیے پیش کر رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

محمد الذي سرى واهل السموات يشتاق اليه والعرش

کی آل پر جو معراج پر چلے اور تمام آسمانوں والے ان کے مشتاق تھے اور عرش

يتمنى مسيرك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و

آرزو رکھتا تھا ان کے پائے ناز اس پر لگنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

على آل سيدنا محمد الذي سرى والاكوان تشرق به نوراً

آپ کی آل پر جو آقا معراج پر چلے اور تمام جہان جگمگا رہے تھے نور سے بسبب ان کے اور

والافاق تبتهج به سروراً اللهم صل وسلم على سيدنا

آفاق خوشی منارہے تھے بسبب ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى وطرايق السموات تهيا

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے اور آسمان راستے تیار کئے جا رہے تھے

لمواطئه و جنود الله تجول حول مجاريه اللهم صل و

ان کے پائے ناز رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر گردش کر رہے تھے ان کی گزرگاہ کے گرد۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے اور

أَهْلُ السَّمَوَاتِ يُسَلِّمُونَ وَسُكَّانُ الْجَنَانِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ

اہل سموات انہیں سلام نیاز پیش کرتے تھے اور جنات کے باسی ان کی زیارت کر رہے تھے اور

يُصَلُّونَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

درود بھیج رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَحَطَّائِرُ الْقُدُسِ لَكَ تَفْتَحُ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے اور محفوظ و مخصوص مقامات مقدسہ ان کے لیے کھولے جا رہے

شِبَائِكَ بِالْأَفْقِ تُمْدَحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تھے اور ان کے شمائل و اخلاق کی آفاق میں مدح سرائی کی جا رہی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَوُلْدًا انْ الْجَنَانِ تُلَاقِيهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے جبکہ جننتوں کے ولدان ان سے شرف ملاقات حاصل کر رہے تھے

فِي عُلُوِّ مَرَاقِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

آپ کے بالائی درجات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَحُورُ الْقُصُورِ عَلَيْهِ تَجَلَّى وَنُورُهُ

آل پر جو شب اسراء چلے اور جنتی محلات کی حوریں ان پر نمایاں تھیں اور آپ کا نور

عَلَيْهِ يَتَلَاوَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

آپ پر چمک رہا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أَصْفَرَ صَبْحُ الْهُدَى عَنْ وَجْهِهِ

کی آل پر جو آقا معراج میں چلے در آنخالیکہ روشن ہو گئی صبح ہدایت ان کے چہرہ

الْكَرِيمِ وَقَدْ خُلِعَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْجَلَالِ وَالتَّعْظِيمِ اللَّهُمَّ

کریم سے اور ان کو زیب تن کرائے گئے لباس جلال و تعظیم کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

سَرَى وَقَدْ اتَّخَفَهُ اللَّهُ بِتُخْفِ الْكَرَامَةِ وَقَلَّدَهُ اللَّهُ قَلَادَةَ الْأَمْرِ

معراج کے لیے چلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامت کے تحفے عطا کئے اور ان کو ہار پہنائے اس

وَالسَّلَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وسلامتی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلِسَانُ السَّعَادَةِ يُلْهَجُ بِذِكْرِهِ وَمَظَاهِرُ

آل پر جو معراج پر چلے اور زبان سعادت مندی شیفہ تھی ان کے ذکر کے ساتھ اور موجودات کے مظاہر

الْأَكْوَانِ تَنْطِقُ بِعَظِيمِ قَدْرِهِ وَفَخْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ناطق تھے ان کی عظیم قدر و منزلت اور فخر و ناز کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَقَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو معراج کے لیے چلے اور تحقیق کھینچے گئے تھے

إِلَيْهِ مَوَائِدُ الْخُلُودِ وَانْتَشَرَتْ عَلَيْهِ طَوَائِعُ السُّعُودِ اللَّهُمَّ

طرف ان کے دسترخوان خلود و دوام کے اور پھیلے تھے ان پر سعادت مندی کے ستارے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا معراج پر چلے

وَقَدْ ظَلَلَتْهُ ظِلَالُ الْإِنْعَامِ وَكَتَنَفَتْهُ مَنَائِحُ الْبَلِكِ الْعَلَامِ

تو سایہ تگن تھے ان پر انعام و اکرام کے گھنے سائے اور انہیں اپنے جلو میں لیے ہوئے تھے ملک عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عطیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى فِي عَالِمِ الشُّهُودِ مُؤَيَّدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو چلے شب اسراء عالم شہود میں اللہ تعالیٰ کی توفیق پائے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے تشریف لے چلے اور

مَشَاهِدَةٌ تَشْرِيقًا بِالنُّورِ وَالْهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

آپ کی تشریف آوری کے مقامات روشن تھے ساتھ نور و ہدایت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى بِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَكَمَالِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمائی اپنے علو قدر اور کمال مرتبت کے ذریعے

إِلَىٰ قَصْدِهِ وَأَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اپنے مقصد اور اُمیدوں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ آيِنٍ تَقَرُّ الْعَيْنُ بِأَحَدٍ وَلَا

سیدنا محمد کی آل پر جو چلے شب معراج اس مقام تک جہاں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جس سیر کی نہ حد تھی اور نہ

آيِنٌ وَهُوَ عَيْنٌ عَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مکان اور وہی بے حقیقت ہر حقیقت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ حَيْثُ هَدَاهُ اللَّهُ وَأَثَرُهُ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے سیر فرمائی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی اور ان کو منحصر فرمایا

بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَارْتِضَاةِ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَانِي وَفِي سُبْعِي وَ

اپنے قرب کے ساتھ اور پسند فرمایا انہیں۔ اے اللہ مجھے عافیت بخش بدن میں۔ کانوں میں اور

فِي بَصْرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ نَادِنِي عِلْمًا وَلَا تَزِغْ قَلْبِي

آنکھوں میں۔ نہیں معبود برحق مگر تو ہی۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر

بَعْدًا إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت بخشی اور مجھے عطا فرما اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی

الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي

عطا کرنے والا ہے۔ اے عطا کرنے والے۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے۔ ہدایت

وَارْزُقْنِي وَأَجْبِرْنِي وَارْفَعْنِي رَبِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ

عطا فرما اور رزق نصیب فرما میری شکلی دور فرما اور مجھے بندی عطا فرما۔ بیشک میں محتاج ہوں بسبب اس کے جو تو نے مجھ پر نازل

فَقِيرًا رَبِّ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّا كُنَّا

کیا ہے خیر اور بھلائی سے۔ اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما مختلف چیزوں میں سے حق کی اپنی توفیق سے۔ بیشک تو ہی

تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ اهْدِنِي صِرَاطَكَ

ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراطِ مستقیم کی۔ اے اللہ ہدایت دے مجھے ان میں

هَدَيْتَ وَعَافَيْتَ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْتَنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اور عافیت دے مجھے ان میں جنہیں تو نے عافیت دی۔ اور میرا متولی امور ہو ان میں جن کا تو متولی بنا

وَبَارِكْ لِي فِيهَا أُعْطِيتَ وَقِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي

اور برکت دے میرے لیے ان اشیاء میں جو تو نے عطا کیں اور مجھے بچا اپنے شر سے جو تو نے عطا کیا تو ہی نافذ فرماتا ہے اپنی قضاء کو

وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذَلُّ مَنْ وَآلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

اور تجھ پر کوئی نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تحقیق نہیں ذلیل ہوتا جسے تو دوست بنا لے۔ اور نہیں عزت پاتا جس سے تو عداوت رکھے

تَبَارَكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ أَعْطِنِي مِنَ الْعُمْرِ وَالْمَالِ وَالْعِلْمِ

بارکت ہے تو اے رب ہمارے اور بلند شان۔ عطا فرما مجھے عمر۔ مال اور علوم

وَسْتَغْفِرُكَ وَتَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ

اور ہم استغفار کرتے ہیں تجھ سے اور تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش اور مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْفُتُوٰةِ

اور عورتوں کو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور الفت دے باہم ان کے دلوں میں

وَأَصْلِهِمْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدْلُ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ

اور ان کے درمیان معاملات درست فرما اور ان کی امداد فرما اپنے ہر دشمن پر اور ان کے دشمنوں پر۔ اے اللہ

إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

بیشک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر بہت زیادہ اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمِنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ

پس میرے لیے مغفرت فرما اپنے پاس سے اور مجھ پر رحم فرما بیشک تو ہی غفور

الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

رحیم ہے۔ اے اللہ میری اعانت فرما اپنے ذکر اور شکر پر اور اچھی عبادت پر

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصَمَةٌ لِي وَأَصْلِحْ

اے اللہ درست فرما میرے لیے میرے دین کو جو میرے امور کی عصمت رکھا موجب اہلے اور درست فرما

لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي الْآخِرَةَ الَّتِي فِيهَا

میرے لیے میری دنیا کو جس میں میری گزاران ہے اور درست فرما میرے لیے میری آخرت جس میں

مَعَادِي وَأَحْيَيْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ

میري بازگشت ہے۔ اور مجھے زندہ رکھنا جب تک زندگانی میرے لیے بہتر ہو اور وفات دے دینا جب کہ

الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ

وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اور بنا زندگانی کو میرے لیے ہر خیر میں زیادتی رکھا موجب اور بنا

الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ اشْبَعْتَ وَأَرَوَيْتَ فَهِنَّا

موت کو میرے لیے سامان راحت ہر شر سے۔ اے اللہ تو نے ہمیں سیر کیا اور سیراب فرمایا پس ہمارے لیے

وَرَزَقْتَنَا فَاكْتَرَتْ وَأَطْبَتْ فِرْدُنَا اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِبَارِقَتِي

خوشگوار فرما۔ اور تو نے رزق دیا تو بکثرت دیا اور پاکیزہ دیا پس اسے زیادہ فرما۔ اے اللہ مجھے قانع بنا اس پر جو تو نے دیا

وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ رَبِّ اغْفِرْ

اور برکت دے میرے لیے اس میں اور خلیفہ بن میرے لیے ہر غیبت حاضری میں ساتھ خیر کے۔ اے میرے رب بخش

وَأَرْحَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَرْحَمَ

رحم فرما اور تو ہی عزیز تر مکرم ترین ہے اے سب ارباب کرم سے بڑے کریم اور اے سب سے بڑے

الرَّاحِمِينَ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُحَاسِبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَ

رحم فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو مجھ سے آسان حساب سے اگر لینا ہی ہو اور

أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِسَيِّئِي وَأَنْ تُبَيِّضَ وَجْهِي وَأَنْ تُرْجِحَ

عطا کرے میرا نامہ اعمال میرے دامن ہاتھ میں اور روشن کرے میرا چہرہ اور وزنی کر

مِزَانِي بِفَضْلِكَ وَأَنْ تُحْشِرَنِي فِي زُمْرَةِ حَبِيبِكَ وَرَحْمَتِكَ

میرے پلہ حسنات کو اپنے فضل سے اور میرا حشر فرمائے اپنے محبوب کی جماعتِ خواص میں اور ان کے

لِوَاثِيهِ وَخَاصَّتِيهِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِ

لواءِ الحمد کے نیچے اور خواص میں۔ اور داخل فرمائے جنت میں آپ کی شفاعت سے ان کے اہل

مَحَبَّتِيهِ وَأَوْلِيَاءِهِ وَأَخْصَاءِهِ بِرِضَاكَ وَرِضَاةِ اللَّهِ أَجْبَتِي

محبت اور اولیاء اور خواص کے ساتھ بسبب تیری رضا اور رضا اللہ کے۔ اے اللہ زندہ رکھ مجھے

فِي دَوْلَةٍ مَوْصُولَةٍ بِطَاعَتِكَ وَأَمْتِنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي عَلَى تَوْبَةٍ

اس دولت میں جو تیری طاعت سے متصل ہو۔ اور وفات دے مجھے جب بھی وفات دے مقبول توبہ

مَقْبُولَةٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ مُؤَدِّيَةً إِلَى جَنَّتِكَ وَنِعْمَتِكَ

پر۔ ساتھ اپنے فضل و رحمت کے جو پہنچانے والی ہو طرف تیری جنت اور نعمت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَمَحَافِلُهُ تُرَدُّ إِلَى سَمْعِ النَّدَاءِ وَالْإِذَانِ اللَّهُمَّ

جو محبوب چلے شبِ معراج اور ان کی محفلیں آراستہ کی جا رہی تھیں نداء و آذان سننے کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب پر نازل کیا

عَلَيْهِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کیا (فریضہ) رمضان کے مہینہ کا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَنَزَلَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب چلے شبِ اسراء تو پھیلا رکھا تھا

اللَّيْلِ جَنَاحَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا أَهْدَى الْفَجْرَ مَصْبَاحَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

رات نے اپنا دامن ظلمت اور لوٹے تو ابھی نہیں ہدیہ دیا تھا فجر نے اپنے چراغ کا اہل دنیا کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام



وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے

وَقَدْ أَسْدَلَ اللَّيْلُ أَطْنَابَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا فَتَحَ الْفَجْرُ بَابَهُ

جبکہ رات نے لٹکا رکھی تھیں اپنے (سیاہ خیمہ کی) اطنابیں اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں کھولا تھا فجر نے اپنا دروازہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَقَدْ وَسَقَ اللَّيْلُ سُودًا وَرَجَعَهُ وَمَا قَدَحَ الْفَجْرُ

جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ رات نے ڈھیر کر رکھی تھی اپنی سیاہی اور لوٹے جبکہ نہیں روشن کیا تھا فجر نے

زَنَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنا چمٹاؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَكَوَاكِبُ اللَّيْلِ تَلُوحٌ وَرَجَعَهُ وَمَا بَدَأَ

پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ ابھی کواکب شب نمایاں و روشن تھے اور لوٹے جبکہ ابھی سپیدہ فجر

لِلْفَجْرِ وَضُوءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نمودار نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا هَجَعْنَا نَائِمٌ هَجَعَهُ وَرَجَعَهُ

کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے جبکہ نہیں سوئے تھے سونے والے کوئی خاص

وَمَا لَمَعَ لِجَانِبِ الْفَجْرِ لُبَعَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مقدار۔ اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں روشن ہوا تھا افق فجر پر لمعہ نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے اور ابھی

حَرَّاسُهُ وَرَجَعَهُ وَمَا أَبْيَضَ مِنَ الْفَجْرِ قَرَطَاسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نہیں گئے تھے رات سے اس کے پیرے دار اور لوٹے جبکہ نہیں سفید ہوا تھا ابھی فجر کا قرطاس (کاغذ) اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے

حَظَّ اللَّيْلِ رَوَاقَهُ وَرَجَعُ وَمَا حَلَّ الْفَجْرُ وَثَاقَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

جبکہ ابھی گرایا ہوا تھا رات نے اپنا پردہ اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں کھولی تھی فجر نے اپنی قید اور بندش۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے

وَمَا قَامَ بِاللَّيْلِ زَاهِبٌ وَرَجَعُ وَمَا بَدَا لِلْفَجْرِ حَاجِبٌ اَللّٰهُمَّ

اور ابھی نہیں قیام کیا تھا رات میں کسی راہب نے اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں ظاہر ہوا تھا فجر کا دربان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو

سَرَى وَقَدْ طَرَحَ اللَّيْلُ وِسَادَتَهُ وَرَجَعُ وَمَا نَشَرَ الْفَجْرُ رَايَتَهُ

محبوب معراج پر ہے جبکہ رات نے ابھی اپنا گدا بچھا یا ہوا تھا اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں لہرایا تھا فجر نے اپنا پرچم

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَمَا رَوَّعَ اللَّيْلُ اَطْيَارَهُ وَرَجَعُ وَمَا حَرَّكَ الْفَجْرُ

جو محبوب معراج پر چلے جبکہ ابھی نہیں خوفزدہ کیا تھا رات نے اپنے پرندوں کو اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں جنبش دی تھی

مَنَارَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

فجر نے اپنے منبر نور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا اسْتَدَارَ اللَّيْلُ بِنُجُومِهِ وَرَجَعُ وَالْفَجْرُ

آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے گئے اور نہیں گردش کی تھی رات نے ساتھ اپنے ستاروں کے اور واپس آئے جبکہ

وَمَبْتَلُهُ فِي بُلْعُومِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

فجر نگلی ہوئی تھی شب کے حلقوم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

الْمَلِكَةِ قَدْ أَمَهُ وَخَلْفَهُ لِتَعْظِيمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سرور آپ کے آگے اور پیچھے تھے آپ کی تعظیم کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَتْ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کو تو نے سیر کرائی رات کے حصّہ میں مسجد

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَتْ بِهِ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ إِلَى

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے سیر کرائی بند آسمانوں تک اور

سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سدرۃ المنتہیٰ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَتْ بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ

کی آل پر جنہیں تو نے معراج کرائی قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو

أَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَأَنْتَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے دکھلانی بہت بڑی نشانی اور عطا کی انہیں آخری حد مراتب۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْرَمَهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مکرم فرمایا ہے

بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ساتھ ہمکلامی اور حفاظت و نگرانی کے اور رو برو بھٹانے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْرَمَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مشرف فرمایا تو نے ساتھ مشاہدہ

وَالْمُعَايَنَةَ بِالْبَصْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور دیدار بصری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَخَزَنَةُ السَّمَوَاتِ لَهُ نُقْبَاءُ يُنَادُونَكَ مَرْحَبًا

آل پر جو محبوب سفر معراج پر چلے اس شان سے کہ آسمانوں کے خازن آپ کے نگران و محافظ تھے جو پکار پکار کر کہتے تھے مرحبا

بِالْحَبِيبِ مَرْحَبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حبیب کے لیے صد مرحبا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْكَائِنَاتِ يُنَادِي هَذَا كَرِيمُ الْآيَادِي

کی آل پر جو شب اسراء چلے جبکہ سبھی کائنات منادی کر رہی تھی یہ ہیں سخی ہاتھوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي سَرَى إِلَى سَبْعِ طَرَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب چلے شب معراج ساتوں طبقات سماویہ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا أَمْلَاقُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق منادی کرتا تھا یہی ہیں پناہ گاہ

الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خلائق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جس محبوب نے معراج کیا اعلیٰ علیین تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا شَفِيعُ

آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق نداء دیتا تھا کہ یہی ہیں شفیع

الْمُذْنِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

المذنبین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى فِجْلِ الْفَوْزِ وَالرِّضْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر کہ جس محبوب نے سیر فرمائی مقام فوز و فلاح اور رضوان و رضا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا النَّذِيرُ الْعَرِيَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نداء دے رہا تھا کہ یہ ہیں ڈرانے والے آخری حدانذار تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْيَشِيرُ لَهُ يُشِيرُ وَيَقُولُ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ بیشتر قدرت ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا

هَذَا النَّبِيُّ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یہ ہیں (آخری اور مقصودی) نبی و رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى مَقَرِّ الرَّحْمَةِ وَجَبَابِ الْعَظِيمَةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب چلے شب معراج رحمت کی قرارگاہ اور حجاب عظمت تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَفِيقُ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

معراج کے لیے چلے تو منادی حق نداء دے رہا تھا یہی ہیں امت کے مہربان اور با وفا ساتھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى نَتَهَى مُرَادِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب شب معراج پر پہنچے اپنے منتہی مقصود تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ

کے لیے روانہ ہوئے اور منادی قدرت نداء دے رہا تھا یہی ہیں جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے اپنے تمام بندوں پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو چلے شب معراج

إِلَى حَضْرَتِ الْمُنَاجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناجات و خلوت خاص کے مقام تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا سَيِّدُ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا کہ یہی ہیں سیادت مآب

الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

زمینوں اور آسمانوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ

إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى حَيْثُ يَسْمَعُ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ

کی آل پر جو محبوب شب اسرار پہنچے اس مقام پر جہاں سے سنتے تھے ملائکہ کی قلموں کی آواز کتابت۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا مُبَلِّغُ الْأَنَامِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ

جو محبوب معراج کے لیے چلے تو منادی قدرت اعلان کر رہا تھا یہی ہیں پہنچانے والے ساری مخلوق کو دار السلام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور سیتینا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى إِلَى حَضْرَتِ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس محبوب نے معراج فرمائی بارگاہ رب العزت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

محمد پر اور سیتینا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں

الَّذِي نُزِّلَ الْقُرْآنُ عَلَى قَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہ کہ قرآن ان کے دل اقدس پر نازل کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَحَلِّ قَوْمِهِ وَبَجَّاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج میں پہنچے اپنے کامیابی و کامرانی کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا النَّبِيُّ الْأَرْمِيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعلان کرتا تھا یہی ہیں نبی امی جو ایمان کامل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ أَرْفَعِ مَحَلِّ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے بلند ترین اور بزرگ ترین

أَجَلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي خُلِقْتُمْ مِنْ أَجَلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

معراج کے لیے چلے تو منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں کہ جن کے طفیل تمہیں پیدا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ أَعْلَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے بلند ترین

مَكَانٍ وَأَرْضَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور پسندیدہ ترین مکان تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي وَسِعَ الْخَلْقَ

کی آل پر کہ جس محبوب کے معراج کے موقع پر منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں وہ کہ محیط ہے تمام مخلوق کو

جَاهَهُ وَعُلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان کی عز و جاہ اور بلند مرتبت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَحَلِّ الْقُرْبِ وَالْأُنْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ جو محبوب معراج میں پہنچے قرب و انس کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي

ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا الَّذِي خُصَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعلان کرتا تھا یہی ہیں جو مخصوص پھرائے گئے ہیں صلوات خمسہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں معراج میں ڈھانپ رکھا تھا

عَمَّرَتْهُ الْأَنْوَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

انوار الہیہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا مُنْقِذُ

ستینا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں بچانے والے

الْعَصَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عاصیوں کو آتش دوزخ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَّأَ كُلَّ مَرْتَبَةٍ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُمَّ

ستینا محمد کی آل پر جو معراج میں فائز ہوئے ہر قابل فخر مرتبہ پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں سرور اہل دنیا اور اہل آخرت کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا

عَلَى أَجْنَحَةِ الرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پناہ کے پروں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں

خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سب مخلوق سے بہتر و برتر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَلَّ عِدُّ التَّخْصِيصِ لَهُ مَنْظُومَةٌ

کی آل پر جو محبوب معراج پر گئے اور اختصاص کے باران کے لیے موتیوں سے جڑے ہوئے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي أُمَّتُهُ خَيْرُ أُمَّةٍ

کہ جن کے معراج کے موقع پر منادی حق اعلان کرتا تھا کہ یہی ہیں جن کی اُمت بہترین اُمت ہے

مَرْحُومَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جو رحم کی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ نَيْلِ الْمَغَانِمِ وَالْمَكَارِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر جو محبوب معراج میں پہنچے الغامات اور بزرگیوں کے مقام وصول تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

تو منادی حق اعلان کرتا تھا یہ ہیں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب

ابْنِ هَاشِمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بن ہاشم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ بِمُظَاهِرِ الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل پر جو معراج میں پہنچے کونین کے مظاہر تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے تو منادی حق ندا دیتا تھا یہی ہیں

الَّذِي أَقِيمَ بِهِ الدِّينَ وَزَانَ بِهِ الزَّيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جن کے ذریعے دین کو مضبوط و مستحکم کیا گیا اور زینت پائی ان کی بدولت زیبائشوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ نَرَيْتَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے درآغا لیکہ آراستہ فرمایا

اللَّهُ أَحْسَنَ نَرَيْنَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین زیبائش کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا الَّذِي شَرَّفَ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے اور منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں وہ جن کے ساتھ مشرف فرمایا

اللَّهُ بِهِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مُنَاجَاتٍ مِّنْ تَبَاةِ اللَّهِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب چلے اس ذات کی مناجات کے لیے جس نے انہیں نبی بنا یا تھا۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے

وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا عَظِيمُ الْقَدْرِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہ ہیں عظیم قدر و منزلت والے اللہ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ لِئِيلِ الْقَصْدِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو چلے شب معراج واسطے حاصل کرنے مقاصد

وَالْأَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آرزوؤں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي عُقِدَتْ لَهُ التَّيْبَةُ فِي

جو معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں جن کے لیے پیام نبوت ازل سے ہی کیا

الْأَنْزَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ أَشْرَفِ مَقَامٍ وَأَسْبَغِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو شب معراج پہنچے شریف ترین اور بلند ترین مقام تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے تو منادی حق

يُنَادِي هَذَا الَّذِي فَخَرَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعلان کرنے لگا یہی ہیں کہ فخر کیا ان پر ارض و سماء نے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب چلے معراج میں

أَعَزُّ مَنَزِلٍ وَمَحَلٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

عزیز ترین محل و منزل تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے تو منادی حق پکار کر کہنے لگا یہی ہیں جن کے

شَرُفَ بِهِ شَهْرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ شرف حاصل کیا ربیع الاول کے مہینہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ حَضْرَةِ الْكَرِيمِ وَالْكَرِيمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے اللہ کریم کے حریم ناز و کرم تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي لَوْلَا لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا

جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرتے لگایا ہی جو موجود نہ ہوتے تو دنیا نہ آتی طرف وجود کے

مِنَ الْعَدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر وہ عدم سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى الْاَفُقِ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو معراج میں پہنچے افق مبین تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرنے لگا

سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہی ہیں سردار اولین اور آخرین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ زَانَتْ اَخْبَارُهُ وَ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ زینت پا چکی تھیں خبریں ان کی اور

اَشْرَقَتْ اَنْوَارُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جگمگا اٹھے انوار ان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا حَبِيبِ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے تو منادی حق اعلان کر رہا تھا یہ میں اللہ تعالیٰ کے

اللهِ وَمُخْتَارُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حبیب و مختار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى عُلُوِّ مَكَانَتِهِ وَرُتْبَتِهِ اللَّهُمَّ

کی آل پر جو شب معراج پہنچے اپنے مرتبہ و مقام کی بندگیوں تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَادَمُ مِنْ خَصَالِ

شب معراج اور نہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرنے لگایا ہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے نبی بنایا جبکہ آدم علیہ السلام ہنوز اپنے گارے

فِي طِينَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مٹی میں پڑے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَأَعْلَامُهُ مَنَشُورَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ ان کے پرچم عظمت لہراؤئے گئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي تَمَّ

سیدنا محمد پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی قدرت اعلان کر رہا تھا یہی ہیں کہ کامل کر دیا ہے

اللَّهُ أَمْرًا وَنُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللہ نے ان کا امر اور نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَأَنْوَارُهُ تَتَوَقَّدُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر روانہ ہوئے جبکہ ان کے انوار ضوئہ فگن تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَادَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ

تو منادی حق اعلان کرنے لگا۔ یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور

الْجَسَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جسم کے درمیان تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ نُصِبَتْ عَلَى رَأْسِهِ الْوَيْكَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جو محبوب معراج کے پرچم روانہ ہوئے اس شان سے کہ نصب تھے ان کے سرناز پر سعادتمندیوں کے پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي لَوْلَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَادِثِ وَجُودٌ

اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں جو موجود نہ ہوتے تو کسی مخلوق کا وجود نہ ہوتا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى فِي أَمَاكِنِ الرُّوحَانِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے سیر فرمائی شب معراج روحانیت کے مکانات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کر رہا تھا

هَذَا عَرُوسُ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہی ہیں دولہا مملکت ربانیہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى عَلَى مَتْنِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے معراج کی پشت براق پر سوار ہو کر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو

الْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

منادی رب تعالیٰ اعلان کرنے لگا یہی ہیں رسول شہنشاہِ خلاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى الْمَحَلِّ الْأَعْلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمائی محلِ اعلیٰ تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَلِكِ الْمُؤَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

روانہ ہوئے شب اسراء تو منادی حق نے اعلان کیا یہ ہیں رسول ملکِ مؤلّی تعالیٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى مَكَانِ كَلْبَةٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب معراج پہنچے اپنے بند ترین

الْعِظَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَرْضَاهُ اللَّهُ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے سیر فرمائی اس شان سے کہ راضی کر دیا انہیں اللہ نے اور چن لیا ان کو۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَرْتَحَى اللَّيْلُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء روانہ ہوئے جبکہ عروس شبے اپنی

ذَوَائِبِهِ وَرَجَعَهُ وَمَا رَدَّ الْفَجْرُ جَلَابِئِبَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مینڈھیاں کھول رکھی تھیں اور واپس آئے اور ابھی نہیں لوٹا یا تھا فجر نے تاریکی شب کے قطعات کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَسْوَدَ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب شب اسراء چلے جبکہ سیاہ ہو چکا تھا

اللَّيْلِ مَرَاةً وَرَجَعَهُ وَمَا فَعَرَ الْفَجْرُ فَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

منظر شب اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں کھولا تھا فجر نے اپنا منہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ شَدَّ اللَّيْلُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ سخت باندھ رکھا تھا رات نے

خِنَاقَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا شَقَّ الْفَجْرُ أَحْدَاقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اپنا پھندا اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں پھاڑی تھیں فجر نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَكَوَالِبُ اللَّيْلِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے تو کواکب شب

تُقَابِلُهُ وَرَجَعَهُ وَمَا صَدَّ حَتَّ لِفَجْرِ بِلَابِلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کا استقبال کر رہے تھے اور واپس آگئے جبکہ ابھی بیلان فجر کے نغمے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَاللَّيْلُ قَدْ سَجَى

فرماستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے جبکہ رات کی تاریکی چھاپی

وَرَجَعُ وَمَا انْسَلَخَ فُجْرٌ مِّنَ الدُّجَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہتی اور واپس آئے کہ ابھی سپیدہ فجر پر سے تاریکی کا پردہ الگ نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَغَيَّاهِبُ اللَّيْلِ تَحْفُ بِغُرَابِهِ وَرَجَعُ

اور ستینا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور رات کی تاریکیاں گھبرا ڈالے ہوئے تھیں زاغ شب کے گرد

وَسَيْفُ الْفَجْرِ لَمْ يُسَلِّ مِنْ قَرَابِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور واپس آئے جبکہ شمشیر فجر نہیں کھینچی گئی تھی اپنی میان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اُسْبِلُ اللَّيْلُ سَتُورَ ظِلَامِهِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ لٹکانے ہوئے تھی رات اپنی ظلمتوں کے پردے

وَرَجَعُ وَمَا ابْتَسَمَ الْفَجْرُ عَنْ اِفَاحِ ابْتِسَامِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور واپس آئے جبکہ ابھی فجر نے تبسم نہیں کیا تھا اپنی مسکراہٹوں کی منک کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا بَرَزَتْ عُرُوسُ

ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ابھی نہیں باہر نکلی تھی کوئی عروس

مِّنْ خُدْرِهَا وَرَجَعُ وَمَا اسْتَبَانَ اِكْلِيلُ عَنْ فَرْقِ فَجْرِهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اپنے پردہ سے۔ اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں نمایاں ہوا تھا تاج فجر فجر کی چوٹی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا

و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے جبکہ ابھی نہیں

ذَهَبَتْ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ وَرَجَعُ وَمَا مَدَّ الْفَجْرُ ذِرَاعَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

گزی تھی رات کی ایک ساعت اور واپس آگئے جبکہ ابھی فجر نے اپنے بازو نہیں پھیلائے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء چلے جبکہ

الَّيْلُ مُلْتَحِفٌ بِسَوَادِهِ وَرَجَعُوا نَتَبَهُ الْفَجْرُ مِنْ قَادَةِ اللَّيْلِ

رات نے ابھی اوڑھا ہوا تھا اپنی تاریکی کا لحاف اور واپس آئے جبکہ اپنی نیند سے بیدار ہوئی تھی فجر اپنے سونے والوں سے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شب اسرار روانہ ہوئے

وَالرَّبُّ يَدْحُظُهُ مِنَ الْأَعْيَارِ وَرَجَعُ قَبْلَ بَيَانِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ

اور ان کا رب انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھا اغیار سے اور واپس آئے فجر کے واضح ہونے اور نماز کے طلوع

النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہونے سے قبل اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَدَوَاعِي الشُّوقِ تُنَادِيهِ وَرَجَعُوا وَمَا ظَهَرَ

کی آل پر کہ جو معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ شوق و محبت والے داعی انہیں بلا رہے تھے اور واپس آئے اور ابھی نہیں

الْفَجْرِ لِبَاغِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ظاہر ہوئی تھی فجر اس کے طلبکاروں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَلْبُ اللَّيْلِ مُنْكَسِرٌ بِمَجْوَياتِهِ فَبَلَغَهُ

آل پر کہ جو معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ شب شکستہ خاطر تھی اس کی علامات کے مرط جانے سے پس پہنچا یا

اللَّهُ بِمَسْرَاهُ فِيهِ عَيْنٌ إِرَادَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب کے اس میں بھر کرنے کی برکت سے اس کی عین مراد تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَاللَّيْلُ أَسْوَدٌ مِنَ الْفَجْرِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ رات زیادہ سیاہ تھی تا رکول سے

فَرَجَعُ بِمَسْرَاهُ وَهُوَ أَشْرَقُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پس وہ ہو گئی ان کے اسرار کی وجہ سے زیادہ روشن دن کے سورج سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لئے

مَسْرَاةً وَاللَّيْلُ لَمْ يَنْصُلْ خَضَابَهُ وَلَمْ يَحْفَلْ غُرَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جیکہ رات نے ابھی اپنا سیاہ خضاب نہیں اتارا تھا اور اپنے کوسے (سیاہی کو) صقیل (کافور) نہیں کیا تھا اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مَسْرَاةً وَلَمْ يَدِرْ بِأَرْحَىٰ الْفَجْرِ مِنْ وَكْرِهِ وَلَمْ تَلْجُ مِنَ الْأَفَاقِ بَرَاةً

اور ابھی نہیں نکلا تھا شہباز فجر اپنے گھونسلہ سے اور نہیں چمکا تھا آفاق سے آئینہ

فَجْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

فجر اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ وَخُرَّانِ السَّمَوَاتِ تَتَعَلَّقُ بِأَثْوَابِهِ

کی آل پر جو معراج سے لوٹے جیکہ آسمانوں کے نگران فرشتے ان کے دانتوں سے چمٹے ہوئے تھے

فَرِحَابِهِ وَبِمَا وُلِّي بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کی تشریف آوری کی خوشی میں اور جو کچھ آپ نے کر لوٹ رہے تھے اس کی خوشی میں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ بَقِيَّةَ لَيْلِهِ مِنْ مَسْرَاةٍ وَقَدْ اتَّحَفَهُ

سیدنا محمد کی آل پر جو واپس ہوئے اسرا سے رات کے بقیہ حصہ میں جیکہ ان کے مولیٰ نے ان کو

مَوْلَاهُ بِحُبِّهِ وَبِرِضَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تھے دئے تھے اپنی محبت اور رضا کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ مُحْفُوفًا بِالرِّضَا وَالْبَلَاءِ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے جیکہ رضائے الہی ان کا احاطے کئے ہوئے تھے اور ملائکہ اس شب

نَهَتْ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

میں ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے تھے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ وَقَدْ مَلَكَ مَفَاتِيحَ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے جیکہ وہ مالک ہو چکے تھے دنیا و آخرت کے خزانوں

خَزَائِنَ الدَّارَيْنِ وَسَمَاعِلِي مَنَاصِبِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَاللَّهُ

لی چابیوں کے اور حاوی ہو چکے تھے انبیاء و مرسلین کے مناصب و مراتب پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعْنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج سے

مِنْ مَسْرَاةٍ وَبِئَالِدِيهِ يَسْعَىٰ وَمَا خَبَأَ عَنْ اُمَّتِهِ نَفْعًا اللّٰهُمَّ صَلِّ

لوٹے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں وہ اپنی پوری قوت صرف کر رہے تھے اور نہیں بچا رکھا تھا انہوں نے اپنی امت سے کوئی نفع۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعْنَا مِنْ مَسْرَاةٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج سے لوٹے اس شان سے

وَقَدْ نَوَّرَ نُوْرَهُ الْفَضَا وَقَدْ بَلَغَ فِي اُمَّتِهِ السُّوْلَ وَالرِّضَا اللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ منور کر رکھا تھا ان کے نور انور نے ساری فضا کو اور آپ واصل ہو چکے تھے اپنی امت کے بارے میں اپنے مقصد و رضائیک۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعْنَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج سے واپس ہوئے

مَسْرَاةٍ وَقَدْ بَلَغَ الْقَصْدَ وَالْمَنَا وَالرَّبُّ يَثْنِي عَلَيْهِ بِجَمِيْلِ

جبکہ پہنچ چکے تھے اپنے مقاصد اور آرزوں تک اور ان کا رب ثناء کر رہا تھا ان کی اوصاف جمیل کے ساتھ۔

وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَجَلَّ

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ مشغول ہیں ہم اور بابرکت ہے نام تیرا اور بلند تر ہے بزرگی تیری اور بزرگ ترین

ثَنَّاكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ثناء تیری اور نہیں کوئی معبود برحق سوائے تیرے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعْنَا مِنْ مَسْرَاةٍ بِمَا رَجَعْتَ

کی آل پر جو محبوب معراج سے واپس آئے بمع ہر اس نعمت کے جس کو محبوب رکھتے تھے اور مغرب اور نہیں

يَرْضٰى دُخُوْلَ اَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِهِ لِنَارٍ تَتَلَطَّطُ بِاللّٰهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پسند کریں گے اپنے کسی بھی امتی کا داخل ہونا بھڑکتی آگ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

وَقَدْ أَشْرَقَتِ السَّمَاوَاتُ بِنُورِ سَنَاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْأَفَاقُ بِطِيبِ

جبہ جگگا اُٹھے تھے تمام آسمان ان کے نور و ضیاء سے اور معطر و معنبر ہو چکے تھے تمام آفاق ان کا روشن اور جلال

شِدَاةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوشبو سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ اسْتَنَارَ الْكُونُ بِنُورِ مَحْيَاهُ وَعَبَقَ

جو محبوب معراج سے لوٹے اس شان سے کہ منور ہو گیا سارا جہان ان کے رُخ نور کی ضیاء سے اور مہک اٹھی پوری

الْجَوُّ بِنَشْرِهِ وَرِيَاءَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فضا ان کی خوشبو کی مہک اور خجری شکل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَأَعْلَامُ عِزِّهِ ظَاهِرَةٌ وَ

آل پر جو محبوب معراج سے واپس ہوئے جبکہ ان کی عز و جاہ کے پرچم ظاہر اور نمایاں تھے

أَنْوَارُ طَلْعَتِهِ السَّعِيدَةِ بَاهِرَةٌ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کے چہرہ زیب کے انوار سعادت چشم عالم کو خیرہ کر رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ حَقَّتْهُ الْأَنْوَارُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج سے واپس آئے جبکہ آپ کا الوار خداوندی نے احاطہ کیا ہوا تھا

وَاجْتَلَتْ عُرَّتُهُ الْبَارِكَةُ الشُّبُوسُ وَالْأَقْبَارُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

اور شرمندہ کر رکھا تھا ان کی جبین اقدس کے نور نے اقبابوں اور ماہتا بوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مُحَقَّقًا بِالسَّعَادَةِ وَلِوَاءِ مَنْصِبِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى قِبَابِ السِّيَادَةِ

جبکہ ہر طرف سے سعادت مندوں نے ان کا احاطہ کر رکھا تھا اور ان کے منصب عالی کا پرچم سیادت کے قبہ جات پر نصب تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ اسْتَنَارَتْ الْاَكْوَانُ بِطَلْعَتِهِ وَاسْتَضَاءَتْ

معراج سے لوٹے جبکہ روشن ہو چکے تھے سبھی جہان ان کی جبین اقدس سے اور جگمگا رہے تھے

الْاَفَاقُ بِيَمِينِ غُرَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام آفاق ان جبین اقدس کی نورانیت و صیاء سے لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَرَاحِبَ بِهِ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے اور خوش آمدید کہا انہیں

مَلِكُ الْحِجَابِ وَحَيَاةً وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَهَنَاءَ اللَّهُمَّ

حجاب عظمت کے موکل فرشتہ نے اور سلام نیاز پیش کیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا اور مبارکباد دی لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مِنْ مَسْرَاهُ بِالْمَقْصُودِ وَالْاِمَانِي وَرَدَّةً جِبْرَائِيلُ إِلَى بَيْتِ امِّ

حصول مقاصد اور نبیل مرام کے بعد اور واپس لائے انہیں جبرائیل علیہ السلام ام ہانیؓ کے

هَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکان تک لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي اَكْتَنَفَهُ الرَّفْرَفُ عِنْدَ قَوْلِهِ لَبَّأُ أَمْرٍ يَنْزُولُهُ اللَّهُمَّ

کہ جس محبوب کو اپنی آغوش میں لیا رفرف نے واپسی پر جبکہ نزول کے ساتھ مامور ہوئے لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سینے سے لگایا

مِيكَائِيلُ عِنْدَ رَوَاجِهِ وَحَبَلَهُ فَوْقَ جَنَاحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میکائیل نے بوقت روانگی کے اور اٹھایا انہیں اپنے پروں پر لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّهُ إِسْرَافِيلُ إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اپنے سینے سے لگایا اسرافیل علیہ السلام

صَدْرِهِ وَبَشَّرَهُ بِتَبَاهِمِ أَمْرَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نے اور بشارت دی انہیں ان کے امور کی تکمیل و تمہیم کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ جِبْرَائِيلُ بِرِكَابِهِ وَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ سَرَى بِهِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ تھامی جبرائیل علیہ السلام نے اس محبوب کی رکاب اور پہنچایا انہیں وہیں پر جہاں سے لے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَلَّغَهُ

گئے تھے لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو پہنچایا

جِبْرِيْلُ إِلَى فِرَاشِهِ وَأَعْتَلَا وَافْتَحَرَ بِمَسْرَاهُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

جبرائیل نے ان کے بستر ناز تک اور بلند ہو گئے اور نخر و سر بلندی حاصل کی ملا اعلیٰ پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَلَّى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ لوٹے

جِبْرِيْلُ عَنْهُ وَوَدَّعَهُ وَأَوْدَعَهُ النَّوْمَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ اللَّهُمَّ

جبرائیل امین ان کے پاس سے اور انہیں الوداع کہا اور سوچا انہیں وہ نور جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا

تھا لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسُ كِبَالِهِ عَلَى بَسَاطِ الْحَقِّ وَعُلُوُّ جَلَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کا عروس کمال بساط حق اور اس کے علو جلال پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسَ شَرِيْعَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل بیت پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس شرع مبین

الْبَيْضَاءِ عَلَى صَفْحِ الصَّفْحِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

عفو و درگزر اور رضا کے میدان میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسُ إِصْطِفَاءِهِ عَلَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا جس محبوب کے اصطفاہ و انتخاب کا عروس

عَرْشِ الْجَلَالِ وَبِهَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عرش جلال اور اس کے حسن و خوبی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسُ مِعْرَاجِهِ عَلَىٰ كُرْسِيِّ الْبَهَاءِ

آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس معراج حسن و خوبی کی کرسی پر

وَسِرَاجِهِ وَسِرَاجِ مَنَاجِحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور اس کے چراغ پر اور نمایاں چراغ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسُ جَمَالِ الرَّيْنِ بِحَاضِرِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس جمال و زینت قباب قوسین

قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کی محاسن میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسُ مَعَالِيهِ عَلَىٰ رَفَارِفِ الْعِزِّ وَمَبَانِيهِ اللَّهُمَّ

آل پر کہ جس محبوب کی بلند کرداریوں کا عروس عز و جاہ اور اس کی بنیادوں کے رفرفوں پر جلوہ گر ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسُ تَمَامِهِ عَلَىٰ قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَسُؤْمِ مَقَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس محبوب کا عروس تکمیل و تمہیم فردوس کے قبہ جات اور اس کے بلند مقامات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس

سُلْطَانِهِ عَلَىٰ مَرَائِبِ التَّائِيدِ وَأَرْكَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سلطنت و حکومت تائید خداوندی اور اس کے ارکان کی سواریوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ تَكْوِينِهِ وَاسْتَوَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کا عروس ایجاد و تخلیق جلوہ گر اور غالب ہوا

عَلَىٰ أَجَامِ الْجَنَّةِ الْبَاوِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جنت ماویٰ کے گنجان درختوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ فَجْلَاهُ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ أَسْرَةِ الْفَخْرِ وَالْعُلَىٰ

کی آل پر کہ جس محبوب کے جلوہ گاہ اعلیٰ کا عروس جلوہ گر ہوا فخر و علا کے عرشوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کی

عَرُوسُ ابْتِهَاجِهِ عَلَىٰ مَعَالَىٰ رُتَبِ الْجَنَانِ وَأَدْمَرَا جِهَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عروس فرحت و سرور جنات کے مراتب عالیہ اور ان کے منازل رفیعہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس

اِقْتِرَابِهِ عَلَىٰ فِرَاشِ الذَّهَبِ وَعُلُوِّ قُبَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

قرب شہری فرشتوں اور سونے کے عالی شان قیہ جات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی سعادت مندوں کا عروس

قَبْرِ سَعُودٍ عَلَىٰ مَرَاتِبِ السُّعُودِ وَذُرُوعِ عَمُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ماہتاب سعادتوں کے مراتب عالیہ اور ان کے عمودوں کی چوٹیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس

أَنْوَارِهِ عَلَىٰ صَوَامِعِ التَّكْرِيمِ وَأَمْرُ تَفَاعٍ مَنَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

انوار و تجلیات تکریم والی عبادت گاہوں اور ان کے بلند مناروں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور سیتینا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس

مَهْرَ جَانِهِ عَلَى مِعْرَاجِ التَّخْصِيصِ وَاعْتِزَّازِ مَكَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عید و مسرت اختصاص و تقرب کے معراج پر اور ان کے مکان کے عز و شرف پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے

عَرُوسُ مَطَالِعِ الْمَصُونَةِ عَلَى أَعْلَامِ الدُّرَّةِ الْمَكْنُونَةِ

محفوظ و معصوم مطالع کا عروس انوار درہ مکنونہ کے پرچموں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور سیتینا محمد کی آل پر

الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَنْصِبِهِ الْمَيْكِينِ عَلَى مَنْصَبَاتِ دِيْوَانِ الْمُؤَيَّدِينَ

کہ جلوہ گر ہوا ان کے پائیدار منصب کا عروس تائید خدا پانے والے

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

انبیاء و مرسلین کے دیوان کی جلوہ گاہوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ حَرَمِهِ وَحَرَمَاتِهِ عَلَى

آپ کی آل پر کہ جن کے حرموں اور حرماتوں کا عروس جلوہ گر ہوا

سَرَادِقَاتِ الْعَرْشِ وَشَرَفَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سراپردہائے عرش اور اس کے کنگروں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَجَلَّةِ الرَّاقِي عَلَى مَنَابِرِ الْخُلُودِ الْبَاقِي

آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی بلند مرتبت جلوہ گاہ کا عروس خلود و بقاء کے منبروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسُ طَرَازِ الْمَبْرُورِ عَلَى كُتْبَانِ الْمِسْكِ وَعَرِصِ الْكَافُورِ اللَّهُمَّ

ان کے مقبول نقش و نگار کا عروس کستوری کے ٹیلوں اور کافور کے میدانوں پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی

مَحْضَاهُ الْعَلِيَّةُ عَلَى مَفَارِقِ تَيْجَانِ التُّورِ وَمَظَاهِرِ السَّنِيَّةِ اللَّهُمَّ

عالی مرتبت خالص دوستی اور محبت کا عروس نورانی تاجوں کی چوٹیوں اور عمدہ مظاہر پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسُ مَحَافِلِهِ وَشِبَائِلِهِ عَلَى بُرُوجِ طَالِعِ الْفَلَكَ وَعَظِيمِ

ان کے محافل اور اخلاق عالیہ کا عروس فلک کے ستاروں کے بروج اور عظیم

مَنَازِلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

منازل پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مُشَاهِدَاتِهِ عَلَى صَفْحَاتِ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ

پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے مشاہدات کا عروس لوح محفوظ کے صفحات اور

وَحَافَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے اطراف پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ حُسْنِهِ الْفَائِقِ عَلَى مَرَاتِقِ سَبْعِ

آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے عالی شان حسن کا عروس ساتوں آسمانوں کی

الطَّرَائِقِ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرْفَ وَالْوَسِيلَةَ

بلندیوں پر۔ لے اللہ عطا فرما انہیں شرف و فضل اور فضیلت و برتری اور مقام و وسیلہ

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْعُلْيَا الْمَنِيْفَةَ وَ

اور درجہ رفیعہ اور بلند قدر، عالی شان، بلند مقدار منزلت اور

اجزیه عنایا رب ما هو اهلہ واجزیه عننا افضل ما اجازت ربنا

جزاء دے انہیں ہماری طرف سے اے ہمارے پروردگار جو ان کے شایان شان ہے اور جزاء دے انہیں افضل ترین جزاء ان تمام سے جو کسی بھی نبی کو

عن اُمّتہ وزدنی درجتہ وشرّفہ ورفعتہ اللّٰم اعظم ربنا

ان کی امت کی طرف سے عطا کی ہے اور ترقی دے ان کے درجات اور شرف و رفعت میں۔ اے اللہ عطا کر سیدنا

محمداً سؤلہ وبلغہ مامولہ واجعله اول شافع واول

محمد کو ان کا مطلوب اور پہنچا انہیں ان کی تمنا و آرزو تک اور بنا انہیں پہلا شفیع اور پہلا

مشفع اللّٰم عظم برہانہ وثقل میزانہ وابدح حجّہ وارفع

مقبول الشفاعت۔ اے اللہ عظمت دے ان کے برہان کو اور وزنی میزان کے میزان کو اور روشن فرما ان کی دلیل کو اور بلند

فی اعلیٰ علیین درجتہ ورفی اعلیٰ المقربین منزله فاعطہ اللّٰم

فرما اعلیٰ علیین میں ان کے درجہ کو اور مقرب ترین لوگوں میں ان کی منزل کو پس عطا کر انہیں۔ اے اللہ

سؤلہ وبلغہ مامولہ وایتہ الوسیلة والدرجة الرفیعة وابوئہ السلام

ان کا مطلوب اور واصل فرما انہیں ان کی تمناؤں تک اور عطا کر انہیں مقام وسیلہ اور بلند درجہ اور پہنچا انہیں مقام

المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الیبعاد اللّٰم ابلغ عنایت ربنا

محمود تک جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے اللہ پہنچا ہماری طرف سے ہمارے نبی کو

صلی اللّٰہ علیہ وسلم مع الرّوح والجسم فی الثّوم والیقطر

صلوٰۃ اور سلام آپ کے روح اور جسم دونوں پر ہماری نیند اور بیداری ہر دو حالت میں اور

اسئلک بالارواح الموکلة بنفحات الدہران توکدنی برزقک

میں سوال کرتا ہوں ان ارواح کے طفیل جو موکل ہیں زمانہ کی ہوا کے جھونکوں پر کہ مجھے تقویت بخشنے اپنی مخصوص و مقرب روح

لیس شیء قوی ینعنی عن الوقوف علی کتبک

کے ساتھ کہ کوئی قوی و توانا شئی بھی مجھے روک نہ سکے اپنی فطرت کے کشف اور اطلاع سے تا آنکہ

اقف فی الحضرة الّتی منها اخرجتنی وانکم ربنا

میں جاٹھروں اس بارگاہ میں کہ جہاں سے تو نے مجھے نکالا تھا اور غوطہ زن ہو جاؤں ان انوار میں جن سے تو نے

أَبْرَزْتَنِي فَأَقْوِي عَلَى مُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ النُّورِ أَنْبِيَاتٍ وَأَحْيِنِي

مجھے ظاہر کیا تھا پس میں قادر ہو جاؤں ارواح نورانیہ کے روبرو ہونے پر اور مجھے زندگی بخش

بِشَاهِدَةِ الْحُظُوظِ السُّرِّيَّاتِ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَدِيعُ النُّورِ اللَّهُمَّ

سرایت کرنے والے حظوظ کے مشاہدہ کے ذریعے۔ بے شک تو ہی انوکھے نور والے ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَفِيرِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور اپنے سفیر پر

فِي السُّفَرِ أَعْرَافِ وَرَسُولِهِ فِي الرُّسُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا

سفیروں میں اور رسول پر رسولوں میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر

هَذَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَبْلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا

میں نیکی اور تقویٰ کا اور ایسے عمل کا جس پر تو راضی ہو۔ اے اللہ ہم پر آسان فرما

سَفَرَنَا وَأَطْوِلْنَا الْبَعْدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ

ہمارا سفر اور سمیٹ دے ہمارے لیے اس کی مسافت۔ اے اللہ تو ہی ساتھی ہے سفر میں اور میرے بعد بھی

الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ

نگران و محافظ ہے اہل و عیال میں۔ اے اللہ بے شک تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی صعوبتوں سے اور

كَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْبَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ اللَّهُمَّ

ریج و الم سے دوچار کرنے والے منظر سے اور بری بازگشت سے مال۔ اہل اور اولاد میں۔ اے اللہ

أَطْوِلْهُ الْبَعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي الطَّيْرَ وَالطَّيَّارَ

سمیٹ اس کے لیے دوری و مسافت اور آسان فرما ہر سفر۔ اے اللہ عطا فرما مجھے بہت نیز اڑان والی اور کثرت

لِسَفَرِ الْكَثْرَةِ فِي مَنْزِلِ مَقَامِ الْوَحْدَةِ وَالْعُرْفَانِ وَالشَّاهِدِ وَ

اڑانے والی روح جو کثرت سے سفر کر کے لے جائے مقام وحدت و عرفان اور شاہد و

الْمَشْهُودِ الَّذِي يَصِيرُ صَيْقِلًا لِكُلِّ وَرْدَةٍ مِنْ مَنَصَّةِ الْمَوْجِدِ

مشہود کی منزل کی طرف جو صیقیل شدہ ہو تمام کدورت سے موجد کی جلوہ گاہ

فِي الْعُرْفَانِ وَالْوَحْدَةِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ لِي مَنَزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ

عرفان اور وحدت میں۔ اے اللہ مجھے اتار بابرکت منزل میں اور تو ہی بہتر ہے ایسی منازل

الْمُنْزِلِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَالْفِتَانَ نَزْرًا

میں اتارنے والوں سے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اس منزل کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور کفایت فرما ہمیں اس کے

وَشَرِّ مَا فِيهِ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ

شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے۔ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے شر سے

مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدِي وَ

اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیر اور

أَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرِبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبِلَدِ وَالْبِلَادِ

سیاہ سانپ کے شر سے اور سانپ اور بچھو سے اور شر میں رہنے والے اور جہنم دینے والے

وَمَا وَلَدَ اللَّهُ كَمَا أَخْرَجْتَنَا مِنْ مَّزْنِنَا هَذَا سَالِمِينَ بِلَدِنَا

اور جہنم پانے والے کے شر سے۔ اے اللہ جیسے نکالا تو نے ہمیں اس منزل سے سلامتی کی حالت میں ہی پہنچا

غَيْرَ آمِنِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي

دوسری منزل تک امن کی حالت میں۔ اے اللہ تو ہی ہے ساتھ سفر میں اور میرے بعد بھی خلیفہ و نگران

الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَانَةِ

میرے اہل میں۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر میں ضائع ہونے سے۔ اور غمگینی سے

فِي الْمُنْقَلَبِ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَنْفِهِ نَزَّ وَدَكَ اللَّهُ تَقْوَى وَ

واپسی پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ والا زادِ راہ عطا کرے اور

جَنْبِكَ الرَّدَى وَغَفَرَ ذَنْبِكَ وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْرِ أَنْ تَكُونَ

تجھے ہلاکت سے دور رکھے۔ گناہ معاف فرمائے اور خیر کی طرف متوجہ کرے جہاں کہیں بھی

تَوَجَّهْتَ اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَإِلَيْكَ رُكِنْتُ وَإِلَيْكَ

تو توجہ کرے۔ اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہی نکلا ہوں میں۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہی

اُعْتَصِمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رَجَائِي

تمسک کیا ہے اور تجھی پر توکل کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا بھروسہ اور میری رجا ہے

اللَّهُمَّ الْفِتْنَى مَا أَهْبَنِي وَمَا لَا أَهْمُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

اے اللہ مجھے کفایت فرما مجھے فکر مند کرنے والے امور سے اور دیگر امور سے۔ اور جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے

مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي

عزت والا ہوا تیرے پر توسی۔ اور بزرگ ہے تیری ثناء اور نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے۔ اے اللہ مجھے زاہد راہ سے

التَّقْوَىٰ وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَجِّهْنِي إِلَى الْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

تقویٰ کا۔ اور گناہ معاف فرما اور مجھے خیر کی طرف متوجہ فرما جدھر بھی متوجہ ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُورِ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی صعوبتوں سے اور بازگشت کے وقت غمگینی سے اور جمعیت کی

بَعْدَ الْكُؤُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

پراگندگی سے اور برے منظر سے اہل اور مال میں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر

كُلِّ عَفْرِيَّتٍ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ وَأُزَلَّ أَوْ أُزَلَّ وَأُظْلَمَ أَوْ

سرکش کے شر سے اور پناہ طلب کرتا ہوں گمراہی سے اور گمراہ کئے جانے سے۔ لغزش کھانے اور لغزش دئے جانے سے۔

أُظْلَمَ وَأَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَى اللَّهِ وَفَّقْنِي بِنِعْمَتِكَ الْأَعْلَىٰ كَمَا

ظلم کرنے اور ظلم کئے جانے سے جاہل ہونے اور جاہلانہ سلوک کئے جانے سے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی بلند شان نعمت کی جیسے کہ

مُحِبٌّ وَتَرْضَىٰ بِرِضَاكَ يَا أَعْلَىٰ وَبِتَوَجُّهِ الْعَفَافَةِ بِالرِّضَىٰ بِسْمِ

تو پسند فرمائے اور راضی ہو ساتھ اپنی رضا کے اے بلند ترین شان والے۔ اور پاکدامنی کی طرف توجہ کے ساتھ خوشدلی کے اللہ

اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَرَيْنُ

کے نام کی برکت سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے تمام کلمات تامات کے طفیل اس کے غضب و عقاب سے اور اس کی

شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ اللَّهُمَّ

ممنوق کے شر اور شیاطین کے افسوں و منتزوں سے اور ان کے میرے پاس موجود ہونے سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُدَامِ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بڑھاپے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں دب کر مرنے سے اور غرق

الْغُرُقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَخْبِطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ہونے سے اور اس سے کہ بے راہ کرے مجھے شیطان موت کے وقت اور

مِنَ الْوَقْمِ وَالْوَكْمِ وَمِنَ الْقِرْطَبَانِ وَقَلْتَبَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رکاوٹ اور سخت بندش سے اور پچھاڑے جانے اور الٹ پلٹ ہونے سے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل بیت پر جو محبوب تیرے عبد خاص اور رسول،

النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ الَّذِي كَانَ إِيْدِيهِ بِالْوَحْدَةِ وَإِخْرَاجِهِ إِلَى

نبی اُمّی ہیں جن کا حریم ناز میں داخل کرنا بھی وحدت کے ساتھ تھا اور ان کا برآمد کرنا بھی

الْوَحْدَةِ وَكُلُّ مِعْرَاجِهِ مَعَ الْوَحْدَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ

وحدت کی طرف تھا اور ان کا تمامی معراج بھی وحدت کی معیت میں تھا۔ پاک ہے اللہ واحد

الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْغَفَّارِ الصَّمِدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي

احد۔ پاک ہے غفار بے نیاز۔ پاک ہے اللہ جس نے

لَمْ يَلِدْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ يُولَدْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

کسی کو نہیں جنا۔ پاک ہے اللہ جو نہیں جنا گیا۔ پاک ہے اللہ اور وہ نہیں اور نہیں ہے کوئی

كُفْوًا أَحَدًا سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَا مَوْلُودٍ هُتِرَ

اس جیسا۔ پاک ہے وہ جو نہ والد ہے اور نہ مولود فرما دیجئے وہ

اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمِدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

اللہ بیکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اور

لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدًا

نہیں اس کی مانند کوئی ایک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان موت القرآن بفضل
ایرودمان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول یا رکاب شاہ کونین حضرت محمد ﷺ
مُسکلی بہ

مجموعۃ الرسول

الجزء الحادی عشر

فِي تَهْلِيلِهِ وَتَسْبِيحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ تَصِلَ إِلَى خَلْقِكَ مِنْ خَلْقِكَ بِرَأْسِكَ مِنْ خَلْقِكَ بِرَأْسِكَ

حضرت خواجہ خوجکان جو محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَجْمَلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِأَفْضَلِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خوبصورت ترین "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل اور افضل ترین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِأَكْمَلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل اور کامل ترین "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ مالک، جزاء کے دن کا

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۚ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۚ صِرَاطَ

"اے ان صفات کمال کے ساتھ موصوف" تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں چلا راہ راست پر راہ

الَّذِیْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ سَیِّدُ

نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ شہنشاہ برحق۔ ظاہر محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو صادقین کے

الصَّادِقِیْنَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ

سرور ہیں۔ لا الہ الا اللہ" کا اقراری ہوں مطابق اسی گنتی کے جو اللہ ہی کے علم میں ہے "لا الہ الا اللہ" کا اقراری ہوں

عَدَدَ مَا فِي حِلْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِي غُفْرَانِ اللّٰهِ لَا

مطابق اس گنتی کے جو اللہ کے علم میں ہے "لا الہ الا اللہ" کا اقراری ہوں مطابق اسی گنتی کے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں ہے

إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِي عُلُوشَانِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِي

لا الہ الا اللہ" کا اقراری ہوں مطابق اس تعداد کے جو اللہ کے علوشان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق اس تعداد کے

بُرْهَانِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِي تَبْیَانِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ

جو اللہ کے برہان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق اسی تعداد کے جو اللہ کے تبیان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں

عَدَدٌ زُهِدِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ زُهِدِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ

مطابق شمار زہد باری تعالیٰ کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے زاہدوں کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد

أَنْبِيَاءِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ رُسُلِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ

اللہ کے انبیاء کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد رسل اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد

صُلَحَاءِ عِبَادِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ جَمِيعِ عِبَادِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ

عباد صالحین کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام عباد اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ

الله عَدَدٌ كُلِّ خَلْقِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ ذُرِّيَّةِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ

اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام ذرات کے۔ لا الہ الا اللہ

الله عَدَدٌ حَرَكَةِ ذُرَّةِ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا سَوَى

اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام ذرات کی حرکات کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد ان تمام اشیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے

الله لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ كُلِّ مَّا سَوَى اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ

سوا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق عدد تعداد ہر گل کے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ نہیں کوئی معبود

إِلَّا هُوَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

برحق مگر وہی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

صَاحِبِ تَهْلِيلِ الرَّحْمَنِ مِنَ الرُّبُورِ وَالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ

آقا بیان کرنے والے ہیں الوہیت رحمن کی وحدانیت کو زبور۔ تورات۔ انجیل اور

الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا

فرقان حمید اور قرآن مجید سے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى وَسَلِّمْ

معبود برحق مگر اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں اور صلوات و سلام

وَبَارِكْ اللهُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ عَدَدٌ نَحْوِ أَحْمَدَ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ صَلَّى

اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد ارادہائے احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ وَبِهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعدد و اہمیت اور علم احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ وَجْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ

صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابقت و جاہت احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ نُبُوِّهِ

الا اللہ صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق بیداری

أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور سمجھداری احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدُ كُنْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ

مطابق حقیقت احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ كُرْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ

مگر اللہ مطابق شدت اور تکلیف احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ فِقْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق فقہ احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلواۃ و سلام اور

بَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ شَبْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ

برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق شبہ احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلواۃ

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ وَهْنِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ مطابق بدنی ضعف احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ وَشْنِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ

صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعدد و سترخوان و اسے رفقاء احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ وَزْنِ أَحْمَدُ

الا اللہ۔ صلواۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق وزن و وقار احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا اله الا الله - صلوة و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زاری اور کما احمد

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق (نورانی)

لَوْنَ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رنگت احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ عَدَدُ دُنِّ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ

اللہ مطابق زم مزاجی احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ لَحْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اشارات یا ترنم و ترتیل احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور

بَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ كَوْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہستی احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة

وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ قَدْرٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابقت کنایت و اقادیت احمد کے لا اله

إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ عَيْنِ

الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد نورانی پردہ و حجاب

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدُ غُصْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ

مطابق رباع وحدت کے شجر طوبیٰ کی شاخ احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ غُصْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اعداد اخلاق احمد کے لا اله الا اللہ - صلوة و سلام اور

وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَيِّنٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق نرم خوئی احمد کے لا الہ الا اللہ صلوات

وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَيْنٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا

و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ذات احمد کے لا الہ الا

اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَحْيٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ

اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق وحی احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَشْيٍ أَحْمَدَ

الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زیب و زینت احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَهْرٍ

لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق درہائے آبدار احمد کے

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق

عَدَدَ نَظْمٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا

بغہمت یا بلندی مرتبت احمد کے لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَعْرِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ

معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد خرمہ ہائے احمد کے لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَعْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ

لے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق (ہدایت امت پر) حرص احمد کے لا الہ الا اللہ صلوات و سلام

وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَعْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تکلم احمد کے لا الہ الا اللہ صلوات و

سَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَمْرٍو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق حضور احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ عُلُوِّ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق علو احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ عَضْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہر عضو احمد کے لا الہ الا اللہ

إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ أَحْسَنِ

اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق بخشش و عطاء احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ طَنِي

لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق صحت و عافیت

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق سرعت

كَلْبِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدُ ضَحْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مطابق کامل ظہور احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ صَفْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ

مگر اللہ مطابق خلوص اور طہارت باطن احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ شَلْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

برحق مگر اللہ مطابق اعضاء احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ شَطْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہر پہلو اور جانب احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام

وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ زَهْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق حسن منظر احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ رَهْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وسلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق نرم رفتاری احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ رَعُو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا

صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق نگہبانی احمد کے لا الہ الا اللہ

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ دَهِي أَحْمَدَ لَا

اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زیر کی اور عظمت احمد کے

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ حَلُو أَحْمَدَ

لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق شیرینی کلام احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ حَطُو

لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تحریک

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ

احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اندرونی

حَشْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اعضائے احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ حَطُو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مطابق شدید محنت احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ جَعُو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مطابق جمع کرنے احمد کے کمالات کاملین کو لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ بَعُو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَصَدْتُ

مگر اللہ مطابق غلبہ احمد کے لا الہ الا اللہ۔ لے اللہ تیری طرف ہی میں نے قصد کیا

وَبِيَابِكَ وَقَفْتُ وَإِلَى جَنَابِكَ التَّجَاتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِحَبْدِكَ

اور تیرے ہی در پر میں اکھڑا ہوں اور تیری بارگاہ کی ہی پناہ حاصل کی ہے اور تیری ہی اطاعت کی اور ساتھ محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ تَوَسَّلْتُ وَيَا ذَا الْبَارِكِ الْأَكْبَرِ

صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اور ساتھ تیرے اولیاء کرام کے توسل کیا میں نے نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ۔ پاک ہے میرا رب جو عظمت کا مالک اور علم ازلی والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے

رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَكَ

میرا رب جو بلند شان و برتر ہے۔ پاک ہے وہ اور عالی مرتبت ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْكُرْسِيِّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

آسمانوں اور زمینوں کا اور رب کرسی کا اور رب عرش عظیم کا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِي الْمُبْصِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ پاک ہے خالق۔ بیحد و سالم پیدا کرنے والا۔ صورت گری فرماتا والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک

الْكَرِيمِ الرَّزَّاقِ الْغَنِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُعْطِي

پاک ہے کریم رزاق غنی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے معنی کرنے والا۔ عطا فرمانے والا۔ کشائش دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے بہت بخشنے والا۔ مہربان۔ رحم فرمانے والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے

الْوَهَّابِ الرَّبِّ الْفَتَّاحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي

بہت ہبہ فرمانے والا۔ مالک۔ کشادگی کار فرمانے والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے مالک قدرت اور

الْهُيْبَةِ وَالْعُظْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعَلَةِ

ہیبت اور عظمت کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے مالک عظمت و عزت

وَالرَّحْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْحَكِيمِ

اور رحمت کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے دائمی علم والا۔ سزاوار حمد صاحب حکمت۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَجِيدِ السَّمِيعِ الْقَادِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ پاک ہے صاحب مجد اور سمیع و قادر۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے رفعت و منفعت اور

الْوَاسِعُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّكَارِ الْغَفَّارِ الْجَبَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وسعت و فراخی عطا کرنے والا نہیں مہجود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے پروردگار پرش۔ بہت بخشنے والا۔ جبار نہیں مہجود برحق مگر اللہ

سُبْحَانَ الْبَصِيرِ الْكَبِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّبُورِ

پاک ہے دیکھنے والا خبر رکھنے والا صاحب کبریا۔ نہیں مہجود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے بہت صبر و حلم والا

الشُّكُورِ الثُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْصِي الْبَاقِي لَا

جزائے شکر دینے والا نور نہیں مہجود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے زندہ کرنے والا۔ احاطہ کرنے والا ہمیشہ رہنے والا۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَامِعِ الرَّافِعِ الْمَرَّافِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

مہجود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے جمع کرنے والا۔ بلند کرنے والا۔ بلند کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْوَافِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّشِيدِ الْوَدُودِ

والی عالم مرتبت۔ صاحب وفا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سیدھی راہ والا۔ محبت رکھنے والا

الْمُودُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ

محبوب لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم۔ مالک عظمت لا الہ الا اللہ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّشِيدِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ پاک ہے صاحب رشد و ہدایت۔ سزا وار حمد۔ بزرگتر۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے

الْبَدِيعِ الْمُنِيعِ الْوَسِيعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُبْصِرِ الْمُدَبِّرِ

انور کھے انداز میں پیدا کرنے والا۔ صاحب قوت غالبہ مالک وسعت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نقاش ازل۔ صاحب تدبیر

الْمُؤَخِّرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْبَاقِدِ الْوَاحِدِ لَا إِلَهَ

مؤخر کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے واحد۔ صاحب مجد۔ مالک وسعت لا الہ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْوَلِيِّ الْحَفِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

الا اللہ۔ پاک ہے غنی۔ متولی امور۔ شفیق۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْفَرْدِ الصَّبْدِ الْمَسْجِدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْوَلِيِّ الْحَفِيِّ

یتاء و یگانہ۔ بے نیاز۔ بزرگی عطا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عالم مرتبت۔ قریب۔ شفیق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلَأِذِ الْعَزِيزِ الْمُعْجِزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے جائے پناہ۔ عزیز۔ عزت بخش۔ عاجز کر دینے والا۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمُصَوِّرِ الْمُبْدِي الْمَدْبُرِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ

پاک ہے تقاض ازل۔ بڑائی بخشے والا۔ صاحب تدبیر پاک ہے اللہ۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش مجید اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے

بِأَنْوَاءِ اللُّغَاتِ وَالْبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مختلف اقسام کی لغات اور اسالیب بیان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ لِلْعَرْشِ أَلْفَ لِسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بتلایا کہ عرش کی ہزار زبان ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ فِي خَيْرِهِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَلْفِ نَوْعٍ مِنَ

خبر دی حدیث صحیح کے مطابق کہ عرش اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے ہزار قسم کی تسبیح

التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ پانچواں آسمان

الْخَامِسَةَ مِنْ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَأَهْلَهَا رَافِعُونَ أَصْوَاتَهُمْ

یا قوت سرخ سے ہے اور اس کے باسی بلند کرتے ہیں اپنی آوازیں

بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کے ورد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

سَبَّحَتْ فِي كِفِّهِ الْحِطْيُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

دست اقدس میں تیسب پڑھی کنگریوں نے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

سَبَّحَ فِي كِفِّهِ الطَّعَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

دست اقدس میں طعام نے تیسب کسی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو سلام

وَصَلَاةٌ تُحَمِّدُ بِهَا مَنَّا حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اللَّهُمَّ

و صلوات کہ لائق حمد ٹھہرائے ان کو بہت زیادہ پاکیزہ با برکت حمد کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَصَلَاةٌ تُحَمِّدُ بِهَا مَنَّا حَمْدًا جَزِيلًا

صلوات و سلام نازل فرما اپنے محمود پر جو کہ حمد کرائے ان کی ہم سے بھی بہت بڑی

جَمِيلًا ذَا اَيِّمًا يَدَاوِمُ مُلْكُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوبصورت حمد جو ہمیشہ رہنے والی ہو ملک الہی کے دوام تک۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

وَالْاُمُورِ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَبْكَارِ

جو کہ مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ "اور تسبیح بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی جو اس کی حمد سے مقرون و متصل ہو کچھلے وقت اور سحر

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمَا شِئْتَ مِنْ تَقْطِیْرِ تَقْدِیْرِ الْحُكْمِ وَبِمَا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل تیری تقدیر کے حسن ترتیب کے جو تیری مشیت میں ہے اور بظیفیل

اَخْرَجْتَهُ مِنَ الْقَضَاءِ فِی اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِیْ

اس قضا کے جس کو ظاہر فرمایا لوح میں اور قلم میں کہ میری حاجت بر لائے

وَتُعَلِّمَنِیْ مِنْ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَفْهُومَاتِ وَالتَّهْلِیْلَاتِ وَ

اور سکھائے مجھے معلومات و مفہومات سے اور تہلیلات و

التَّسْبِیْحَاتِ كَمَا هُوَ فِی عِلْمِكَ الْحَقِّ بِكَ اِلَيْكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

تسبیحات سے جیسے کہ تیرے برحق علم میں ہے ساتھ اپنی توفیق کے طرف اپنی ذات کے۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ السُّبُوْحِ الْفَتْوُوحِ الْوَلُوْجِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ

پاک ہے سبوح صاحب حکم مکلف ٹھہرانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قدرت

الْمُقْتَدِرِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ذِی الْغُفْرِ اِنْ الْحَلِیْمِ لَا اِلَهَ اِلَّا

صاحب اقتدار۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے مالک مغفرت و بخشش صاحب علم لا الہ الا

الله سُبْحَانَ مَالِكِ الْمُلْكِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْبَارِئِ الْبَصُوْرِ

اللہ۔ پاک ہے مالک ملک لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سلامتی کے ساتھ پیدا فرمانے والا نقاش ازل

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ

لا الہ الا اللہ - پاک ہے عزیز و غالب۔ تنکستیوں کو دور کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے جبار

الْمُتَكَبِّرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صاحب کبریاں لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ جو بلند تر ہے اس سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ

اللہ۔ پاک ہے اللہ جو بلند تر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ

جو بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھراتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے مقدس ترین پاکیزہ ترین

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے رب ملائکہ اور روح کا۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ ذِي الْأَرْوَاحِ وَالنَّعْمَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

پاک ہے مالک ظاہری اور باطنی نعمتوں کا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے شہنشاہ

الْمَقْصُودِ الْمَوْجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

جو مقصود حقیقی ہے۔ دائمی حقیقی وجود والا ہے لا الہ الا اللہ پاک ہے وہ جو کہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّبِ الْمَعْلَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے امن دینے والا۔ نگہبانی کرنے والا تعلیم دینے والا۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْغَفَّارِ الْوَهَّابِ الْقَهَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّزَّاقِ

پاک ہے بہت بخشنے والا۔ عطا کرنے والا مالک قہر۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بہت روزی رساں

الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ الرَّحِيمِ

حاکم۔ دائمی علم والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے تنگی دینے والا فراخی پیدا کرنے والا۔ بندی عطا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُعِزِّ الْمُدِلِّ السَّيِّدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عزت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ سننے والا لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْبَصِيرِ الْحَكِيمِ الْعَدْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ

پاک ہے دیکھنے والا۔ صاحب حکم اور سراسر عدل۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب لطف

الْخَبِيرِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَلِيبِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

وہ بجز مالک عظمت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب علم۔ مالک مغفرت۔ شکر کی بہت زیادہ جزا دینے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ الْخَفِيظِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

والا لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عالی مرتبت۔ صاحب کبریاء۔ حفاظت فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْمُقَيِّتِ الْحَسِيبِ الْجَلِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الرَّقِيبِ

صاحب اقتدار۔ حساب لینے والا۔ صاحب جلالت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم۔ نگہبان۔

الْحَسِيبِ الْجَلِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الرَّقِيبِ الْبُحْبُوبِ

حساب لینے والا۔ صاحب جلالت لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم۔ نگہبان۔ قبول کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَّاسِعِ الْحَكِيمِ الْوَدُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے وسعت والا۔ صاحب حکمت۔ مودت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْبَجِيدِ الْبَاعِثِ الشَّهِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ اللَّهُ

داعی بزرگی والا۔ (قبروں سے) اٹھانے والا۔ مشاہدہ فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ کتنا عظیم ہے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَحْلَمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ۔ کتنا حلیم ہے اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَعْدَادِ كَرَامِ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق گنتی و شمار اللہ تعالیٰ کے اکرام و انعام کے

اللَّهُ فِي عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو اس کے علم میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَسَنَاتِ صَفْوَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق اعداد و حسنات ان لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقِيَامِ وَالْحَرَكَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد قیام اور حرکات کے

وَالْقُعُودِ وَالسَّكَنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور قعودوں اور سکناات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مُخَلَّلِ الْمَسْجِدَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر مطابق تعداد مہنی ہوئی اشیاء کی درمیانی مٹھالی جگہوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّقْطِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد نقاط

وَالكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور کلمات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْهَوَاجِسِ وَالنِّيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد (عباد کے) قلبی حیالات اور نیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق مخلوقات کے سانسوں کی مقدار کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَنَاطِقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ہر خاموش اور ہر متکلم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَسْبِيحَاتِ سُكَّانِ السَّمَاءِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان تسبیحات کے جو ساتوں آسمانوں کے ساکنین نے کی ہیں

الطَّرَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ الْوَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت۔ پائیدار۔ محبوب۔ لا الہ الا اللہ



سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمُحْصَى الْمُبْدِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُبْعَدِ الْمُجَى

پاک ہے سزاوار حمد۔ احاطہ کرنے والا۔ آغاز فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے ٹھانے والا۔ زندہ کرنے والا

الْمُبِيتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لَا إِلَهَ إِلَّا

مارنے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے یکتا، دائمی حیات والا ہمیشہ قائم رہنے والا۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُقَدِّمِ الْمُؤَخِّرِ الْأَوَّلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْآخِرِ

اللہ۔ پاک ہے سبقت دینے والا۔ مؤخر کرنے والا۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سب سے آخر

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَالِيِ الْمُسْتَعَانَ الْمُتَعَالَى

ظاہر۔ باطن و مخفی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے والی۔ مطلوب الامانت والا۔ شان۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَرِّ التَّوَّابِ الْمُنتَقِمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے محسن۔ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ انتقام لینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْعَفْوِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَلِكِ

درگزر کرنے والا۔ صاحب رافت و رحمت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ملک (کائنات) کا مالک۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے جلال و اکرام کا مالک۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمُقْسِطِ الْجَامِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ

پاک ہے صاحب عدل۔ جمع فرمانے والا (روز حشر) لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بذات خود صاحب غنا اور دوسروں کو غنی کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُعْطِيِّ الْمَانِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عطا کرنے والا اور محروم رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الضَّارِّ النَّافِعِ الْنُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْهَادِيِ الْبَدِيْعِ

مالک ضرر اور منفعت اور سراسر نور۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ہدایت دینے والا۔ انوکھی ایجادات والا

الْبَاقِيِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَارِثِ الرَّشِيدِ الصَّبُورِ لَا إِلَهَ

ہمیشہ رہنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سب متروکات کا مالک۔ صاحب رشد۔ بہت بردبار۔ لا الہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

إِلَّا اللَّهُ پاک ہے صاحب حکمت۔ بے ابتداء۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ۔ پاک سے

السَّمِيعِ الْبَصِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْمَعِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا

والمعنى سمع وبصر والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت مضبوط و مستحکم وجود والا۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَفُوتُ أَبَدًا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ۔ پاک ہے جو موت سے منزہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد روشن ستاروں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ قَابِلِ الثُّوبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے تو یہ قبول کرنے والا۔ شدید عذاب والا۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمِدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْقَدِيمُ مِنْ كُلِّ

اللہ۔ پاک ہے یکتا و یگانہ۔ بے نیاز۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو قدیم ہے ہر شئی سے

وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ اللَّهِ سُبْحَانَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور ہر شئی کے بعد بھی موجود رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے قیامت کے دن کا مالک۔ لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

إِلَّا اللَّهُ اللہ ہر چیز اپنے مرتبہ ذات میں فنا پذیر ہے ماسوائے اس کی ذات اقدس کے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

مَنْ لَا غَافِرَ لِدُنُوبِهِ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَافِرِ

وہ کہ نہیں گناہ بخشتے والا مگر وہی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے (روز حشر) اٹھانے والا

الْوَارِثِ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَدْلِ الْعَمَلِ

متردکات کا مالک حقیقی۔ بہت عطا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سراسر عدل۔ امن دینے والا

الْمُهَيَّبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السُّلْطَانِ الْبَارِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا

تکبران۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سلطان حقیقی و وسعت رزق بخشتے والا۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْصَى الْمُبْدَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُنْتَقِمِ

اللہ - پاک ہے احاطہ کرنے والا - آغاز فرمانے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے صاحب انتقام

الْمُنْعِمِ الْعَفْوِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَسِيبِ الْبَقِيَّتِ الْحَفِیْظِ

و صاحب انعام - درگزر فرمانے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے حساب لینے والا صاحب اقتدار حفاظت فرمانے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَافِظِ الْقَاهِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے صاحب حفظ - مالک قہر - لا الہ الا اللہ - پاک ہے

الْقَابِضِ الرَّافِعِ الْخَافِضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الثَّوَرِ الْمَقْسُطِ

تنجی پیدا کرنے والا - رفعت اور پستی دینے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے سراسر نور صاحب عدل

الْجَامِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَانِعِ الضَّارِّ النَّافِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا

جمع فرمانے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے روکنے والا - ضرر اور نفع کا مالک - لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَجُودِ الْمُقَدِّمِ الْوَاسِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ - پاک ہے بہت جود و نوال والا - سبقت دینے والا - صاحب وسعت لا الہ الا اللہ - پاک ہے

الرَّاحِمِ الرَّحْمَنِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الرَّحِيمِ

رحم کرنے والا - بے غایت رحمت والا - پردہ پرش - لا الہ الا اللہ - پاک ہے صاحب ملک - دائمی رحمت والا

الْعَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَلِيمِ الرَّءُوفِ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ

راہل ایمان کے لیے بخشنے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے صاحب حلم - صاحب رافت - بہت عطا کرنے والا - لا الہ

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَابِرِ الْكَاشِفِ الْكُرُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

الا اللہ - پاک ہے تنگ کنی دور کرنے والا - رنج و الم دور کرنے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے

ذِي الْكُرَمِ الْوَهَّابِ الْعَطِيَّاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّدِيدِ

صاحب کرم و جود بہت بخشنے والا عطیات کا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے سخت

الْعُقَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَافِرِ الذُّنُوبِ وَالْخَطِيئَاتِ

عقاب والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے ذنوب اور خطاؤں کا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ النَّاصِرِ الْمُبِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا إله إلا الله - پاک ہے خدائے برحق - ناصر اور توفیق بخشتے والا - لا إله إلا الله - پاک ہے

الْغَفَّارِ الْمُسْتَعَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْمِ صَفِيُّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُوْحٌ

صاحب مغفرت عظیمہ اور مطلوب التوفیق - لا إله إلا الله آدم صغی اللہ کے چنے ہوئے ہیں - نہیں معبود برحق مگر اللہ - نوح

نَجِيُّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کے راز دار ہیں - نہیں معبود برحق مگر اللہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں - نہیں معبود برحق مگر اللہ -

إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اسماعیل اللہ کے لیے ذبح کئے ہوئے ہیں - لا إله إلا الله اللہ موسی اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں - نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ دَاوُدَ خَلِيفَةَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ لَا

مگر اللہ - داؤد اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں - نہیں معبود برحق مگر اللہ - عیسی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح ہیں - نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حَبِيبٌ

معبود برحق مگر اللہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں - نہیں معبود برحق مگر اللہ محمد اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ شَفِيعُ اللَّهِ حَقًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نہیں معبود برحق مگر اللہ محمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ برحق شفیع ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ آيَاتِ الْبَاهِرَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر واضح آیات کی تعداد اور ظاہر بینات کے الفاظ

وَالْأَلْفَاظِ الظَّاهِرَاتِ وَالْأَنْفَاسِ الظَّاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نفوس ظاہرہ کے انفاس کی مقدار کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اللَّحْظَاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد (مخوق کے) دیکھنے اور

الْأَنْفَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

انس لینے کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْوَاعِ وَالْأَجْنَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق تعداد انواع اور اجناس کائنات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْخَطَرَاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد خیالات اور

الْأَوْجَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اندریشہ ہائے خلق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَسْنَانِ وَالْأَضْرَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر مطابق تعداد (مخلوق کے) دانتوں اور ڈاڑھوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَفْرَادِ الْجَنَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد جنتی اور انسانی

وَالنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

افراد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الثَّبَاتِ وَالزُّمُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ثباتات کے اور کھیتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْفُرُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شاخوں کے پتوں کی تعداد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر

مَخْصُوصٍ وَمَرْفُوعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صاحب خصوصیت کے اور بلند مرتبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَوْصُولٍ وَمَقْطُوعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر دولت وصل سے مشرف کے اور محروم وصل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُفْرَدٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر مفرد اور جمع کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الدِّيَابِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد نجات

وَالزُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام پھولوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدَ الْأَزْمِنَةِ وَالشُّهُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَا كَرَّمَ اللَّهُ لِرَأْسِهِ

مطابق تعداد تمام زمانوں کے اور مہینوں کے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ وہ کتنا صاحب کرم ہے نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

برحق مگر اللہ یکتا و بے ہمتا۔ محمد اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ہے شہنشاہ۔ سراسر تقدس۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ملک ظاہر و محسوس اور غیر محسوس ملک کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

مالک لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب رافت۔ بہت مہربان۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْغَفُورِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بہت بخشنے والا۔ رحم فرماتے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم عظیم صاحب حکمت و دانش۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْقُوِيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت ذاتیہ صاحب وفاء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب لطفت۔ ظاہر و باطن کی خبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَدِيرِ

رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بے نیاز معبود۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بخشنے والا مخلوق سے محبت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَكِيلِ الْكَفِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ

رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے کارساز۔ ذمہ دار۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نگران۔ محافظ

الْقَادِرِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْعَرَبِيُّ لَا يُلْقِيهِ الْبَشَرُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الَّذِي يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذِكْرًا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ہمیشہ رہنے والا۔ بذات خود موجود۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے زندہ کرنیوالا۔ موت دینے والا۔ لا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِيءِ لَا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے زندہ و پائندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عدم سے وجود میں لانے والا۔ بے عیب پیدا کرنیوالا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عالی مرتبت و صاحب عظمت لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے یکتا و یگانہ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَبِيبِ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ایمان دینے والا۔ نگہبان۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے محبوب

الشَّهِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْكَرِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اور مشاہدہ فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب حلم اور صاحب کرم لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْأَخِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

سب سے اول۔ بے ابتداء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سب سے سب سے اول۔ سب سے آخر۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْهَآءُ وَاحِدًا أَحَدًا

سب سے ظاہر۔ سب سے باطن و مخفی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ یگانہ و بے ہمتا جو اکیلا ہے معبود برحق ہے۔ یگانہ

صَدًّا وَتَرَا حَيًّا قَيُّومًا أَبَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا أَوْلَٰمٌ

بے نیاز۔ یکتا۔ زندہ و پائندہ دائمی جس کی نہ بیوی ہے اور نہ بچے اور نہیں

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرًا تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ

اس کا کوئی شریک ملک میں اور نہیں اس کا کوئی مددگار ضعف و ناتوانی کی وجہ سے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے جیسے کہ حق ہے بڑائی بیان

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوُضُوءِ وَ

کرنے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو وضو اور

التَّيْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

تیمم کو جاری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو صاحب

التَّوَالٍ وَالتَّكْرُمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

جو در توال اور صاحب شرف و کرامت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو اعمال صالحہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَرَاءِ النَّاجِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کامیابی بخشنے والی آراء کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَفْعَالِ

و نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو وزنی اور باوقار افعال

الرَّاحِجَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الرَّغَائِبِ وَالتَّوَائِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو پسندیدہ اخلاق والے اور ارباب نوافل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ السَّنِيَّةِ وَالتَّحَافُلِ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو بلند شان مقامات اور محافل والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصَّلَوَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو فرض نمازوں

الْمَفْرُوضَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الزَّكَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

جو فرض زکوٰۃ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّيَامِ وَالتَّقِيَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر جو محبوب روزہ دار اور شب بیدار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو حرمت والے مہینوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سلامتی کے موجب ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہترین

خَيْرِ الْكَلَامِ بِشَرْحِ صَدْرِ السَّلَامِ أَوْ بِسْمَاعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوِ الصَّوْتِ

کلام والے ہیں جو مشتمل ہے۔ اسلام کے لیے شرح صدر پر یا لا الہ الا اللہ کے سنانے پر یا اس کے ذکر

أَوْ بِبُلْهَمِ إِلَّا لَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر یا الہام کرنے والے کے الہام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

آل پر جو محبوب اس قول والے ہیں "نہیں معبود برحق مگر اللہ وہی رحمن رحیم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا رُبُّ النَّفُوسِ لَا

نہیں معبود برحق مگر اللہ جو فضل عظیم کا مالک ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو نفوس کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَرِيفُ الْقَوْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرْدُ الْوَتْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا

معبود برحق مگر اللہ صاحب شرافت امیر و حاکم۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ منفرد۔ اکیلا۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ عَادِلُ الشَّاكِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ لِمَا يَرِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ

اللہ جو عادل جزائے شکر دینے والا ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو پورا کرنے والا ہے ہر ارادہ کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو

الْمُؤَيَّدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَافِعُ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَافِرُ الذُّنُوبِ لَا إِلَهَ

ہمیشہ توفیق دینے والا ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو دور کرنے والا ہے رنج و الم کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بخشنے والا ہے گناہوں کا۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ دَافِعُ الرُّتْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَلِكُ الْمَوْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِاللَّهِ

مگر اللہ جو بلند کرنے والا ہے مراتب کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بادشاہ و مددگار ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ ساتھ توفیق اللہ تعالیٰ کے

الْوَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الدِّيَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلْقُ الْمَنَانُ

جو متولی امور خلائق ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہت جزا دینے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو خلاق اور بہت احسان فرماتا ہے۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ الْحَتَّانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ مُقِرِّنٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مگر اللہ جو بہت مہربان ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جس کا علم ہر شئی کو محیط ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو

بِكُلِّ حَسَنَةٍ مُؤْتَمِنٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

واسطے ہر اچھائی کے امانتدار ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو درجات کا بلند کرنے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ

أَحْسَنُ الْبَرَكَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ كُلِّ نِقَاءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جو سب سے اچھی برکتوں والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ سب سے زیادہ سہ سے پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ

الْجَنَّةِ لِقَاءُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جنت میں سے اللہ کا دیدار۔ لا الہ الا اللہ جو شہنشاہ۔ شکستگی خاطر کو دور کر دیتا ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ واحد

الْقَهَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فہار۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ غالب۔ بہت بخشنے والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو کرم گستر اور پردہ پوش ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمَتَّعَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

معبود برحق مگر اللہ جو صاحب کبریا اور عالیشان ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو رات اور دن کا پیدا کرتا ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْبُودُ بِكُلِّ مَكَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُنِجُّ مِنَ الْغَمِّ

معبود برحق مگر اللہ جو لائق پرستش ہے ہر مکان میں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ہر

لِسَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ أَحْسَابٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

زبان کے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو جانا پہچانا ہے ساتھ ہر احسان کے نہیں معبود برحق مگر اللہ ہر دن وہ

هُوَ فِي شَأْنٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نئے فعل میں ہے۔ لا الہ الا اللہ (کہتے ہیں) اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ (کا قول) اللہ کی طرف سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّيْمِيُّ

امان ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ نہیں (خبر سے) اور نہ فوت (یہی پر)

إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا

مگر اللہ کی توفیق سے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور ہم نہیں عبادت کرتے مگر اسی کی لا الہ الا اللہ حق ہے حق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَوَعْدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعْبُدُونِي وَقَالَ اللَّهُ

لا الہ الا اللہ (اللہ کہتے ہیں) از روئے ایمان اور خلوص قلب کے۔ لا الہ الا اللہ (کہتے ہیں) بطور عبادت اور غلامی کے

إِلَّا اللَّهُ تَلَطُّفًا وَرَفَقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ (کہتے ہیں) واسطے حاصل کرنے لطف اور مہربانی کے۔ لا الہ الا اللہ ہے ہر چیز سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ ہے

بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ يَبْقَىٰ رَبُّنَا وَيَفْنَىٰ وَيَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ

ہر شے کے بعد۔ لا الہ الا اللہ ہمیشہ رہے گا رب ہمارا اور فانی اور مردہ ہو جائے گی ہر چیز

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

نہیں معبود برحق مگر اللہ بادشاہ۔ برحق۔ ظاہر۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ شہنشاہ برحق

الْيَقِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

یقینی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ عالیشان مالک عظمت۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ بردبار۔ کرم گتر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ

نہیں معبود برحق مگر اللہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

مگر اللہ جو سب سے زیادہ عزت و کرامت والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ حَبِيبُ التَّوَابِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاحِمُ الْمَسَاكِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَادِي

اللہ جو توبہ کرنے والوں کا محبوب ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو مساکین پر رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو ہادی ہے

الْمُضِلِّينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَلِيلُ الْخَائِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانُ الْخَائِفِينَ

گمراہ کرنے والوں کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو رہنما ہے حیرت زدگان کا نہیں معبود برحق مگر اللہ جو امان ہے خوفزدگان کے لیے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ النَّاصِرِينَ لَا إِلَهَ

نہیں معبود برحق مگر اللہ جو فریادوں سے فریادوں کا نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین مددگار ہے نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْغَافِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

برحق مگر اللہ جو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین محافظ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ

خَيْرُ الْوَارِثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

جو بہترین مالک ہے متروکات کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین حکم دینے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین روزی رسان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ لَا إِلَهَ

لا الہ الا اللہ کہتے ہیں دنوں اور مہینوں کی گنتی کے مطابق نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین فتح و کثافت دینے والا ہے۔ نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

برحق مگر اللہ یگانہ و یکتا ہے اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عبد خاص کی نصرت فرمائی اور اپنے لشکر کو عزت دی اور عساکر

وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ

کفار کو ایسے شکست دی۔ اور نہیں کوئی چیز بعد اس کے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو صاحب نعمت ہے اسی کے لیے فضل و شرف ہے اور اسی کے لیے ہے

الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالذُّهُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

اچھی ثناء۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں راتوں اور زمانوں کی گنتی کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ (کا اعتراف ہے)

أَمْوَاجِ الْبُحُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيِّ وَالصُّحُورِ لَا إِلَهَ

سمندروں کی موجوں کی تعداد کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ (کا اعتراف ہے) مطابق تعداد آندھیوں کے خشکیوں میں اور صحراؤں میں۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ مِنْ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمٍ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشُّوكِ

لا اللہ (کا اذعان ہے) آج کے دن سے صور میں پھونکنے جانے کے دن تک۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام کانٹوں۔

وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْمَدْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

نباتات اور درختوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام بالوں کے اور ڈھیلوں کے۔ لا الہ الا اللہ مطابق تعداد

الْوُرْدِ وَالشَّيْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَوَاطِرِ الظُّنُونِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

گلاب کے پھولوں اور تمام پھولوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد خیالات و ظنون کے۔ لا الہ الا اللہ مطابق تعداد

لَمَحِّ الْعَيُونِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَيْرِ مَتَابِعِ الْجَمْعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

آنکھوں کے پھینکنے کے لا الہ الا اللہ ہے مطابق بہتر اشیاء کے ان سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ

عَدَدَ أَوْ رَاقٍ إِلَّا شُجَارًا لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ إِلَّا اللَّهُ

ہے مطابق تعداد برگھٹے درختوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد بارشوں کے قطرات کے۔ لا الہ الا

اللَّهُ عَدَدَ قَطْرَاتِ الْبُحَارِ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اللہ ہے مطابق تعداد سمندروں کے قطرات کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام شب و روز کی گھڑیوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ ذَرَّاتِ

لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام مخلوقات کے سانسوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام زمینوں

الْأَرْضِيِّينَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ اللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا

کے تمام ذرات کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد راتوں کے جب وہ تاریک ہوں اور صبحوں کے جب

تَنْفَسَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ أَمْوَاجِ الْعَيُونِ فِي الدَّارِينَ إِلَّا إِلَهَ

وہ روشن ہوں۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد چشموں کی امواج کے دونوں جہان میں۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَجَرَى بِهِ قَلْبُهُ وَنَفَذَتْ بِهِ

لا اللہ ہے مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا صرف اسی کو علم ہے اور جن کیساتھ اس کا قلم قدرت جاری ہو اور

مَشِيئَتُهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَلْقِهِ وَبِرْنَةِ عَرْشِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ

جن کے ساتھ نافذ ہوئی مشیت اس کی۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق شمار اس کی مخلوق کے اور وزن عرش کے اور اس کی رضا و ذات کے

وَمَدَادِ كَلِمَاتِهِ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَوْجُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَّا إِلَهَ

اور اس کے کلمات کی روشنائی کے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو موجود ہے ہر مکان میں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ

الْمَوْجُودُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ مِنْ كُلِّ

جو موجود ہے آسمان اور زمین میں (بغیر احتیاج کے)۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ امان دے امان دے ہر

زَوَالِ إِيْمَانٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَلَأَ جَمِيعَ الْمَلُوءِ وَالْجَوْمِ مِنَ الْأَرْضِيِّينَ

زوال ایمانی سے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق پوری تمام بھری ہوئی اشیاء کے اور فضا کے تمام زمینوں

وَالسَّمَوَاتِ وَاللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالْجَنَانِ وَالنَّيِّرَانِ

آسمانوں اور لوح و قلم اور عرش و کرسی اور جنات اور آتشخانے

وَالْحَشْرُ وَالْمِيزَانُ يَزِنُ بِمِثْقَالِهَا وَذَرَاتُهَا وَعَدَدُ مَا قَبِيلُهَا وَمَا بَيْنَ

دوزخ اور حشر اور میزان کے جو ہموزن ہوں تمام کے مشاقل اور ذرات کے اور مطابق شمار ان اقوال کے جو کئے جائے اور مطابق ان کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

جو کئے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

اللہ تعالیٰ نے "نہیں کوئی شئی مگر تسبیح کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھتے

تَسْبِيحَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ان کی تسبیح کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ

اور وہی عزیز حکیم ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کسی اللہ کے لیے ہر اس شئی نے جو آسمانوں میں ہے اور

الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي

زمین میں اور وہی غالب حکمت والا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَقَالَ

میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جو شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ غالب۔ حکمت والا ہے اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ الْمَلِكِ

اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ ملک اسی کہے اور

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبِّحَ اسْمُكَ

حمد اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "پاکیزگی بیان کرو اپنے

رَبِّكَ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَبُّكَ

رب اعلیٰ کے نام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "پاک ہے

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَصَلَّى

اللہ۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور نہیں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جنہوں نے فرمایا "پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ مشغول ہیں اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

جنہوں نے فرمایا "نہیں معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ جتنا وہ بے ہمتا۔ اسی کے لیے ملک ہے اور وہ مستحق حمد ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اور وہی ہر شئی پر کامل قدرت والا ہے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى عَلَى

جو مشیت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو بلند شان صاحب عظمت ہے۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا پاک ہے اللہ عالی شان مالک عظمت اور اس کی حمد کے ساتھ متلبس ہیں۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ قَالَ لَا

میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "جو شخص لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ

إِلَّا إِلَهَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہے اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ واقعی نہیں معبود برحق مگر میں میں بہت بڑا ہوں

وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اور بندہ جب کہے نہیں معبود برحق مگر اللہ بیکتا وہ بے ہمتا۔ اللہ فرماتا ہے "نہیں معبود برحق مگر میں اکیلا

وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

نہیں کوئی شریک میرے لیے اور جب بندہ کہے "نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ اسی کے لیے ہے ملک اور وہی ہے

الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ

مستحق حمد کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "نہیں معبود برحق مگر میں۔ ملک میرا ہی ہے اور میں ہی سزاوار حمد ہوں اور جب بندہ کہے نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ

برحق مگر اللہ اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ کے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں معبود برحق مگر میں اور نہیں طاقت

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ

اور قوت مگر ساتھ میرے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "تسبیح ہے

اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي

اللہ تعالیٰ کے لیے مطابق تعداد ان اشیاء کے جو آسمان میں پیدا کیں اور تسبیح ہے اللہ کے لیے مطابق تعداد زمین

الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ

کی مخلوق کے اور تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مطابق ان اشیاء کے جو دونوں کے درمیان ہیں اور تسبیح ہے اللہ کے لیے مطابق

مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا

تعداد ان کے جنہیں وہ پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کیلئے کبریائی ہے مانند اس کے اور حمد کا اثبات ہے اس کیلئے مثل اس کے (اقرار ہے اسکا کہ نہیں

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الْقَوِيِّ الْحَلِيمِ

طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے مانند اس کے۔ پاک ہے صاحب رفعت۔ صاحب قوت۔ بردبار

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مَنْ يَمُنُّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ سُبْحَانَ

پاک ہے اللہ عالی شان صاحب عظمت۔ پاک ہے وہ جو احسان فرماتا ہے اور اس پر احسان نہیں کیا جاتا۔ پاک ہے

مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ سُبْحَانَ مَنْ يُبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَيْهِ

وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاسکتی۔ پاک ہے وہ کہ برادت کا اظہار کیا جاتا ہے طرف اس کے طاقت و قوت سے

سُبْحَانَ مَنْ التَّسْبِيحِ مِنْهُ عَلَى مَنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ سُبْحَانَ مَنْ كُلُّ نَفْسٍ

پاک ہے تسبیح سے اس کی جانب سے اور اس کے جس نے اس پر اعتماد کیا۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح و پاکیزگی ہے اسکی طرف سے کہ ہر شئی

يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُ لَكَ

تسبیح کہتی ہے جو متصل و مقرون ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ پاک ہے تو نہیں معبود برحق مگر تو اور تیری حمد کیساتھ متلبس ہیں اے کہ تسبیح

الْجَمِيعِ سُبْحَانَ الْمُخْلِصِ لِكُلِّ مَسْبِيحٍ سُبْحَانَ الْعَالَمِ كُلِّ كَرِيمٍ

کہتی ہے اس کی سبھی کائنات۔ پاک ہے وہ جو مخلص ہے ہر تسبیح کرنے والے کا۔ پاک ہے وہ جو علم رکھنے والا ہے ہر چھپی شئی کا

سُبْحَانَ مَنْ أَجْرَى الْمَاءَ فِي الْبِحَارِ وَالْعَيُونِ سُبْحَانَ الْمَكْرَمِ الْكَلِيمِ

پاک ہے جس نے جاری فرمایا پانی کو سمندروں اور چشموں میں۔ پاک ہے جو آسان کرنے والا ہے ہر

مَعْسُورٍ سُبْحَانَ الْمُنْفِيسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْمُقَرَّبِ عَنْ

مشکل امر کا۔ پاک ہے جو تخفیف کرنے والا ہے ہر مقروض سے۔ پاک ہے جو دور کرنے والا ہے رنج و الم

كُلِّ مَحْزُونٍ سُبْحَانَ مَنْ كَانَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ ط

ہر رنجیدہ کا۔ پاک ہے وہ جس کے خزانے کاف اور نون کے درمیان ہیں یعنی کن کے۔

سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ه سُبْحَانَ

پاک ہے وہ جو ارادہ کرے کسی شئی کا اور فرمائے اسے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ کہ

الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ مَلِكُهُ وَقُدْرَتُهُ وَفِي الْبَرِّ

آسمان اور بلندی میں ہے عرش اس کا اور زمین میں (بھی) اسے ملک اس کا اور قدرت اس کی اور خشکی میں ہے

سَبِيلُهُ وَفِي الْبَحْرِ سِرُّهُ وَفِي الْهَوَى رُوحُهُ وَفِي النَّارِ سُلْطَانُهُ

راہ اس کی اور تری میں ہے راز اس کا اور ہوا میں ہے روح مخصوص اس کی اور آگ میں ہے غلبہ و تسلط اس کا

وَفِي الْأَرْحَامِ عِلْمُهُ وَفِي الْقُبُورِ قَضَاءُهُ سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ

اور ارحام کو محیط ہے علم اس کا اور قبروں میں ہے قضاء اس کی۔ پاک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ اللَّهُ الصَّمَدِ سُبْحَانَ كَمِيلِدِ

پاک ہے یگانہ و یکتا۔ پاک ہے اکیلا اور بے جفت۔ اللہ بے نیاز۔ پاک ہے جس نے کسی کو نہیں جنا

سُبْحَانَ وَلَمْ يُولَدْ سُبْحَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سُبْحَانَ مَنْ رَفَعَهُ

پاک ہے جو نہیں جنا گیا۔ پاک ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ پاک ہے وہ جس نے بند فرمایا

السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَدِيدٍ اللَّهُمَّ

آسمان کو بغیر ستون کے۔ پاک ہے جس نے پھیلا یا زمین کو منجمد پانی پر۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر نازل کی گئی ہے (یہ آیت)

سَيِّمِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پاکیزگی بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے وجود عطا کیا پس درست اور مناسب بنایا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرُهُ الصَّخْرَةُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی (جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ

غَدَاةَ الْمَلَائِكَةِ تَسْبِيحُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي

ملائکہ کی غذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

ہے کہ پہلے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے مالک ملک و ملکوت کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ

دوسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے مالک عتق کا اور

الْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علیہ وقر کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس

الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

محبوب نے خبر دی ہے کہ تیسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا جس پر

لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کبھی موت نہیں آسکتی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَنِي خَيْرُهُ الْمَدُّوحُ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ

خبر دی اپنی قابل ستائش حدیث میں کہ چوتھے آسمان والوں کی تسبیح یہ ہے "بہت بے عیب ہے

قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہت مقدس ہے رب ہمارا اور رب ملائکہ اور روح کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرُهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اپنی حدیث میں جو سراپا حسن و نگوئی ہے کہ تسبیح

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پانچویں آسمان کے ملائکہ کی یہ ہے "پاک ہے وہ جس نے جمع کر دیا ہے برف اور آگ کو" اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ تسبیح چھٹے آسمان کے ملائکہ

السَّمَاءِ السَّادِسَةِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

کی یہ ہے "پاک ہے شہنشاہ جو بہت مقدس ہے جو رب ہے ہر شئی کا اور طرف اسی کے

النُّشُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہر شئی کو اٹھایا جاتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ اللَّهُمَّ

خبر دی کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے نور کا پیدا کرنے والا" اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ تسبیح

مَلَائِكَةِ الْبَحْرِ سُبْحَانَ مَنْ يُدْهِبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ اللَّهُمَّ

سمندروں کے فرشتوں کی یہ ہے "پاک ہے وہ جو لے جاتا ہے رات کو اور لاتا ہے دن کو" اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ عَالِمًا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اللہ عزوجل ایسے چالیس جہان کا مالک ہے

وَعَالَمَ الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِلَا أَرْتِيَابٍ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَلْثَاثَةٌ

کہ عالم دنیا ان میں سے ایک ہے بلا تنگ و شبہ اور جنہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے تین سو

عَالِمٍ حَفَاةٌ عُرَاةٌ لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلَقَهُمْ وَسِتُّونَ عَالَمٍ يَلْبَسُونَ

جہان کا جن کے باسی پا برہنہ اور جسم برہنہ ہیں جو نہیں جانتے اپنے پیچھے والوں کو اور ساٹھ جہان ہیں ایسے کہ جن کے باسی

الْثِّيَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ

کپڑے پہنتے ہیں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر تو نے اپنی کتاب منیر میں نازل فرمایا

الْمُنِيرِ الْإِلَهِيَّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی باریک بین باخبر ہے " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ تَسْبِيحٌ كُلُّهُمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان سب کی تسبیح یہ ہے " سبحان اللہ والحمد للہ اللہ

أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ وَهُوَ بِوَادِ الْعَقِيقِ تَسْبِيحٌ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ

محمد پر جنہوں نے جبکہ وادی عقیق میں کھتے سنتی تسبیح آسمانی ملائکہ کی

بِالتَّحْقِيقِ سُبْحَانَ اللَّهِ كُلُّمَا سَبَّحَ بِدُءِ مَسْبُوحٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كُلُّمَا حَمِدَ

پورے یقین و وثوق کے ساتھ تسبیح ہے اللہ کی ہر بار کہ تسبیح کہے اللہ کی کوئی تسبیح کہنے والا اور حمد ہے اللہ کے لیے ہر بار کہ

اللَّهُ حَامِدٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّمَا هَلَّلَ اللَّهُ مُهَلِّلاً وَاللَّهُ أَكْبَرُ كُلُّمَا

حمد کرے اس کی کوئی حمد کرنے والا - اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہر بار کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تہلیل کہنے والا تہلیل کہے اور اللہ اکبر ہے ہر بار کہ

كَبَّرَ اللَّهُ مُكَبِّرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ

اس کی کبریائی بیان کرے کوئی اللہ اکبر کہنے والا - پاک ہے اللہ عالی شان عظیم اور اسی کی حمد ہے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں

سُبْحَانَ الْوَاسِعِ الْوَارِثِ الَّذِي يُدْرِكُ وَلَا تُدْرِكُ لَهُ

پاک ہے صاحب وسعت وارث - پاک ہے جو سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور نظریں اس کا احاطہ نہیں

الْأَبْصَارِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ

کر سکتیں - پاک ہے عظیم حکیم - پاک ہے مہربان صاحب احسان -

سُبْحَانَ الْأَزَلِ الْقَدِيمِ الْأَبَدِ سُبْحَانَ الْمُبْدِيِّ الْبَعِيدِ سُبْحَانَ

پاک ہے بے ابتداء قدیم ابدی - پاک ہے ابتداء پیدا کرنے والا - دوبارہ موجود کر نیوالا - پاک ہے

الْخَالِقِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ سُبْحَانَ

خالق عظیم - پاک ہے عظیم جو عظیم ترین ہے - بے عیب ہے اللہ اور اسی کی حمد کے ساتھ منکبس ہیں - پاک ہے

الْمُعْطَى الْوَهَّابِ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ سُبْحَانَ الْبُحْبُوبِ لِمَنْ دَعَاهُ

عطا کرنے والا۔ ہبہ کرنے والا۔ پاک ہے کائنات فرمانے والا علیم۔ پاک ہے قبول کرنے والا ارباب دعا کی دعاؤں کو

سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَفْرَءَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ

پاک ہے خالق عظیم۔ پاک ہے وہ جس سے جائے فرار اور جائے پناہ نہیں مگر طرف اسی کے۔ پاک ہے

الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْأَجَلِّ سُبْحَانَ

بلند شان والا سب سے بالاتر۔ پاک ہے کریم جو بزرگترین ہے۔ پاک ہے جلیل جو سب سے بزرگتر ہے۔ پاک ہے

الْفَرْدِ الْوَحْدِ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْوَسْعِ سُبْحَانَ التَّوَّابِ سُبْحَانَ اللَّهِ شَدِيدِ

یکتا و یگانہ۔ پاک ہے خالق جو سراسر نور ہے۔ پاک ہے توبہ قبول کرنے والا۔ پاک ہے اللہ جو سخت عذاب

الْعِقَابِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَلِكِ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْجَبَّارِ سُبْحَانَ مَنْ

والا ہے۔ پاک ہے ملک کائنات کا شہنشاہ۔ پاک ہے صاحب قدرت۔ جبار۔ پاک ہے وہ کہ جس کی طرف

إِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ سُبْحَانَ خَالِقِ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ سُبْحَانَ

لوٹیں گے سبھی امور۔ پاک ہے تاریکیوں اور روشنیوں کا خالق۔ پاک ہے

خَالِقِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى سُبْحَانَ هَادِي

شمس و قمر منیر کا خالق۔ پاک ہے بلند مرتبت بالاتر۔ پاک ہے ہدایت دینے والا

مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ

جنہیں چاہے۔ پاک ہے بخشنے والا مہربان۔ پاک ہے رؤوف رحیم۔

سُبْحَانَ التَّوَّابِ الْمُبِينِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ

پاک ہے نور مبین۔ پاک ہے وہ کہ نہیں مخفی رہتی اس پر کوئی شئی۔ پاک ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ قُدُّوسٌ رَبُّ الْأَرْبَابِ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْظَمِ

رب تمام جہانوں کا۔ بہت مقدس ہے مالک سب مالکوں کا۔ پاک ہے ہمارا رب اعظم

قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ مَنْ لَا وَصْفَ لَهُ

بہت مقدس ہے رب ملائکہ اور روح کا۔ پاک ہے وہ کہ نہیں وصف کر سکے اس کا

الْوَاصِفُونَ عَظِيمَةٌ وَمُنْتَهَاءُ سُبْحَانَ مَنْ عَدِمَتْ لَهُ الرُّكُودُ

توصیف و تعریف کرنے والے از روئے اس کی عظمت کے اور بے غایت کمال کے۔ پاک ہے وہ کہ نہیں اس کے لیے نیند

وَذَلَّلْتُ لَهُ الْأَعْنَاقُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الثُّورِ الْمُبِينِ

اور فرمانبردار ہیں اس کی سبھی گردنیں۔ پاک ہے اللہ کریم۔ پاک ہے نور مبین

سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْأَنْعَامُ

پاک ہے وہ جس کے جلوے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح کہتے ہیں اس کے لیے چار پائے

فِي سَكَرِيهَا وَيُسَبِّحُ الْوَحُوشُ مِنْ رَأْسِهَا سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الدِّيَّانُ

اپنی صبحوں میں اور تسبیح کہتے ہیں اس کی جنگلی جانور اپنی بلند چوٹیوں پر۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح کہتے ہیں اس کی کیڑے موڑے

فِي صَفْحِهَا وَصَفِّهَا سُبْحَانَ الَّذِي يُجُوزُ وَهُوَ مَلِكٌ جَبَّارٌ سُبْحَانَ

اپنی بلوں اور صفوں میں۔ پاک ہے وہ جو درگزر فرماتا ہے حالانکہ شہنشاہ جبار ہے۔ پاک ہے

الْمُنْتَقِمِ مَنْ أَعْدَاءِهِ سُبْحَانَ الْمُعْطِي لِمَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ

انتقام لینے والا اپنے اعدا سے۔ پاک ہے جو عطا کرتا ہے جسے چاہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کی

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ الَّذِي يُجِيبُ السَّائِلِينَ سُبْحَانَ قَابِضٍ

مثل کوئی شئی نہیں۔ پاک ہے سائلین کے سوال پورے کرنے والا۔ پاک ہے سرکشوں کو اپنے

الْجَبَّارِ سُبْحَانَ الَّذِي عَلَى وَلَا يَعْلُوهُ أَحَدٌ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْعَظِيمِ

قبضے میں لینے والا۔ پاک ہے جو عالی و غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہوتا۔ پاک ہے حی عظیم

سُبْحَانَ الْحَقِّ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ

پاک ہے برحق خداوند صاحب عزت اور کریم۔ پاک ہے عزیز و حکیم۔ پاک ہے

رَبِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ سُبْحَانَ مَنْ يُصْنَعُ مِنْ هَيْبَتِهِ الْخَوَامِلُ كَمَا

رب ہر مومن اور کافر کا۔ پاک ہے وہ کہ گرا دیتی ہیں اس کی ہیبت سے حمل والیاں

فِي بَطُونِهَا سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ الْكَرِيمِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ

اپنے حملوں کو۔ پاک ہے صاحب قدرت۔ صاحب اقتدار۔ کریم جو سب بڑا کریم ہے۔ پاک ہے

الْجَلِيلِ الْأَعْظَمِ سُبْحَانَ مَنْ عَادَ فَقَهَرَ سُبْحَانَ الْمُطَّلِعِ عَلَى

جلالت والا جو سب سے عظیم ہے۔ پاک ہے وہ جس نے اعراض کیا پس قہر کا نشانہ بنایا پاک ہے جو مطلع ہے

مَنْ خَافَ وَخَسِرَ سُبْحَانَ الَّذِي بَسَطَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ طُولًا

خوفزدگان اور ارباب نقصان پر۔ پاک ہے وہ جس نے پھیلا یا ساتوں آسمانوں کو طول اور

وَعَرْضًا سُبْحَانَ الَّذِي سَطَحَ الْأَرْضَ وَأَطْلَعَ الْكَوَاكِبَ وَ

عرض میں۔ پاک ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور ستاروں کو طلوع کیا اور

أَظْهَرَهَا سُبْحَانَ الَّذِي أَرَسَى الْجِبَالَ فِيهَا سُبْحَانَ الْعَلِيِّ

ظاہر کیا۔ پاک ہے جس نے پہاڑوں کو مضبوط و مستحکم کیا اس میں۔ پاک ہے علی عظیم

الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْحَلِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ

پاک ہے جلیل حلیم۔ پاک ہے وہ کہ نہیں بیان کر سکتے اس کی حمد و ثنا، کرنوالے

كُنْهِ صِفَاتِهِ وَهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ سُبْحَانَ

اس کی صفات کی حقیقت کو اور وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے پس نہیں غیب دیتا اپنے غیب پر کسی کو (مگر پسندیدہ رسل کو) پاک ہے

الْمَلْتَجِبِ بِنُورِ جَمَالِهِ سُبْحَانَ الْمَصُورِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ

وہ جو شور افگن ہے (آفاق میں) اپنے نور جمال کے ساتھ۔ پاک ہے ارحام میں صورتگری کرنے والا حسب منشاء

سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَانُكَ سُبْحَانَكَ سَيِّدِي مَا أَعْلَى مَكَانُكَ

پاک ہے تو کس قدر عظیم ہے شان تیری۔ پاک ہے تو اے میرے آقا کتنا بلند ہے مرتبہ و مقام تیرا

وَسَيِّدِي أَرْحَمُ بِخَلْقِكَ سُبْحَانَ مَنْ يَرْزُقُ كَيْفَ يَشَاءُ سُبْحَانَ

اے میرے آقا اپنی مخلوق پر رحم فرما۔ پاک ہے جو رزق دیتا ہے جیسے چاہے۔ پاک ہے

مَنْ يَرْزُقُ وَلَا يَرَى سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ سُبْحَانَ

جو رزق دیتا ہے اور دیکھا نہیں جا سکتا۔ پاک ہے وہ جس کے لیے سبھی مخلوق تسبیح کہتی ہے۔ پاک ہے وہ جو

مَنْ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ يَرْزُقُ السَّيِّئَاتِ الْجَوَادِ الْمُفْضِلِ

رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پاک ہے جو رزق دیتا ہے (اہل) اسما کو۔ پاک ہے صاحب جود اور صاحب فضل

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ رَازِقُ الطَّيْرِ

پاک ہے جس کی تسبیح کہتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ پاک ہے جو پرندوں کا روزی رساں ہے

يَارْحِمِهِ سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى سُبْحَانَ الشَّيْبِ الْعَلِيِّ سُبْحَانَ

اے رحیم پاک ہے وہ جو بلند مرتبت بالاتر ہے۔ پاک ہے شیخ و علم۔ پاک ہے وہ

الْمَحْتَجِبِ مِنْ خَلْقِهِ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ

جو بالاتر ہے مخلوق کے وہم و گمان سے، پاک ہے رب ہمارا اور بالاتر ہے۔ پاک ہے میرا رب عظیم۔ پاک ہے

رَبِّي الْأَعْلَى سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ سُبْحَانَ

میرا رب اعلیٰ پاک ہے شہنشاہ جو سراسر تقدس ہے۔ پاک ہے صاحب ملک۔ پاک ہے

ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَ

مالک عزت و عظمت اور ہیبت و قدرت کا اور جلال و جمال اور کمال و

الْبِقَاءِ وَالشَّنَاءِ وَالضِّيَاءِ وَالْإِلَاحِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ

بقا اور ثناء و ضیاء کا اور مالک ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اور بڑائی و تسلط و غلبہ کا۔ پاک ہے

الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَكُلُّ مَخْلُوقٍ حَيٌّ وَيَمُوتُ وَهُوَ يَنْتَقِلُ

وہ شہنشاہ زندہ و پائندہ جس پر موت نہیں آسکتی اور ہر مخلوق حیات سے متصف ہے اور موت سے بھی اور وہ منتقل

مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ سَيِّدُ الْوَرَى مَحْبُوبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہوتی ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف۔ سب مخلوق کے سردار۔ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو خوبصورت

الصَّفْحِ الْجَمِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انداز میں درگزر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَطَاءِ الْجَزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو بہت بڑی جزاء کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِزِّ الْمُنِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محفوظ عز و جاہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَالتَّشْرِيعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب شریعت ہیں اور احکام شرع کو نافذ کرنے والے۔ اے اللہ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو وسیلہ اور بزرگتر مقام کے مالک ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص امتیازی علامت والے ہیں

وَالِدِيَّانَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور دیانت والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

صَاحِبِ الْوِلَايَةِ وَالْعِنَايَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

صاحب ولایت و تصرف ہیں اور صاحب شفقت۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الْحُسْنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جو محبوب حسین صفات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهَاءِ وَالسَّنَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب رونق اور روشنی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْحُجَّةِ وَالْقُرْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جو حجت و برہان والے ہیں اور مقرب۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدِّينِ وَالْعَوَائِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جو بانی ہیں دین و مذہب کے اور مرتب منافع کے مالک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْآنِ اَمِيْنٍ بِرِسَالَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو محبوب صاحب قرآن ہیں اور امین ہیں احکام رسالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَهُ بِرَيْثِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلاً نَزَّالاً

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ساتھ اس قول کے "عظمیٰ کر پڑھو قرآن مجید کو بطور ترتیل کے

بِهِ لِقْرَائَتِكُمْ تَقْرِيْبًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واسطے تعلیم دینے اس کی قراءت کی تمہیں بقدر امکان۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس محبوب نے فرمایا مزین کرو قراءت قرآن کو اپنی مترنم آوازوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَاحِبِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو حقیقی مفسر قرآن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

صَاحِبِ تَشْهِيْرِ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محبوب فرقان کو مشہور و معروف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْهُدَايَةِ وَالرَّشَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب ہدایت و رشد کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّحْمِ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب اپنے غلاموں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ طَهَارَةِ الْبَدَانِيِّ وَالرُّوحَانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب بدنی اور روحانی تطہیر کا سامان کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ هِدَايَةِ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب جنت و انس کے ہادی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں جنت کے (بازن اللہ) اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں عظمیٰوں والے شہر کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَدِينَةِ السَّلَامِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ملک ہیں سلامتی والے شرکے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف

فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْهَاءِ

رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب نہایت و غایت تک

فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

پہنچنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں

الْفَنَاءِ فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

مقام فنا فی اللہ کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں

الْبِقَاءِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مقام بقا باللہ کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پیدا

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ إِنْسَانٍ أَشْكَلَ عَلَى شَكْلِهِ وَهُوَ بِأَقَامَةِ الْإِفِّ وَ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ان کی شکل پر منمشکل کر کے جبکہ وہ الف کی سیدھ میں ہے حالت قیام میں اور

يَاجُلَّاسِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لفظ محمد کی صورت، حالت قعود میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ الْقُدْسِيَّةِ الْبُكْسُوَّةِ بِالْأَكْسِيَّةِ الْمَنُورَةِ التُّورَانِيَّةِ

جو لطیفہ قدسیہ کے مالک ہیں جو بلوس ہے منور و نورانی پردوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد صحراؤں کی

الصَّحَارَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ریت کے ذرات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدِ ثِقَلِ الْجِبَالِ وَالْأَجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق ثقل و وزن پہاڑوں اور پتھروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر اہل جنت اور اہل نار کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر نیکو کاروں اور فاجروں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا نَزَلَ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان قطرات کے جو نازل ہوئے

أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ابتداء کائنات سے انتہا تک برسنے والی بارشوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اگنے والے نباتات اور اشجار کے

مِنَ الثِّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دنیا کی ابتداء سے انتہا تک ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو اللہ کے ملک کے دوام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَمَا نَتَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شمار ان کے جو تو پیدا فرما چکا اور جو

خَالَقَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پیدا فرمائے گا قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے جو پیدا فرمائی آسمان کی چھت بنانے سے قبل اور

الْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَةً وَالْعَيُونُ مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ

زمین کا فرش بچھانے اور پہاڑوں کے گاڑنے اور چشموں کے پھوٹنے اور دریاؤں کے جاری

مُنْهَرَةٌ وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةٌ وَ

ہونے اور سورج کے روشن ہونے اور چاند کی نور افشانی اور کواکب کی تابانی اور سمندروں کی

إِبْحَارٌ جُرِّيَّةٌ وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روانی اور درختوں کی بار آوری سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيَهْلِكُكَ وَيَجِدُكَ وَيَشْهَدُ

آل پر مطابق شمار ان کے جو تیری حمد اور شکر اور تمہیں و تمہید کریں گے اور گواہی دیں گے

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہ تو ہی اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے صاحب کبریاء بلند مرتبت لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پاک ہے حاجات کا پورا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے رحمن رحیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي

لا الہ الا اللہ پاک ہے مالک عرش عظیم کا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے میرا رب

الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانَ السُّلْطَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّبِيعِ

اعلیٰ لا الہ الا اللہ پاک ہے سر اسرویل حکم اور تسلط و غلبہ۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے سبع

الْبَصِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ

و بصیر لا الہ الا اللہ پاک ہے یکتا صاحب قہر۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے علیم

الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ

و حکیم لا الہ الا اللہ پاک ہے پردہ پوش۔ بختیے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے غایت رحمت والا

الذَّيَّانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ

بہت جزا دینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کبریاء جو سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے صاحب علم و اہم اور

الْعَلَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمِدِ الْوَاحِدِ

بہت بڑے علم والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے شفاء کا مالک۔ کفایت کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے بے نیاز یکتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ خَالِقِ

لا إله إلا الله - پاک ہے مالک زمین کا اور آسمانوں کا۔ لا إله إلا الله - پاک ہے خالق

الْمَخْلُوقَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تمام مخلوقات کا۔ لا إله إلا الله - پاک ہے جس نے پیدا فرمایا شب و روز کو۔ لا إله إلا الله

سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَّاقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پاک ہے خالق رکائات اور ان کے رزق کا مالک۔ لا إله إلا الله - پاک ہے (مشکلات کو) حل کرنے والا۔ دائمی علم والا۔ لا إله إلا

سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَنِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَفْوِ الشُّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الله - پاک ہے غالب غنی۔ لا إله إلا الله - پاک ہے بہت بخشنے والا۔ جزائے شکر دینے والا۔ لا إله إلا الله

سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ہے عظیم و عظیم۔ لا إله إلا الله - پاک ہے ملک ظاہر اور غیر محسوس ملک کا مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي

لا إله إلا الله - پاک ہے عزت و عظمت کا مالک۔ لا إله إلا الله - پاک ہے ہیبت و

الْهِبَةِ وَالْقُدْرَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ

قدرت کا مالک۔ لا إله إلا الله - پاک ہے کبریائی اور قہر و غلبہ کا مالک۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّيِّدِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ عَالِمِ

لا إله إلا الله - پاک ہے پروردگار عظیموں کا مالک۔ لا إله إلا الله - پاک ہے جاننے والا

الْغَيْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَاحِبِ الْوَحْدَانِيَّةِ الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيمِيَّةِ الْأَزَلِيَّةِ

غیب کا (بذات خود) نہیں معبود برحق مگر الله جو مالک ہے وحدانیت و یکتائی قدیمی ازلی

الْأَبَدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلَا نِدٌّ وَلَا شِبْهُهُ وَلَا شَرِيكُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

ابدی کا نہ اس کے لیے مقابل ہے نہ مخالفت پر قادر نہ اس کے مشابہ ہے اور نہ شریک نہیں معبود برحق مگر الله ورنہ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

کیلا ہے اور بے ہمتا ہے۔ وہی ملک والا ہے اور وہی ستمی حمد زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور وہ بذات خود زندہ و پائندہ ہے

بِیْدَاہِ الْخَیْرِ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَّ اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ

اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر شئی پر کامل دسترس رکھتا ہے۔ اور اسی کی طرف باز گشت ہے۔ وہی سب سے اول۔ سب سے آخر

الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ

سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ مخفی ہے اور وہی ہر چیز کا ذاتی علم رکھنے والا ہے۔ نہیں ہے اس کی مانند کوئی شئی وہی

الْبَصِیْرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْجَمِیْدِ الْبَحِیْدِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْحَکِیْمِ

سننے دیکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے لائق حمد۔ بزرگی والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب حکمت

الْقَدِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْقَادِرِ السَّتَّارِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ السَّمِیْعِ

بالغہ۔ بے ابتداء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قدرت پروردہ پوش۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سننے

الْعَلِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْغَنِیِّ الْعَظِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْعَلَّامِ

جاننے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی عظمت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بہت علم والا

السَّلَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْمَلِکِ التَّصْوِیْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْغَنِیِّ

سراسر سلامتی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے شہنشاہ مددگار۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی غایت

الرَّحْمٰنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْقَرِیْبِ الْحَسَنَاتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ

رحمت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نیکیوں کو قریب کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْوَلِیِّ الْحَسَنَاتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الصَّبُوْرِ السَّتَّارِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ

نیکیوں کا مالک۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بہت برو بار پروردہ پوش۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک

الْخَالِقِ التَّوَّابِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْغَنِیِّ الْمَعْجِزِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ

عدم سے وجود کی طرف لانے والا۔ سراسر توبہ۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی جو عاجز و بے بس کر سکتے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک

الْفَاضِلِ الشَّکُوْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْغَنِیِّ الْقَدِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

صاحب فضل اور جزائے شکر والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی قدیم۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحٰنَ ذِی الْجَلَالِ الْمُبِیْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ

پاک ہے جلال مبین والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب خلوص اور خالص کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَيْرِ

لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے سچے وعدے والا۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے جو سراسر حق

الْمُبِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

واضح ہے۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے غیر متزلزل قوت والا۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے

الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعَيُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

قوی عزیز۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے

ذِي الْغَفْرَانِ الْمُسْتَعَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

غفران کا مالک مدد چاہا ہوا۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے مالک تمام جہانوں کا۔ لا اِلاَّ اللهُ

اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا

الله پاک ہے نہایت رحمت والا۔ پردہ پوش۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے دائمی رحمت والا مغفرت فرمایا والا۔ لا اِلاَّ اللهُ

اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْوَكِيلِ الْعَلِيِّ

الله پاک ہے عزیز مہربانے والا۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے حق تعالیٰ۔ کارساز۔ بلند شان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْآخِرِ

لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے جو سب سے اول۔ بے ابتداء ہے۔ لا اِلاَّ اللهُ پاک ہے جو سب سے اول اور سب سے آخر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان صلوات کے

عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو ان پر بھیجیں تو نے اور تیرے تمام ملائکہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَلْفُ

آل پر مطابق تعداد ان لوگوں کے جنہوں نے درود بھیجا ان پر تیری مخلوق میں سے اور جنہوں نے درود نہیں بھیجا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ الْأَمْوَالِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد۔ پہاڑوں۔ ریت کے دانوں



وَالْحَصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور کنکریوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر درختوں

الشَّجَرِ وَأوراقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ان کے پتوں کی گنتی اور ڈھیلوں اور ان کے وزن و ثقل کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر تمام سالوں اور ان میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے جو پیدا فرماتا ہے ہر

وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دن اور جو مرتی ہے ہر دن قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ان بادلوں کے جو چلتے ہیں آسمانوں و زمین کے درمیان۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا

واللہ اکبر کہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ نہیں معبود برحق مگر میں اور میں

أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ

کبریائی کا مالک ہوں۔ اور جب بندہ کہے "لا الہ الا اللہ وحدہ" تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي

مگر میں تنہا۔ اور جب بندہ کہے "لا الہ الا اللہ لا شریک لہ" تو فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

نہیں معبود برحق مگر میں۔ نہیں کوئی شریک میرا۔ اور جب کہے "لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد"

قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لِإِلَهٍ إِلَّا أَنَا لِي الْمَلِكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِنَّمَا لِلَّهِ

فرماتا ہے سچ کما میرے بندے نے نہیں معبود برحق مگر میں میرا ہی ہے ملک اور میں ہی سزاوار حمد ہوں اور جب کہے لا الہ الا اللہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لا حول ولا قوۃ الا باللہ" تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا نہیں قوت اور طاقت مگر ساتھ میرے۔ پاک ہے

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ

اللہ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے۔ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق کی

اللَّهُ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

تعداد کے مطابق تسبیح ہے اللہ کے لیے اس کی ذات کی رضامندی کے مطابق۔ تسبیح ہے اللہ کے لیے عرش کے وزن کے مطابق۔ تسبیح ہے اللہ کی اس کے

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کلمات کی روشنائی کے مطابق سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيَهْلِكُ وَيَكْبُرُ وَيُعْظِمُكَ وَيُحْمَدُ

کی آل پر مطابق ان کے جو تیسری تسبیح و تنلیل۔ تجسیم۔ تجمید و تحمید

وَيُحْمَدُكَ وَيُكْرِمُكَ وَيُخَدِّمُكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

اور تکریم و خدمت بجالاتے ہیں۔ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کی اور اس کی حمد سے متلبس ہیں۔ پاک ہے اللہ شہنشاہ

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمَتَعَالِ

جبار۔ پاک ہے واحد قہار۔ پاک ہے عزیز و غفار۔ پاک ہے کبیر متعال۔ پاک ہے

خَالِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سُبْحَانَ الَّذِي كَانَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَهُوَ لَيْسَ

خالق رات اور دن کا۔ پاک ہے وہ جو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ سخت

الْمَحَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

عذاب اور عقاب والا ہے۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ بلند شان عظیم کے۔ پاک ہے رب میرا جو بلند مرتبت اور بالاترین اور عطا کرنے والا ہے۔ پاک ہے رب میرا



الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

جو بلند شان بالاترین اور عطا کرنے والا ہے پاک ہے تو نہیں عبادت کی ہم نے جیسے کہ حق عبادت کا ہے۔

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ

پاک ہے تو نہیں پہچانا ہم نے تجھے جیسے کہ حق پہچاننے کا ہے۔ پاک ہے تو نہیں ذکر کیا ہم نے تیرا جیسے کہ حق ذکر کرنے کا

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

ہے۔ پاک ہے تو۔ نہیں شکر کیا ہم نے تیرا جیسے کہ حق شکر کرنے کا ہے۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد سے متبلس ہیں اور بابرکت ہے نام تیرا

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ سُبْحَانَ يَا ذَا الْهَيْبَةِ وَالْعُظْمَةِ

اور بلند و بالا ہے بزرگی تیری اور بزرگتر ہے شتا تیری اور نہیں معبود برحق سوا تیرے۔ پاک ہے تو اے مالک عظمت اور ہیبت کے۔

سُبْحَانَ يَا ذَا الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ سُبْحَانَ ذِي شَانٍ فَوْقَ شَانٍ سُبْحَانَ

پاک ہے تو اے وحدت و کثرت کے مالک۔ پاک ہے ذیشان جس کی شان بلند ہے ہر شان سے۔ پاک ہے

مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ وَأَخِرُهُ حِلْمٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا آخِرَ لَهُ سُبْحَانَ

وہ کہ جس سے پہلا ظہور علم کا ہے اور آخری ظہور بردباری کا ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کی ذات کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہا۔ پاک ہے

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

شہنشاہ مقدس۔ پاک ہے ملک ظاہر اور ملک باطن کا مالک۔ پاک ہے مالک عزت

وَالْعُظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَبَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبِقَاءِ وَ

عظمت کا۔ قدرت و ہیبت۔ جلال و جمال۔ کمال و بقا کا اور

الشَّأْنِ وَالضِّيَاءِ وَالْأَلَاءِ وَالنُّعْمَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

شتا و ضیاء اور ظاہری و باطنی نعمتوں اور کبریاء و جبروت کا۔ پاک ہے شاہنشاہ

الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّنا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

جو زندہ و پائندہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ اس پر موت آسکتی ہے۔ بہت بے عیب۔ بہت مقدس۔ رب ہمارا اور رب ملائکہ اور روح

سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ رَبًّا رَحِيمًا وَلَا يَزَالُ كَرِيمًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

کا۔ پاک ہے وہ جو ہمیشہ سے ہے رب رحیم اور ہمیشہ رہے گا کریم۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ بردبار

الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

صاحب جو دوام۔ پاک ہے اللہ اور بابرکت ہے اللہ مالک ساتوں آسمانوں اور مالک عرش

الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ كَمَا هُوَ الْآنَ

عظیم کا اور حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پاک ہے وہ کہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے جیسے کہ اب ہے

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَزَالُ يَكُونُ كَمَا هُوَ الْآنَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ فِي ذَاتِهِ وَلَا

پاک ہے وہ جو ہمیشہ اسی طرح رہے گا جیسے کہ وہ اب ہے۔ پاک ہے وہ کہ نہیں تغیر قبول کرتی ذات اس کی اور نہ

فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَسْمَائِهِ حُدُوثَ الْأَكْوَانِ وَالْأَلْوَانِ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ

صفات اور نہ اسماء اس کے مانند حدوث و تغیر کے جو مخلوقات اور رنگتوں میں ہے۔ پاک ہے وہ جو دوام و قائم ہے

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ هُوَ الَّذِي يُهِمُّتُ الْخَلَائِقُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

پاک ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے نہیں مرے گا۔ وہی ہے جو مارے گا تمام مخلوق کو اور وہ زندہ ہے نہیں مرے گا

سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْمَبْدِيِّ سُبْحَانَ الْآخِرِ الْبَاقِي سُبْحَانَ مَنْ يُسَلِّي قَبْلَ أَنْ تَبْكِي

پاک ہے اول جو ابتدا میں ایجاد کرنے والا ہے۔ پاک ہے آخر جو باقی رہنے والا ہے۔ پاک ہے جو موسم ہے اسماء کمال سے قبل اس کے کہ کوئی

سُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا نِدَّ وَلَا ضِدَّ لَهُ بَلَاءِ رَبِّ اللَّهُمَّ

موسم ہو۔ پاک ہے وہ کہ اس کا نہ شریک ہے اور نہ وزیر نہ تد مقابل اور نہ مخالفت ہے اس کے لیے یقیناً۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَنَذِيرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب نیکوکاروں کو بشارت دیتے والے ہیں اور شرکین

الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلَاصَةَ

کوڈرانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خلاصہ

الْكُونِيْنَ وَفُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کونین ہیں اور جن و انس کے مرشد و ہادی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِي السُّبُلِ وَقَاتِلِ الْكُفَّارِ الْعُتْلِ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكُفْرَةَ

آل پر جو محبوب ہادی ہیں سبیل خیر کے اور قاتل ہیں مغرور و متکبر کفار کے۔ اے اللہ لعنت فرما کفار پر

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ

جو روکتے ہیں تیری راہ سے اور جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو اور جنگ کرتے ہیں تیرے دوستوں کے ساتھ

اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلَّزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي

اے اللہ مخالفت پیدا فرما باہم ان کے کلمہ میں اور متزلزل کر ان کے اقدام اور نازل فرما ان پر اپنا عذاب شدید جو

لَا تَرُدُّ عَنْ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

دور نہیں کیا جاسکتا مجرم لوگوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَنْطِقُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جن کی زبان پر نہیں جاری ہوتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے طرف ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْجَلِيلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رات بھر قیام کرتے رہے اپنے رب جلیل کے امر سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَاءَ لِلْأَمْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی طرف آئے ہر چھوٹے

الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور بڑے امر کے لیے حضرت جبرئیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ هَاجَرَ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِشَرِّ الْكُفَّارِ الذَّلِيلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے ہجرت فرمائی اپنے رب کے امر سے بسبب ذلیل کفار کی شرانگیزی سے۔ اے اللہ

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ حُرُوفًا وَعَلِمَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نہیں پڑھا ایک حرف (مکتب میں) اور جان لیا

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ماکان و ما یكون کو یعنی جو ہو چکا اور جو ہوتا ہے قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَمَعَ اللَّهُ اسْمَهُ بِاسْمِهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ اللَّهُمَّ رَبِّ

کی آل پر جس محبوب کے اسم گرامی کو اللہ نے اپنے مقدس نام کے ساتھ ملا دیا ہے اذان و اقامت میں۔ اے اللہ اس

هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةَاتُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

کامل واکمل دعوت (اعتقاد و عمل) کے اور قائم ہونے والی نماز کے عطا کر محمد کو مقام وسیلہ و فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنِي وَأَمْرًا مُرْتَقًا

اور بلند تر درجہ اور قائم فرما ان کو مقام محمود میں جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے اور نصیب فرما میں ان کی شفاعت

شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبِعَادَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

قیامت کے دن۔ بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن ضَمَّ إِلَيْهِ اسْمُهُ بِاسْمِهِ فِي الْوُجُوهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نام نامی اللہ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا ہے لوح

المَحْفُوظِ لِلشَّرَفِ وَالْكَرَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محفوظ میں ان کے شرف اور کرامت کے اظہار کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن أَمَرَ اللَّهُ بِالذِّكْرِ بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے ذکر کرنے کا صبح و شام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن أَمَرَ اللَّهُ بِالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ لَيْلًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ و تسبیح کا شب

طَوِيلًا سُبْحَانَ مَنْ هُوَ بِأَقْسَىٰ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَفْتِي سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَقْدَسُ

دراز میں۔ پاک ہے جو ہمیشہ باقی ہے۔ پاک ہے جو فنا نہیں ہوگا۔ پاک ہے تو اے کہ مقدس ہے

عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُكَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَنْزَعُ عَن مِّثَابِهِ الْأَمْثَالَ صِفَاتُكَ

مشابہہ و نظیر سے ذات اس کی۔ پاک ہے تو اے کہ منزہ ہے اشغال کی مشابہت سے صفات اس کی۔

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ شَرِهَدَاتُ بِرَبِّهِ مَصْنُوعَاتُكَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ دَانَكَ عَلَيَّ

پاک ہے تو اے کہ گواہی دی ہے اس کی ربوبیت کی اس کے مصنوعات نے۔ پاک ہے تو ایکہ دلالت کرتی ہیں اس کی

وَحْدَانِيَّتِهِ آيَاتُكَ سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدًا مِّنْ قَلَّةٍ سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدًا مِّنْ

وحدانیت پر آیات اس کی۔ پاک ہے تو ایکہ یکتا ہے نہ بسبب قلت کے۔ پاک ہے تو موجود ہے

غَيْرِ عِلَّةٍ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ هُوَ بِالْبَرِّ مَعْرُوفٌ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ هُوَ بِالْإِحْسَانِ

بغیر علت وجود کے۔ پاک ہے تو ایک ساتھ نیکی کے معروف ہے۔ پاک ہے تو ایک ساتھ احسان کے

مَوْصُوفٌ سُبْحَانَكَ يَا مَعْرُوفٌ بِلَا غَايَةَ سُبْحَانَكَ يَا مَوْصُوفٌ بِلَا نِهَائِيَّةٍ

موصوف ہے۔ پاک ہے تو اے کہ معروف ہے بغیر کسی غایت و انتہا کے۔ پاک ہے تو ایک موصوف ہے (ساتھ کمالات) بغیر کسی

سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ قَدِيمٍ بِلَا أَيْدَاءٍ سُبْحَانَكَ يَا آخِرَ كَرِيمٍ بِلَا أَنْتِهَاءٍ سُبْحَانَكَ

انتہا اور حد آخری کے۔ پاک ہے تو ایک اول و قدیم ہے بغیر ابتداء کے۔ پاک ہے تو ایک آخر ہے بغیر انتہا کے۔ پاک ہے تو

يَا مَنْ لَا يَنْسَبُ إِلَيْهِ الْبَنُونَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا تُعِينُهُ تَزَايِدُ الْأَوْقَاتِ وَلَا

ایکہ نہیں نسبت کی جا سکتی طرف اس کے اولاد کی۔ پاک ہے تو ایک جس کی اعانت نہیں کر سکتا اوقات میں اضافہ اور نہ

تُهَيِّنُهُ السَّنُونَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْتُ قَهْرِ عَظَمَتِهِ وَأَمْرِهِ

اسے کمزور کر سکتے ہیں (گزرنے والے) سال۔ پاک ہے تو ایک تمام مخلوق اس کے قہر عظمت کے ماتحت ہے۔ اور امر و حکم اس کا

بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُذَكِّرُهُ النَّاسُ الْمَخْلُصُونَ سُبْحَانَكَ

کاف اور نون دکن کے درمیان ہے۔ پاک ہے تو ایک اسی کے ذکر سے مانوس ہیں اہل اخلاص۔ پاک ہے تو

يَا مَنْ هَدَى لِأَهْلِ طَاعَتِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَبَاحَ أَهْلَ

اے کہ جس نے ہدایت دی اہل طاعت کو صراط مستقیم کی۔ پاک ہے تو اے کہ مباح ٹھہرائیں جس نے اپنے اہل

مَحَبَّتِهِ جَنَاتِ النَّعِيمِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يَرَى حَرَكَةَ أَرْجْلِ النَّمْلِ فِي اللَّيْلِ

محبت کے لیے جنات النعیم۔ پاک ہے تو اے کہ دیکھتا ہے چیونٹی کے پاؤں کی جنبش کو سخت تاریک

الْبَهِيمِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُعَلِّمُ عِدَدَ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ

رات میں۔ پاک ہے تو اے کہ جانتا ہے تمام مخلوقات کے سانسوں کی تعداد اپنے علم قدیم کے ساتھ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُهُ الطَّائِرُ فِي وَكْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُبْجِدُهُ الْوَحْشُ

پاک ہے تو اے کہ تسبیح کہتے ہیں اس کی پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ پاک ہے تو اے کہ بزرگی بیان کرتے ہیں اس کی

فِي قَفْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُهُ الْعَبْدُ فِي سِرِّهِ وَجَهْرَهُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ

جنگلی جانور اپنے ویرانوں میں۔ پاک ہے تو اے کہ تسبیح کہتا ہے اس کی ہر بندہ خفیہ اور علانیہ۔ پاک ہے تو اے کہ

هُوَ حَيْطٌ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَأْيِيدِهِ وَنَصِيرَةٍ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَطْمَئِنُّ

مخبط ہے اہل ایمان کے ہر عمل کو اپنی تائید و نصرت کے ساتھ۔ پاک ہے تو اسے کہ اطمینان پاتے ہیں

الْقُلُوبُ الْوَجِلَةَ بِذِكْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَعِلْمًا بِسُبْحَانَكَ

خوفزدہ دل اس کے ذکر سے۔ پاک ہے تو اسے کہ جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا از روئے علم کے۔ پاک ہے

يَا مَنْ غَفَرَ ذُنُوبَ الْمَذْنُوبِينَ كَرَمًا وَجَلَبًا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

تو اسے کہ جس نے بخشا گناہگاروں کے گناہوں کو از روئے کرم اور بردباری کے۔ پاک ہے تو اسے کہ نہیں مانند اس کے

شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْعِزَّةُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الَّذِي

کوئی شئی اور وہی ہے سننے دیکھنے والا۔ پاک ہے وہ کہ نہیں عزت حقیقی دائمی مگر اسی کے لیے۔ پاک ہے وہ جس نے

تَعَطَّفَ الْكُرْمَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي خَيْرُ الْبَجْدِ وَالْمَجْدُ وَدِرْبِهِ سُبْحَانَ

کرم و عنایت کو اپنا یا اور اسی سے اس کی بزرگی نمایاں ہوئی۔ پاک ہے وہ کہ سب سے بہتر بزرگی والا ہے اور اسی کے ذریعے بزرگ ترین مانا ہوا ہے

الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ التَّسْبِيحُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُتَوَاتِرًا دَائِمًا مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدَّهْرِ

پاک ہے وہ کہ اسی کے لائق ہے تسبیح جس میں مبعود برحق ہونا منحصر ہے در آنحالیکہ وہ تسبیح متواتر اور دائم ہے زمانہ کی ابتداء سے انتہاء تک

بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ خَالِصًا لِدِكْرِكَ وَضِيَاءً بِنَاصِعِ التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ

ساتھ ہر قسم کی تسبیحات کے خالص تیرے ذکر کے لیے اور روشنی حاصل کرنے ہوئے خالص توحید۔ کامل

التَّفَرُّدِ وَإِفْحَاضِ التَّحْمِيدِ بِطَوْلِ التَّعْبُدِ وَالتَّعْبِيدِ لَمْ تَعْنُ فِي قُدْرَتِكَ

تفرید اور مکمل تحمید کے ساتھ ساتھ دلازی تعبد اور غلامی و نیاز مندی کے۔ تو نہیں اعانت کیا گیا اپنی قدرت میں

وَلَمْ تَشَارِكْ فِي إِهْيَابِكَ وَلَمْ تَعْلَمْ لَكَ مَا يَبِيهٌ وَمَاهِيَةٌ فَتَكُونُ لِلدَّشَائِرِ

اور نہیں مشارکت کیا گیا اپنی الوہیت میں اور نہیں جانی گئی واسطے تیرے چکو تگی و کیفیت اور نہ ماہیت تاکہ تو ہو سکے مختلف اشیاء

الْمُخْتَلِفَةِ فَجَانِسًا وَلَمْ تُعَايِنَ إِذَا حَبَسَتْ الْأَشْيَاءُ عَلَى الْغَرَائِبِ الْمَكْتَلَمَاتِ

کے لیے ہمجنس اور نہیں مشاہدہ کیا گیا تیرا جبکہ روکی گئیں اشیاء مختلف ذمہ داروں اور ضمانتوں پر (کی جواب طلبی) پر

وَلَا تَخْرُقُ الْأَوْهَامَ حَجَبِ الْغُيُوبِ إِلَيْكَ فَأَعْتَقِدُ مِنْكَ أَنَّ

اور نہیں پھاڑتے اوہام غیوب کے حجابات کو تیری طرف توجہ کے وقت تاکہ میں اعتقاد رکھ سکوں تیری عظمت میں

وَلَا يَبْلُغُكَ بَعْدَ الْهَمِّ وَلَا يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطْرِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ بَصَرُ

کسی حد و نہایت کا اور نہیں پہنچتے تجھ تک بعید ترین ہمتیں۔ اور نہیں پاسکتی تجھے فطانت کی گہرائی اور نہیں پہنچتی تجھ تک دیکھنے

النَّاطِرِينَ فِي مَجْدِ جَبْرُوتِكَ إِرْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ صِفَاتُ

دالوں کی نگاہ تیری جبروتی بزرگی کی وجہ سے۔ بالاتر ہیں مخلوقات کی صفت و ثناء سے تیری صفت قدرت

قُدْرَتِكَ وَعَنْ ذِكْرِ الدَّاكِرِينَ كِبْرِيَاءُ عَظَمَتِكَ فَلَا يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ

اور اہل ذکر کے ذکر سے تیری کبریائی عظمت پس نہیں نقصان پذیر ہو سکتا جس کے بڑھنے کا تو ارادہ کرے

أَنْ يَزْدَادَ وَلَا يَزُدَادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ وَلَا أَحَدٌ شَهِدَكَ حِينَ

اور نہیں بڑھتا جس کے نقصان کا تو ارادہ فرمائے اور نہ کسی نے تیرا مشاہدہ کیا جبکہ

فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلَا نَدَّ وَلَا ضَدَّ حَضَرَكَ حِينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ كَلَّتْ

تو نے مخلوق کو پیدا کیا اور نہ کوئی مخالف اور نہ مقابل تیرے سامنے موجود تھا جبکہ تو نے نفوس کو پیدا فرمایا۔ کنگ ہو چکی ہیں

الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَتِكَ وَأَنْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِكَ

زبانیں تیری صفت کی تفسیر سے اور تھک چکے ہیں عقول تیری حقیقت کی معرفت سے

وَكَيْفَ يُوصَفُ مَعْرِفَتُكَ وَصِفَتُكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ

اور کیسے کی جا سکتی ہے تیری تعریف اور توصیف اے رب جبکہ تو اللہ ملک الجبار

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا سَرْمَدِيًّا دَائِمِيًّا طَوْرًا

قدوس اور سراسر سلامتی ہے جو ہمیشہ رہا ازلی ابدی سرمدی دائمی طور پر

حَجَبِ الْغُيُوبِ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ

غیوب کے پردوں میں جیتا ہے تیرا شریک نہیں ہے۔ نہیں ان پردوں میں کوئی سوا تیرے اور نہیں

لَكَ سِوَاكَ حَارَتْ فِي بَحَارِ مَلَكُوتِكَ أَفْكَارُ ذَوِي التَّبْصِيرِ وَتَحَيَّرَتْ

اس کا اہل ماسوا تیرے۔ حیرت زدہ ہیں تیری سلطنت قاہرہ کے سمندروں میں ارباب بصیرت کے افکار اور سرگردان

فِي جَبْرُوتِكَ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكِيرِ وَتَوَاضَعَتِ الْهَلُوكُ لِهَيْبَتِكَ

ہیں تیری شان جبروت کی گہرائیوں میں راہیں عقل و فکر کی اور سرائگندہ ہیں شہنشاہ تیری ہیبت کی وجہ سے

وَعَدَّتْ الْوُجُوهُ بِذَلَّةِ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَأُنْقَادُ كُلِّ شَيْءٍ لِعِزَّتِكَ

اور جھکے ہیں چہرے مسکنت اور محتاجی کے ساتھ تیری عزت و غلبہ کے سامنے اور فرمانبرداری سے ہر شئی تیری عظمت کی وجہ سے

وَأَسْتَسْلِمُ كُلُّ شَيْءٍ لِقَضَائِكَ وَبِقُدْرَتِكَ وَخَضَعْتُ لَكَ الْوُجُوهُ

اور تسلیم کر لیا ہے ہر شئی نے تیری قضاء اور قدرت کو۔ اور جھکی ہیں تیرے لیے سب گردنیں

وَكُلُّ دُونَ ذَلِكَ تَجْبِيرٌ بِتَجْبِيرِ اللُّغَاتِ وَضَلُّ هُنَالِكَ التَّنَادِيرِ فِي

اور سبھی کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں ہے ساتھ خبر دے جانے لغات اور بولیوں کے اور گم گشتہ راہ مقصود ہے وہاں برتدیر

تَصَارِيفِ الصِّفَاتِ فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ طَرَفُهُ خَائِسًا حَسِيرًا

تیری صفات کے تصرفات میں پس جو فکر کرے گا ان میں لوٹے گی نگاہ اس کی بے نیل مرام ٹھکی ہاری

وَعَقْلُهُ مَبْهُوتًا وَتَفَكُّرُهُ مُتَحِيرًا أَسِيرًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا قَائِمَ

اور عقل حیران و مبہوت اور سوچ و فکر اس کی حیرت زدہ جکڑی ہوئی۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے حمد تمام تر نہیں قبض

لَهَا بَسْطٌ وَلَا بَاسِطٌ لَهَا قَبْضٌ وَلَا هَادِي لِمَنْ أَضَلَّتْ وَلَا مُضِلٌّ

کرنے والا اس کا کوئی بھی جس کو تو پھیلانے اور نہیں پھیلانے والا اس کا کوئی بھی جسے تو تنگ اور محدود کر دے نہیں ہادی اس کا جسے

لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَهَا مَنَعَةٌ وَلَا مَانِعٌ لَهَا عَطِيَّةٌ وَلَا مُنْعَتٌ

تو گمراہ کرے اور نہیں گمراہ کرنے والا اسے جس کو تو ہدایت دے اور نہیں عطا کرے تو کوئی جو تو روک لے اور نہ روکنے والا جو عطا کرے نہ قرب کرنے والا

لَهَا بَاعِدٌ وَلَا مُبَاعِدٌ لَهَا قَرِيبٌ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ الْكَلِمَةُ الْكَلِمَةُ

جسے دور کر دے اور نہ دور کرنے والا جسے قرب سے سرفراز کرے۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے بہت زیادہ۔ و ائم

مُتَقَارِبًا يَأْتُونَ إِلَيْهَا مُتَوَاتِرًا مُتَضَاعِفًا مُتَسَقًّا مُسْتَوْثِقًا يَدًا وَفَمٌ وَلَا يَزِيدُ

سلسل۔ پے درپے۔ متواتر۔ روز افزوں باہم مربوط اور مستحکم و مضبوط جو ہمیشہ رہے اور کبھی ختم نہ ہو

غَيْرِ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلَا مَطْبُوسٍ فِي الْعَالَمِ وَلَا مُنْعَتٌ لَهَا عَطِيَّةٌ وَلَا مُنْعَتٌ

سبھی جہان میں کہیں معدوم نہ ہو اور نہ بے نور و بے نشان ہو اپنے مقامات علم میں۔ اور نہ کم ہونے والی ہو

الْعُرْفَانَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَكَارِمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى وَلَا تُحْصَى فِي الْعَالَمِ

عرفان و آگہی میں پس تیرے ہی لیے حمد ہے تیری ان بزرگیوں پر جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا رات میں جبکہ بیٹھ

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَوْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَارِ وَالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

پہرے اور نہ صبح میں جب روشن ہو اور نہ برد بحار میں نہ صبحوں اور شاموں میں

وَالظُّهْرِ وَالْأَسْحَارِ وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ لَكَ

نہ پچھلے پہروں اور اگلے پہروں میں اور نہ دوپہروں اور سحروں میں اور نہ ہی رات اور دن کے اجزا میں سے کسی جز میں۔ اے اللہ تیرے لیے

الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا تَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَوَلَكَ

یہی حمد ہے جیسے کہ تو فرماتا ہے اور اس سے بہتر جو ہم کہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے بطور او ایسی شکر کے اور تیرا ہی

الْمَنُّ فَضْلًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ

احسان ہے بطور فضل و کرم کے۔ اے اللہ تیرے لیے حمد تمام تر۔ اور شکر تمام تر تیرا ہی ہے ملک مکمل طور پر

وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَذَكَ

تیری ہی ہے مخلوق سبھی۔ تیرے ہاتھ میں ہی ہے خیر سبھی اور تیری طرف ہی راجع ہیں امور تمام کے تمام پس تیرے ہی لیے ہے

الْحَمْدُ عَلَى مَا لَا اسْتَطِيعُ أَحْصَاءَهُ وَلَا تَعْدِيدُهُ مِنْ عَوَائِدِ فَضْلِكَ

مدان انعامات پر جن کے احاطہ اور گنتی کی میں استطاعت نہیں رکھتا یعنی تیرے فضل کے منافع

وَعَوَارِفِ رِزْقِكَ وَالْوَانَ مَا أَوْلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رِزْقِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ

تیرے رزق کے عطیات اور مختلف اقسام کے عطا کردہ تحائف پر۔ پس بیشک تو ہی اللہ

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُكَ وَالْبَاسِطُ بِالْجُودِ

ہے کہ نہیں مبعود برحق مگر تو۔ عام ہے مخلوق میں حمد تیری اور کشادہ ہے ساتھ جود و نوال کے

يَدُكَ وَلَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُتَارَعُ فِي سُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ وَأَمْرِكَ وَ

ہاتھ تیرا نہیں مقابلہ کیا جا سکتا تیرے حکم میں اور نہیں نزاع کیا جا سکتا تیری سلطنت اور ملک اور امر میں اور

تَبْدُكَ مِنَ الْأَنَامِ مَا تَشَاءُ وَلَا يَسْبِقُونَ مِنْكَ إِلَّا مَا تَرِيدُ اللَّهُمَّ لَكَ

تو مالک ہے مخلوق میں اسی کا جو چاہے اور نہیں مالک تجھ سے مگر اسی کی جو تو چاہے۔ اے اللہ تیرے لیے

الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمَشْكِيُّ وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالْأَحْوَلُ

حمد ہے اور تیری طرف ہی شکایت ہے غم روزگار کی اور تجھ سے فریاد رسی کی درخواست ہے اور تو ہی مطلوب الامانت ہے اور نہیں

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَلْهَمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا إِذْ أَيْمًا مَعَ دَوَامِكَ وَكَانَ

طاقت اور قوت مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے حمد جو دائم ہو تیرے دوام کے مطابق اور تیرے ہی لیے ہے

الْحَمْدُ حَمْدًا إِخَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا إِلَّا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ

حمد جو ہمیشہ کے لیے ہے تیرے خلود کے مطابق اور تیرے ہی لیے ہے حمد جس کی انتہاء نہیں تیری

مَشِيَّتِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا إِذْ أَيْمًا لَا يَرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَكَانَ الْحَمْدُ

مشیت کے بغیر اور تیرے ہی لیے ہے حمد دائمی کہ نہیں ارادہ کرتا اس کا ادا کرنے والا مگر تیری رضا کا اور تیرے ہی لیے ہے

حَمْدًا أَعَدُّ كُلَّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ أَلْهَمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

حمد ہر آنکھ جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

الْحَمْدُ بِاسْتِقَامَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ بِتَحْمِيدِكَ الْحَمْدُ وَ

توفیق حمد کا ساتھ درستگی تسبیح و تہلیل کے اور لائق حمد بننے کا بسبب تیری حمد بجا لانے کے اور

التَّهْلِيلُ بِتَهْلِيلِكَ وَالتَّكْبِيرُ بِتَكْبِيرِكَ الْكَبِيرِ وَالتَّكْمِيلُ بِتَكْمِيلِكَ الْأَكْمَلِ

نورانی بننے کا بسبب تیری تہلیل کے اور بڑا بننے کا بسبب تجھ کبیر کی کبریائی بیان کرنے کے اور کامل بن جانے کا ساتھ تیرا کمال اکمل بیان

وَالْإِكْبَارُ بِتَكْبِيرِكَ الْأَكْبَرِ وَالتَّعْظُمُ بِتَعْظِيمِكَ الْعَظِيمِ وَالتَّوْبُورُ بِتَوْبُورِكَ

کرنے کے اور بڑائی کا بسبب تیری بڑائی بیان کرنے کے اور عظمت کا بسبب تیری عظمت عظیمہ بیان کرنے کے اور نور کا بطفیل تیرے نور اور کے

الْأَنْوَارِ وَالرَّعْفُ بِرَأْفَتِكَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمُ بِرَحْمَتِكَ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور رأفت کا بسبب تیری رأفت کا لڑکے اور رحم کا بطفیل تیری رحمت کاملہ کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّدَائِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب چادر اور ہنسنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْإِزَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تمہد باندھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّدْقِ وَالتَّصَدُّقِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خود سچے ہیں اور حق کی تصدیق کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب صاحب

الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

انوار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْخِلَافَةِ الْعُظْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خلافت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَسْبَقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو محبوب افضل ترین مقام کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالغَزْوِ وَالْجِهَادِ وَالْمَغْنَمِ وَ

آل پر جو محبوب لشکروں والے ہیں اور عطیات والے غزوات و جہاد والے ہیں اور غنائم اور

الْبَقْسِمِ وَالْحَبِجِّ وَالْحَلْقِ وَالْتَلْبِيَةِ صَاحِبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَاحِبِ

ان کی تقیسات والے۔ حج و حلق والے ہیں اور تلبیات والے صفا و مروہ والے ہیں اور

رَمِي الْجَبَرَاتِ وَصَاحِبِ الْوُقُوفِ بِالْعُرْفَاتِ صَاحِبِ الْوُلْدَانِ وَ

رمی جبرات والے۔ عرفات میں ٹھہرنے والے ہیں ولدان اور

الْحُورِ وَالْعُرْفِ وَالْفُصُورِ وَاللِّسَانِ الشُّكُورِ وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَ

حوروں والے ہیں اور محلات اور بالا خانوں والے ہیں۔ شکر گزار زبان اور لائق شکر دل اور

الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ وَالْبَيِّنِ وَالْبَيِّنَاتِ صَاحِبِ الرَّأْيِ الْمَنْصُورِ وَالْبَدَنِ

مشہور پرچم والے۔ بیٹوں اور بیٹیوں والے۔ منصور و غالب رائے والے ہیں اور بہت

الصَّبُورِ وَالْإِسْمِ الْمَذْكُورِ صَاحِبِ الزَّمْرِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

بردار بدن والے دہر زبان پر اور ہر زمان میں انکر کئے جانے والے نام والے ہیں اور زمزم مقام ابراہیم اور مشعر حرام

صَاحِبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَاحِبِ السُّلْطَانِ وَصَاحِبِ الْقُدْحِ وَالرَّكْوَةِ وَ

والے۔ شہر رمضان والے اور عظیم سلطنت و تصرف والے ہیں پیالے اور چھاگل والے۔

صَاحِبِ الْجِسْمِ الظَّاهِرِ وَالْكَرِيمِ الظَّاهِرِ صَاحِبِ الْقَلْبِ الْقَنُورِ

پاک جسم اور غالب کرم والے ہیں تقامت پیشہ اور صاحب

الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ صَاحِبِ اللَّفْظِ الْوَجِيزِ وَالْجَاهِ الْجَرِيذِ صَاحِبِ

خضوع و خشوع قلب والے - مخقر الفاظ اور جامع معانی والے اور عظیم مرتبہ والے

الْعَرَضِ الْمَبْصُورِ وَالسِّرِّ الْمَكْنُونِ صَاحِبِ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ اللَّهُمَّ

مخفوظ عزت اور مخفی رازوں والے اور روشن ترین دن والے ہیں - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَابِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ تعالیٰ سے دو ہاتھ

قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب والے ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّيَاسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو آقا صاحب ریاست (ظاہرہ و باطنہ) ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ دَنِي فَتَدَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب "دنی فتدلی" کے قرب والے ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مجتمع منافع والے ہیں - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجْرِ الْقَطُوبِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قطعی دلائل والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْأَسْمَاءِ وَالْمَسْبِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اسماء و مسبیات کے عالم و مالک ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّحِيَّاتِ الَّتِي لَا نَهَايَةَ لَهَا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

آل پر جو ایسی حمدوں کے مالک ہیں جن کی حدود و غایت نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلَى خَلْقِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ

تیری نعمتوں پر اور مخلوق کے ساتھ بھلائیوں پر اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے انعام پر اور بھلائیوں پر

اِلَى اَهْلِ بِيُوْتِنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلَى اَنْفُسِنَا

جو ہمارے گھرانوں پر ہیں اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیری نعمت پر اور احسان پر جو خصوصاً ہماری ذاتوں پر ہے اور تیری

خَاصَّةً وَ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا اَكْرَمْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

حمد ہے بسبب تیری ہدایت کے اور تیرے لیے حمد ہے بسبب تیرے اکرام کے اور تیری حمد ہے بسبب تیری پروردہ پوشی کے اور

بِمَا سَتَرْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَ لَكَ الْحَمْدُ بِالْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ لَكَ الْحَمْدُ

تیری حمد ہے بسبب قرآن (عطا کرنے) کے اور تیری حمد ہے بسبب اہل و مال (عطا کرنے) کے اور تیری حمد ہے

بِالْمَعَاوَاةِ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَ لَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيْتَ يَا اَهْلَ التَّقْوَى

عفو و درگزر پر اور تیری حمد ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو راضی ہو جائے اے اہل تقویٰ

وَ اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدْتَّ بِهِ نَفْسَكَ وَ حَمْدَكَ

اور مالک مغفرت۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے مثل اس کے جو تو نے اپنی آپ کی ہے۔ اور حمد

بِهِ الْحَامِدُونَ وَ مَجْدَكَ بِهِ الْمَبْجِدُونَ وَ كِبْرَكَ بِهِ الْمَكْبِرُونَ وَ هَلْلَكَ

کرنے والوں نے کی ہے۔ اور تیری بزرگی بیان کی ہے اہل تجید نے اور کبر بانی بیان کی اہل تکبر نے اور تمہیل کی ہے

بِهِ الْمَهْلِكُونَ وَ وَحْدَكَ بِهِ الْمَوْجِدُونَ وَ قَدْسَكَ بِهِ الْمُقَدِّسُونَ وَ

تیری اہل تہلیل نے اور وحدانیت بیان کی ہے اہل توحید نے اور پاکیزگی بیان کی ہے اہل تقدیس نے اور

عَظَمَكَ بِهِ الْمُعْظِمُونَ وَ سَبَّحَكَ بِهِ الْمُسَبِّحُونَ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِثِّي

عظمت بیان کی ہے اہل تعظیم نے اور تسبیح کہی ہے اہل تسبیح نے حتیٰ کہ ہو تیرے لیے صرف میری طرف سے

وَ حَمْدِي وَ اَحْمَدُكَ فِي كُلِّ طَرَفَةٍ عَيْنٍ اَوْ اَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ حَمْدًا مِثْلَ

آئی حمد (چر جائیکہ ہر طرف و کائنات سے) اور حمد کروں تیری ہر دفعہ آنکھ بچھکنے کی مقدار میں بلکہ اس سے بھی زیادہ مثل حمد

حَمْدًا جَمِيعِ الْحَامِدِينَ وَتَوْحِيدًا أَصْنَافِ الْمُؤَحِّدِينَ وَالْمُخْلِصِينَ

تمام حمد کرنے والوں کے اور تمام مخلصین و موحدین کی توحید کے اور

وَتَقْدِيرِيسِ أَجْنَاسِ الْعَارِفِينَ وَثَنَاءِ جَمِيعِ الْمَهْلِكِينَ وَالْمُصَلِّينَ

تمام عارفین کی تقدیس کے اور تمام اہل تہلیل اور ارباب صلوات و

الْمُسِيحِينَ وَمِثْلَ مَا أَنْتَ بِهِ رَبُّ عَالَمٍ عَارِفٌ وَأَنْتَ مُجْمَدٌ وَمُحِبُّ

تیسح کی ثناء کی مانند اور مثل ان کمالات کے جن کے ساتھ منصف ہو کر توب اور عالم و عارف ہے اور تو محمود و محبوب

وَمُحِبُّ مَحْجُوبٍ مُّحْتَجِبٍ مِّنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِّنَ الْحَيَوَانَاتِ وَ

اور مخفی ہے اور بالاتر ہے بوجہ نورانیت کے نگر خلق کی رسائی سے جاندار ہوں یا

النَّبَاتَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَالْبِرَايَا وَأَسْأَلُكَ إِلَهِي بِمَسَائِلِكَ وَأَسْرَعُ

نباتات اور جمادات و دیگر مخلوقات اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے میرے الٰہ تیرے شایان حاجات و مطالب کا اور

إِلَيْكَ فِي بَرَكَةٍ مَا أَنْطَقْتَنِي بِهِ مِنْ حَمْدِكَ فَمَا أَيْسَرًا كَلَّفْتَنِي بِهِ

رغبت کرتا طرف تیری بسبب تیری حمد کی برکت کے جس کے ساتھ تو نے مجھے ناطق فرمایا پس کس قدر قلیل ہے نسبت

حَقِّكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ عَلَى شُكْرِكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالنِّعَمِ فَضَلًا

تیرے حق کے جس کا تو نے مجھے مکلف بھرا یا اور کس قدر عظیم ہے وہ النعم جس کا تو نے وعدہ دیا ہے شکر کرنے پر۔ ابتداء میں دیں نعمتیں از روئے

وَطَوْلًا وَأَمَرْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقًّا وَعَدَلًا وَعَدْتَنِي عَلَيْهِ أَضْعَافًا

فضل اور تقویت کے اور حکم دیا شکر گزاری کا از روئے استحقاق اور عدل کے جس پر وعدہ فرمایا کئی گنا بدلہ اور

مَزِيدًا وَأَعْطَيْتَنِي مِنْ رِزْقِكَ إِخْتِيَارًا وَرِضَاءً وَسَأَلْتَنِي مِنْكَ

مزید کا اور عطا کیا مجھے اپنے رزق سے اپنی پسند اور رضامندی کے مطابق اور طلب کیا اس کی وجہ سے معمولی

تَسْبِيحًا صَغِيرًا إِذْ نَجَّيْتَنِي وَعَافَيْتَنِي مِنْ جُهِدِ السَّلَامَةِ وَالْمَسْأَلَتَنِي

اور قلیل شکر۔ جبکہ نجات اور عافیت بخشی سخت مشقت سے اور نہ سپرد کیا

لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبِلَائِكَ وَجَعَلْتَ مَلْبَسِي الْعَافِيَةَ وَأَرْكَبَتَنِي بِالْحَمْدِ

سوء قضاء اور محنت شاقہ کے اور بنایا عافیت کو میرا لباس اور عطا فرمایا

وَالرَّخَاءِ وَسَوَّغْتَ لِي فِي الدَّارِ بَيْنَ قَصْدِ الْفِعْلِ تَيْسِيرًا وَضَاعَفْتَ

اور سہولیات کا اور خوشگوار فرمایا میرے لیے دارین میں میان روی اور اعتدال علی کو از روئے تیسیر سہولت کے اور کئی گنا بڑھایا

لِي أَشْرَفَ الْفِعْلِ وَالْمَزِيدَ مَعَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ الشَّرِيفَةِ

میرے لیے اچھے فعل کو اور مزید عطا کیا بمع اس محبت شریف کے

وَأَبَشَّرْتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَأَصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبِيِّينَ

جس کا وعدہ دیا مجھے اور بلند درجہ کے جس کی بشارت دی مجھے۔ اور منتخب فرمایا مجھے (واسطے امتی ہونے کے تمام انبیاء

دَعْوَةً وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً وَأَفْضَلَهُمْ لِنَاشْفَاعَةٍ وَأَوْضَحَهُمْ حُجَّةً

سے عظیم تر دعوت والے اور سب سے بلند تر درجہ والے اور سب سے افضل ترین شفاعت اور واضح ترین حجت و

وَأَقْرَبَهُمْ مِّنْزَلَةً مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ

برہان والے اور قریب ترین منزلت و مقام والے نبی محمد کا رحمت نازل کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور سلامتی اور تمام انبیاء

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَ

د مرسلین پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اللہ کے لیے حمد ہے مطابق تعداد اس کی مخلوق کے۔ اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ

حمد ہے اللہ کی مطابق زمین و آسمان کے موجودات کے۔ اور حمد ہے اللہ کی مطابق زمین و آسمان کی

وَالسَّمَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَىٰ كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ

پری کے اور حمد ہے اللہ کی مطابق ان اشیاء کے جن کو محیط ہے کتاب اس کی اور حمد ہے اللہ کے لیے مطابق تعداد ہر شئی کے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا فِي كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور حمد ہے اللہ کیلئے مطابق پری ہر شئی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرِيفِ وَالْعَالِي الْقَدْرِ الْبَيْفِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو مالک ہیں شرافت والے مقام کے اور بلند و بالا قدر و منزلت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجْرَةِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب حجرہ والے

وَوَلِيَّ النَّظَرَةِ وَعَظِيمِ الْفِطْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور رحمت و عنایت کے مالک اور عظیم فطرت و اصلیت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّوْحَةِ الرَّكِيَّةِ الصَّفِيَّةِ الْهَنْدِيَّةِ الرَّضْوِيَّةِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں پاکیزہ۔ چیدہ و پسندیدہ۔ خوش منظر روضہ کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَضِرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مقدس بارگاہ والے

وَالْجَوْهَرَةِ الْبَاصِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور پر بصیرت جو ہر والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبِقْعَةِ الَّتِي فَاقَتْ الْجَنَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس قطعہ زمین کے جو جنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَرْيَةِ وَالْخِطَابَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بستیِ امدنیہ کے اور خطابت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّؤْفَةِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قرب منزلت کے مالک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمَنَا أَسْمَاءً

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سب سے بزرگتر رسول ہیں

صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ أَخْرَجَ عَزِيزُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شریعت کے مالک اور آخری رسول اور اللہ کے ہاں معزز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَعُوْثِ وَالْجَنُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو محبوب افواج و عساکر والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَرِّ وَالْبِرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب روشن پرچم والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَسْرَارِ اَللّٰهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب اسرار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّعْلِيْنِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب تعلین ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاٰیَاتِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب آیات ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّلٰلَاتِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مختلف انداز میں رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِشَارَاتِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اشارات والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكِرَامَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کرامات و کمالات والے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب واضح علامات و

الْبَاهِرَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

انتیازات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْبَيِّنَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

واضح معجزات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

خوارق عادات (معجزات) والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصَّرَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

پر جو محبوب (تری بارگاہ میں امت کیلئے نزاری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّيْفِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُرْبَةِ وَالْفَقْرِ

آل پر جو محبوب صاحب سیف ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں رنج و الم اور تکلیف سے اور

أَحْفَظُنِي يَا حَفِيفُ يَا وَكِيلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي

محموظ فرما مجھے اے حفیظ۔ اے کارساز آگے سے۔ پیچھے سے اور دائیں

وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي بِوَجُودِ شَهْوِدِ حَفِيفُ يَحْفَظُونَهُ

و بائیں سے۔ اور اوپر سے اور نیچے سے بسبب موجود کرنے گواہوں اور محافظوں کے جو حفاظت کریں اس بندہ کی

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَأَعِيدْ نَفْسِي وَرُوحِي وَبَدَنِي وَأَهْلِي وَأَوْلَادِي وَمَالِي وَ

اللہ کے امر سے۔ اور میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس روح اور بدن نیز اہل و اولاد اور مال و

عِيَالِي وَمَا أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ أَبْوَابِي وَأَحَاطْتُ بِهِ جُدْرَانِي وَجَمِيعَ مَا أَتَقَلَّبُ

عیال کو اور جو چیز میرے دروازے کے اندر آجائے اس کے بند ہونے پر اور جس کو محیط ہیں میری دیواریں اور وہ تمام نعمتیں

فِيهِ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِحْسَانِهِ وَجَمِيعِ أُمُورِي وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي بِاللَّهِ

اور احسانات اللہ کے جن میں میں گردش کر رہا ہوں اور تمام اپنے معاملات اور آخری اعمال کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں

وَبِأَسْبَابِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

اور اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کی پناہ میں ہر مخلوق کے شر سے اور رات میں وارد

طَارِقٍ إِذَا طَرَقَ قَلْبُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ

ہونے والے ہر شر سے جبکہ وہ آجائے۔ فرمادیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی اس کی مخلوق کے شر سے

عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

اور تاریکی پھیلانے والے کے شر سے جبکہ وہ ڈوب جائے اور گانٹھوں میں پھونکتے والے کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ

حَسَدٌ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَبَلَاءٍ وَآفَةٍ وَعَاهَةٍ وَمِحْنَةٍ وَعِلَّةٍ وَ

حسد کرے اور ہر شر والے شر سے اور ہر بلا و آفت سے اور عیب و نقص۔ محنت اور بیماری اور

أَمْرَاضٍ وَأَسْقَامٍ وَالْأَلِيمِ وَأَوْجَاعٍ وَمُصِيبَةٍ وَحَادِثَةٍ وَزَلْزَلَةٍ وَوَبَاءٍ

امراض و اسقام سے اور آلام و اوجاع سے۔ مصیبت و حادثہ اور زلزلہ و وباء سے



وَعَرَقٍ وَحَرَقٍ وَجُوعٍ وَعَطَشٍ وَغَمٍّ وَهَمٍّ وَضَلَالَةٍ وَغَارَةٍ وَمِنْ

غرق ہونے۔ جلنے اور بھوک۔ پیاس اور غم و اندوہ اور گمراہی اور لوٹ مار اور

مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَأَحْزَانِهَا وَشِدَّةٍ فِي الدَّارَيْنِ وَأَحْتَرَزْتُ مِنْ جَمِيعِ

دنیا کے تمام مصائب اور غمگینیوں اور شدت و مشقت سے دایں میں اور پرہیز کیا میں نے اپنے تمام

أَعْدَائِي بِوَجْهِهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ أَيُّهَا الْمُرِيدُ

اعداؤ سے بطفیل اس ذات کے کہ نہیں مبعود برحق مگر وہی جو باقی رہنے والا ہے مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی اے ارادہ کرنے والے

بِنَاسِئَةٍ أَيُّهَا الْمُحِيقُ لَنَا شَرًّا أَيُّهَا الْهَكِيدُ بِنَا سَاءَةَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ

برائی کا ساتھ ہمارے۔ اے بھڑکانے والے ہمارے لیے غدا بڑا۔ اے مکر کرنے والے ساتھ برائی کے لیے میں اللہ رحمن کی پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا إِسْتَرْتُ مِنْكَ بِسِتْرِ النَّبِئَةِ وَالْأَمَانِ الَّذِي سَتَرَ

تجھ سے اگر ہے ترخوت خدا رکھنے والا۔ میں پر وہ طلب کرتا ہوں تجھ سے ساتھ تنزہت کے اور امان خداوندی کے جس ساتھ اللہ تعالیٰ

اللَّهُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْفِرَاعِ عِنْدَ جِبْرَائِيلَ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلَ عَنْ

نے چھپائے رکھا انبیاء علیہم السلام کو وقت کے فرعونوں سے جبرئیل میرے دائیں ہو اور میکائیل میرے بائیں

يَسَارِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَامِي وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ

اور محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے سامنے ہوں اور شیخ محمد بن الدین

الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَدْوَتِي وَإِمَامِي وَاللَّهُ تَعَالَى يُجْزِي الْأَعْدَاءَ عَنِّي

ایشیخ عبد القادر جیلانی میرے مقتدا اور امام ہوں اور اللہ تعالیٰ کفایت کرے مجھے میرے اعداء کی طرف سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَدَاكِ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضگی سے اور مسکنت و فقر سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے غدا سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ رُدِّكَ وَكَفَيْتِي يَا كَافِي الْأَنْكَارِ وَالْأَعْدَاءِ وَالْأَسْوَاءِ

اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے ٹھکانے سے اور مجھے کفایت فرمائے کافی اے شفاعت عطا کرنے والے برے کاموں۔ دشمنوں اور بری

بِعَوَائِدِكَ فَوَائِدُكَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا

عادات سے بطفیل منافع اور فوائد اس قول کے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ دیکھتا تو اس کو خشوع کرتے اور ریزہ ریزہ ہوتے

مَنْ خَشِيَ اللَّهَ يَأْوِلْ يَأْخِرْ يَظَاهِرْ يَبَاطِنْ يَا قَدْرُ يَا قُدْرُ يَا قُدْرُ يَا قُدْرُ

اللہ تعالیٰ کے خوف سے "اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن۔ اے قدم۔ اے دائم۔ اے مضبوط۔ اے مستحکم۔ اے جود والے

إِطْسُ بِطَلْسُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَرُّ سُوَيْدَاةٍ وَكَلْبِ أَعْدَائِنَا

مٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طلسم کی برکت سے اس شر کو جو ہمارے اور تیرے اعداء کے دلوں کی

وَأَعْدَاؤِكَ وَدُقِّ أَعْنَاقُ رُءُوسِ الظَّالِمَةِ بِسُيُوفِ نَشَاتٍ وَهَذَا كَلِمَةُ

گہرائیوں میں ہے اور کچل دے ظالموں کے سرداروں کی گردنیں ساتھ اپنے قر اور

سَطْوَتِكَ وَأَحْبَبْنَا بِحُجْبِكَ الْكَثِيفَةِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ

سطوت کی کثرت و فراوانی والی تلواروں کے۔ اور پوشیدہ فرماہیں اپنے گاڑھے مجاہدات میں اپنی طاقت اور قوت اور

عَنْ لِحَظَاتِ لَمَحَاتِ لَمَعَاتِ أَبْصَارِهِمُ الضَّعِيفَةِ بِعِزَّتِكَ وَسَطْوَتِكَ

قدرت کے ساتھ ان اعداء کی کمزور نگاہوں کے دیکھنے اور چھکنے اور ان کی روشنی سے بطفیل اپنی عزت اور سطوت کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خود استعمال

الْبَغْفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرنے والے ہیں (دوران جنگ) اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْفَرَجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب کشائش والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَوْلِ وَالْقَلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آل پر جو محبوب مؤثر قول والے ہیں اور قلم حکم والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِنَا رَسُولِ صَاحِبِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ كَمَا كَرَّمَ اللَّهُ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب ہمارے مبشر رسول ہیں۔ بیت حرام والے اور کعبۃ اللہ کو آباد فرمائے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب رکن

الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

(حجر اسود) اور مقام ابراہیم کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَوْقِفِ الْمَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب عظمت والے موقف (مقام محمود) کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ نُورِ جَمَلَةِ الْعَالَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام عالم کے انوار کا سرچشمہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَرْدِ الْمَسْتَنِيمِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مانوس گھاٹ (حوض کوثر) کے مالک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَنَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ جنات نعیم

التَّعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَّهَانَ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ اصفیا کیسے

الْأَصْفِيَاءِ رَسُولِ صَاحِبِ الْوَحْيِ سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيِّ يَتِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

برہان و دلیل ہیں صاحب وحی رسول ہیں۔ قوم کے سردار ہیں عربی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں (وہ) یتیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُولِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام بندگان خداوند تعالیٰ سے اس کے قریب تر ہیں۔ رسول

صَاحِبِ الدَّارَيْنِ خَادِمِ طَيْبِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دونوں جہان کے مالک۔ خادم (بارگاہ الوہیت) اللہ کے ہاں طیب و پاکیزہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ مَدَنِيِّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب انبیاء کے بادشاہ۔ رسول صاحب فرقان۔ مدنی۔

مَكِّي شُكْرًا لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سراج الأولياء رسول صاحب الحلة والميزان الطيخى قريته الله

جو محبوب اللہ کے دستوں کے لیے روشن چراغ۔ رسول۔ امتیازی پوشاک اور میزان والے ہیں بظاہر مکہ والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اے

صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أهل القوي رسول

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ اہل تقویٰ۔ رسول۔

صاحب الطريقة شفاء فصيح الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

طریقت والے۔ سراپا شفاء اللہ کی طرف سے عطا کردہ فصاحت کے مالک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وعلى آل سيدنا محمد أمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة نوري

اور آپ کی آل پر۔ اے محبوب ہم آپ پر ایمان لائے تم ہمارے نبی۔ رسول۔ صاحب حقیقت۔ قبیلہ مضر کے فرزند

بشير الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

اللہ کے بشیر بنا کر بھیجے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تمام

الأمم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله اللهم صل وسلم على

امم کے امام۔ رسول۔ صاحب معرفت اور اللہ کی رحمت کی برہان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كبرنا رسول صاحب الجنة طاهر

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہمارے بڑے بزرگ رسول۔ مالک جنت۔ نفاہر

كريم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب جو دو کرم ہیں اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الدين صادقنا رسول صاحب القيمة ناطق شفيع الله اللهم صل وسلم

ہمارے سامنے دین کی صداقت بیان کرنے والے۔ رسول۔ روز قیامت کے باذن اللہ مالک۔ ناطق بالحق۔ اللہ کی طرف سے شفیع بنائے ہوئے۔

وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقيهنا رسول صادقنا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہمارے سمجھانے والے رسول۔ صاحب

الصراط مبلغ عاقب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

صراط۔ مبلغ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ إِخْرَازِ الزَّمَانِ رَسُولُ صَاحِبِ الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٌ مُكْرَمٌ

آل پر جو محبوب آخر الزمان نبی و رسول ہیں۔ صاحب اجتہاد۔ انتقام لینے والے (اللہ کے لیے) اللہ تعالیٰ کے ہاں

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُشَفَّعٌ

صاحب تعظیم و تقسیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کرامت کے شفیع

الْأُمَّةِ يُعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ النَّبُوَّةِ مُحَرَّمِ نَبِيِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ

بنائے جا چکے ہیں۔ ہماری اعانت فرمائیں گے شفاعت کے ساتھ۔ رسول صاحب نبوت۔ صاحب حرمت و احترام نبی خدا تعالیٰ۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِنْدُ الْعَاصِمِينَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سہارا ہیں گناہگاروں کی مغفرت بخش

رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ فَارِقُ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ تَهَامِيٍّ مُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

کا۔ رسول۔ صاحب جنت۔ جہنم سے جدا اور دور کرنے والے۔ شاہنشاہ تھامروا لے اللہ کی توفیق سے ایمان دینے والے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْهَمَمِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب بلند تر ہمتوں والے

السَّمَاوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْعُلُومِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو محبوب علوم لدنیہ کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اعلیٰ اخلاق اور جو دونوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ملک و ملک خداوند تعالیٰ پر اصلی اور حقیقی قبضہ والے ہیں (باذن اللہ تعالیٰ) اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ اللَّهُمَّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اعلیٰ بہار اور رونق والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلندتر مرتبہ کے

الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مالک ہیں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اہلکے

الدَّرِيْعَةِ الْعُدْرِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مغفرت کے ازلیجہ و بہانہ کے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَانَةِ الْعَلِيَّاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب بلندتر مرتبہ کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر جو محبوب قریب ترین منزلت کے مالک ہیں (عند اللہ)۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْمُخْرُوجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں علم مخزون کے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَمْرِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ نافذ اور مؤثر حکم والے ہیں۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْبَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب فرضی اور نقلی عبادات

وَالْفَرَائِضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب کہ مالک ہیں ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَنْ يُطْعِمُ الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس مقام و منصب کے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَا اَشْكُمُ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو مالک ہیں اس منصب خلیل کے "جو دیں تمہیں

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

رسول علیہ السلام پس اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے باز رہو" لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ اللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب حق ربانی و خالص کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَمْتَابِكَ اَنْتَ وَلِيْنَا رَسُوْلًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر لے محبوب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں آپ ہمارے مددگار

صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ بِاطْنِ خَلِيْلٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

رسول اور صاحب شفاعت۔ باطن اور اللہ کے خلیل ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس منصب کے "اگر آپ موجود نہ ہوتے تو نہیں افلاک پیدا نہ کرتا"

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اچھے (اعمال کے اور)

وَالْاِحْسَنِ الْاَحْسَنِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الدُّوْقِ وَالشُّوْقِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

جو محبوب ذوق و شوق والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَا فَوْقَ الْفَوْقِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بلند سے بلند تر کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قِفِّ يَامُحَمَّدُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُصَلِّيْ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کا یہ منصب ہے "ٹھہریے لے محمد کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر صلوات

عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بیج رہا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کر

هُوَ صَاحِبُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صاحب خلق عظیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب خیر و بھلائی اور بر و احسان والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مصاحب ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ عُثْمَانَ وَحَيْدَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب حضرت عثمان اور حضرت حیدر کر رضی اللہ عنہما کے مصاحب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عرب و عجم کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَقْرِ وَالرُّعْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر جو محبوب صاحب فقر اور صاحب رعب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّخَاوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر جو صاحب سخاوت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْيَقِينِ وَالتَّكْوِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب صاحب یقین اور صاحب تکوین و مرتبت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُرُوَّةِ وَالْفَتْوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مروت اور جرأت مروتی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَاحْفَظْنِي يَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ملک و ملکوت کے مالک ہیں اور محفوظ رکھے مجھے اے

مَوْلَايَ مِنْ أَفَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا تَقْضِ حَتِي يَأْسِيْدِي عَلَى رِعْوِي

میرے مولا دینی اور اخروی آفات سے اور مجھے رسوا نہ کرنا اے میرے آقا سب مخلوقات

الْخَلَائِقِ خَاصَّةً فِي يَوْمِ الْمَوْعُودِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي أَمْ قُنْ ذَا الَّذِي

کے سامنے یوم موعود میں۔ اے میرے اللہ۔ سردار اور سند و سہارے کون ہے دوسرا کہ جس سے

أَسْأَلُكَ وَأَنْتَ الرَّبُّ الْمَوْجُودُ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي إِلَىٰ مَنْ أَتَوَجَّهُ وَأَنْتَ

سوال کروں میں حالانکہ تو پروردگار موجود ہے۔ اے میرے اللہ۔ آقا اور سہارے کس کی طرف میں توجہ کروں۔

الْحَقُّ الْمَعْبُودُ يَا سَيِّدَ الْأَسْيَادِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي أَمْ مَنْ يُعْطِينِي

حالانکہ تو معبود برحق ہے اے سب آقاؤں کے آقا۔ اے میرے اللہ اور آقا اور سہارے کون ہے وہ جو عطا کرے مجھے

وَأَنْتَ صَاحِبُ الْجُودِ يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ إِلَهِي أَنْزَلَكَ تُعَذِّبُنَا وَ

حالانکہ تو صاحب جود و عطا ہے ایک جب اس سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ اے میرے اللہ کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ تو ہمیں عذاب دینا

تُوحِيدُكَ فِي قُلُوبِنَا وَمَا أَخَالَكَ تَفَعَّلُ وَلَئِنْ فَعَلْتَ أَنْجَعْنَا مَعَ قَوْمِ

حالانکہ تیری توحید ہمارے قلوب میں ہے میں نہیں خیال کر سکتا کہ تو ایسے کریگا اور اگر تو ایسا کرے تو کیا ہمیں اکٹھا کرے گا اس قوم

طَالَمَا بَغَضْنَا هُمْ لَكَ فَيَا لِمَكْنُونٍ مِنْ أَسْبَابِكَ وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ

کے ساتھ کہ بسا اوقات ہم نے اس سے بغض رکھا تیری خاطر تو بظہیر اپنے اسماء میں سے پوشیدہ اسم کے اور بظہیر اپنی نورانیت اور

بِهَائِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْهَلُوعِ وَلِهَذَا الْقَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا

روح کے جسے حجابات نے ہم سے اوجھل کر رکھا ہے مغفرت فرما اس حریص نفس کے لیے اور بے صبر قلب کے لیے جو نہیں صبر کرتا

يَصْدِرُ لِحَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْدِرُ لِحَرِّ تَارِكِ يَا حَلِيمٌ يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَحِيمٌ

سورج کی حرارت پر تو کس طرح صبر کرے گا تیری آگ کی تپش پر۔ اے حلیم۔ اے عظیم۔ اے کریم۔ اے رحیم

إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْتَ الَّذِي

اے میرے اللہ تو ہی ہے کہ نہیں جس کی مانند کوئی شئی اور جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور تو ہی ہے

تَعْلَمُ السِّرَّ وَالْإِعْلَانَ وَمَا فِي الْقُلُوبِ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي تَعْفُو عَنِ السَّامِعِينَ

جو جانتا ہے مخفی اور علانیہ کو اور دلوں میں چھپی چیزوں کو۔ اے میرے الہ تو ہی ہے جو عفو فرماتا ہے گناہوں کو

بَعْدَ أَنْ يَغْرُقَ فِي الدُّنُوبِ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِي

بعد غرق ہو جانے بندوں کے اپنے گناہوں میں۔ اے میرے الہ تو ہی ہے جس نے فرمایا ہے نہ ناامید ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت

اللَّهُ إِنْ اللَّهُ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ بِقَوْلِكَ

سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے تمام گناہ بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے اور تو اپنے قول میں

صَادِقٌ لَسْتَ بِمَكْذُوبٍ نَجِّنِي يَا اللَّهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ وَالْغُرُوبِ

سچا ہے تیری طرف کذب کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ نجات دے مجھے اے اللہ عظیم کرب اور غم و اندوہ سے اور تو ہی

غِيَاثُ كُلِّ مَكْرُوبٍ وَمَصْرُوفٍ وَمَظْلُومٍ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

زیادرس ہے ہر دردمند اور مبتلائے حوادث اور مظلوم کا اور تو ہی ہر چیز پر مکمل قدرت والا ہے۔

إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَضِيْقِهَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

اے میرے الہ امان دینا۔ امان دینا قبروں کی تاریکیوں اور تنگیوں میں۔ اے اللہ امان دینا۔ امان دینا

عِنْدَ سُؤْلِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَهَيْبَتِهِمَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ عِنْدَ وَجْهِكَ

منکر و نکیر کے سوال کے وقت اور ان کی ہیبت و دہشت کے موقع پر۔ اے اللہ امان دینا۔ امان دینا قبور کی

الْقُبُورِ وَشِدَّتِهَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي يَوْمِ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ہولناکی اور شدت کے وقت۔ اے میرے الہ امان دینا۔ امان دینا اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے

إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

اے میرے الہ امان دینا۔ امان دینا جس روز پھونکا جائے گا صور میں پس بیہوش ہو جائیں گے آسمانوں اور

مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ

زمینوں والے مگر جن کے متعلق چاہے گا اللہ کہ بیہوش نہ ہوں اے میرے الہ امان دینا۔ امان دینا جس دن چھوڑی جائیگی زمین

زُلْزَالًا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

جیسے کہ حق ہے چھینچھوڑنے کا۔ اے میرے الہ امان دینا۔ امان دینا جس دن بھٹ پڑے گا آسمان ساتھ بادل کے۔ اے میرے الہ امان دینا

الْأَمَانَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ إلهي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

امان دینا جس دن کے متعلق تو نے فرمایا کہ ہم لپٹیں گے آسمان کو مانند لپٹے جانے کتابوں کی جلد بندی والے چڑے کے۔ اے میرے اے الامان الامان

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَيَرْزُقُ اللهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ

جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین میں اور آسمان بھی اور ظاہر ہو جائیں سبھی اللہ واحد قہار کے سامنے

إلهي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ

اے میرے اے الامان - الامان جس دن دیکھے ہر آدمی جو اس نے آگے بھیجا اور کسے گا کافر نے

يَلِيَّتِي كُنْتُ تَرَابًا إلهي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اے میرے اے الامان - الامان جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے (کسی کو)

إِلَّا مَنْ آتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إلهي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ ينادي مُنَادِيٌ

مگر جو حاضر ہوا بارگاہِ خداوندی میں ساتھ قلبِ سلیم کے۔ اے میرے اے الامان - الامان جس دن نداء دے گا ندا دینے والا

مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ آيِنِ الْعَاصُونَ وَآيِنِ الْمَذْنُبُونَ وَآيِنِ الْخَالِفُونَ

عرش کے نیچے سے کہاں ہیں گنہگار۔ کہاں ہیں اربابِ ذنوب اور کہاں ہیں مخالفت کرنے والے

وَآيِنِ الْخَاسِرُونَ هَلُّوْا إِلَى الْحِسَابِ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ

اور کہاں ہیں خسارہ پانے والے اور طوف حساب کے۔ تو جانتا ہے میرے مخفی اور ظاہر و علانیہ کو پس قبول فرما

مُعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سَوْأِي يَا إلهي أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ

میری معذرت اور تو جانتا ہے حاجت میری پس مجھے میرا مطلوب عطا فرما۔ اے میرے اے افسوس ہے مجھے گناہوں کی کثرت کا

وَالْعَصِيَّانِ أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلْمِ وَالْجَفَاءِ أَهْ مِنْ النَّفْسِ الْبَطْرُودَةِ أَهْ مِنْ

اور نافرمانی و داری کا۔ اہ! ظلم و جفا کی کثرت۔ افسوس ہے دھتکارے ہوئے نفس پر افسوس!

النَّفْسِ الْمَطْبُوعَةِ لِلْهُوَى أَهْ مِنْ الْهُوَى أَغْتَبِي يَا مَغِيثٌ عِنْدَ تَغْيِيرِ

نفس پر جو خواہشاتِ فاسدہ پر پیدا کیا گیا۔ افسوس ہے خواہشاتِ نفس پر۔ میری فریاد سنی فرما۔ اے فریاد رس وقت میری

حَالِي إلهي أَنَا عَبْدُكَ الْمَذْنُوبُ الْمَجْرُمُ الْمَخْطِئُ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ يَا حَكِيمٌ

میں حالت کے تغیر و تبدل کے۔ اے میرے اے تیرا گناہگار بندہ۔ جرم پیشہ اور خطا کار ہوں مجھے آتشِ دوزخ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے

يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے پناہ دینے والے۔ اے پناہ دینے والے۔ مجھ پر رحم فرما بطفیل اپنی رحمت کے۔ اے ارحم الراحمین۔

أَلَمْ تَسْمَعْ بِفَضْلِكَ يَا مُنْكَأِي

کیا نہیں سنی تو نے اپنے فضل سے اے میرے مقصود

دُعَاءٌ مِّنْ ضَعِيفٍ مُّبْتَلَاةٍ

دُعا اس شخص کی جو ناتواں اور مصیبت زدہ ہے

أَسِيرٌ بِالدُّنُوبِ وَبِالْخَطَاةِ

قیدی ہے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے

مُجِدُّ بِالتَّبَتُّلِ وَالدُّعَاءِ

سخت جدوجہد کرنے والے ہوں لوگوں سے انقطاع اور دُعا میں

وَأَهْلُ الْأَرْضِ مَا عَرَفُوا دَوَائِي

اور اہل زمین نے نہیں جانا میری دوا کو

بِعَفْوِكَ يَا عَظِيمُ يَا رَجَائِي

ساتھ تیری عفو کے اے عظیم اے میری امید

حَيَاتِي بِنِكَ أَكْثَرُ مِنْ خَطَايَا

میری شرمندگی تجھ سے زیادہ ہے نسبت میری خطاؤں کے

إِذَا الْعَمِيَّتُ مِنْ دُمُعِي دَوَائِي

جبکہ نہیں باقی رہی میرے آنسوؤں میں میری دوا

أَعُوذُ بِمُحْسِنِ عَفْوِكَ يَا رَحِيمُ

میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے حسن عفو کے ساتھ اپنی اس جزاء و سزا سے

وَلِي ذَا بَعْدِ وَأَنْتَ لَكَ الْوَالِدَانِ

میں بیمار ہوں اور تو ہی میری بیماری کی دوا ہے

غَرِيقٌ فِي بُحُورِ الْغَمِّ حَزِينًا

غرق ہے غم کے سمندروں میں حزن و ملال کی وجہ سے

أُنَادِي بِالتَّضَرُّعِ كُلَّ يَوْمٍ

میں پکارتا ہوں ساتھ زاری کے ہر دن در آنحالیکہ

لَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ طَرًّا

البتہ تحقیق تنگ ہو چکی ہے مجھ پر زمین تمام تر

فَخَذُ بِيَدِي فَإِنِّي مُسْتَجِيرٌ

تو تو ہی میری دستگیری فرما کیونکہ میں طالب پناہ و امان ہوں

أَتَيْتُكَ يَا كَيْفَا فَارْحَمْ بُكَائِي

میں حاضر ہوا ہوں تیری بارگاہ میں روتے ہوئے پس رحم فرما میرے رونے پر

فَأَبِكِي حَسْرَةً دُمُعِي وَأَبِكِي

پس میں بہاتا ہوں حسرت سے اپنے آنسو اور روتا ہوں۔

جَزَائِي أَنْ تُعَذِّبَنِي وَلَكِنْ

میری جزاء تو یہی ہے کہ تو مجھے عذاب دے لیکن

وَلِي هَمٌّ وَأَنْتَ لَكَ الشُّفْعَانِي

میں اندوہ ناک ہوں اور تو ہی میرے غم و اندوہ کو دور کرنے والا ہے



وَأَيُّظُنَّا الرَّجَاءُ فَقُلْتُ إِلَّا

اور بیدار کیا، میں امید درجانے تو میں نے کہا

تَفَضَّلْ سَيِّدِي بِالْعَفْوِ عَنِّي

مہربانی فرمائے میرے سردار مجھ سے درگزر کر کے

حَدُّ بَطْفِكَ يَا إِلَهِي مَنْ لَهُ زَادٌ قَلِيلٌ

اپنے لطف سے دستگیری فرمائے اللہ سفر خرچ سے محروم شخص کی

ذَنْبِكَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ فَأَغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ

اس کا گناہ عظیم گناہ ہے پس اس عظیم گناہ کو بخش

مِنْهُ عَصِيَانٌ وَنِسْيَانٌ وَسَهْوٌ وَعَبْدٌ سَهُوٌ

اس کی طرف سے نافرمان برداری، بھوک چوک اور سہو ہی سہو ہے

نَالٌ يَا رَبِّ ذُنُوبِي مِثْلُ رَمْلٍ لَمْ تُعَدِّ

اے میرے گناہ ریت کے ذرات کی مانند گنتی و شمار سے باہر ہیں

كَيْفَ حَالِي يَا إِلَهِي لَيْسَ لِي خَيْرُ الْعَمَلِ

کیا ہے حال میرا اے میرے اللہ نہیں ہے میرا کوئی بہتر عمل

عَافِيٌّ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاقْضِ عَنِّي حَاجَتِي

مجھے ہر بیماری سے عافیت دے اور بر لا میری حاجت کو

أَنْتَ شَافِيٌّ أَنْتَ كَافِيٌّ فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ

تو ہی شفا بخش ہے اور تو ہی کفایت کرنے والا ہے مشکل امور میں

رَبِّ هَبْ لِي كُنْزَ فَضْلِكَ أَنْتَ وَهَابٌ كَرِيمٌ

اے میرے رب مجھے عطا فرما فضل و کرم کا خزانہ تو بہت بخشنے والا کریم ہے

هَبْ لَنَا مَلَكًا كَبِيرًا نَجِّنَا مِنْ خَافِ رَبَّنَا

عطا فرما ہمیں بہت بڑا ملک اور نجات دے ہمیں جس سے ہم خوفزدہ ہیں اے رب ہمارے

رَجَائِي أَنْ تَحَقِّقَ لِي رَجَائِي

میری امید صرف یہی ہے تو ہماری امید بر لانے

فَإِنِّي مِنْ بَلَاءٍ فِي بَلَائِي

کیونکہ میں آفات میں مبتلا ہوں

فَقَلِّسْ بِالصَّدَقِ يَا تَبِي عِنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيلٌ

جبکہ وہ حالت افلاس میں صدق دل سے تیرے در پر حاضر ہوتا ہے اے جلیل

إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ ذَلِيلٌ

وہ تیرا بندہ غریب ہے اور گناہگار اور ذلیل عبد ہے

مِنْكَ إِحْسَانٌ وَفَضْلٌ بَعْدَ إِعْطَاءِ جَزِيلٍ

تیری طرف سے احسان و فضل ہے بعد عظیم عطا کے

فَاعْفُ عَنِّي كُلَّ ذَنْبٍ فَأَصْفِرِ الصَّفْرَ الْجَمِيلُ

پس درگزر فرما میرے ہر گناہ سے اور احسن طریقہ پر میرے گناہوں کو اعراض و درگروائی فرما

سَوْءِ أَعْمَالِي كَثِيرٌ زَادُ طَاعَاتِي قَلِيلٌ

میرے برے اعمال زیادہ ہیں اور طاعات والا زاد راہ قلیل ہے

إِنَّ لِي قَلْبًا سَقِيمًا أَنْتَ مَنْ كَشَفِي الْعَلِيلُ

بیشک میرا دل بیمار ہے اور تو ہی شفا دیتا ہے بیماروں کو

أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ لِي نِعْمَ الْوَكِيلُ

تو میرا پروردگار ہے تو ہی مجھے کافی ہے تو ہی میرے لیے اچھا کارساز ہے

أَعْطِنِي مَا فِي ضَمِيرِي دُلَّنِي خَيْرَ الدَّلِيلِ

عطا کر مجھے جو میرے دل میں ہے اور بہترین دلیل کی طرف رہنمائی فرما

إِذْ أَنْتَ قَاضٍ وَالْمُنَادِي جَبْرِيْلُ

جبکہ تو فیصلے فرمانے والا ہو گا اور جبرئیل منادی کرنے والے

اِنَّ مُوسٰى اَبْنِ عِيسٰى اَبْنِ يَحْيٰى اَبْنِ نُوْحٍ اَنْتَ يَا صِدِّيقُ الْكَبْرٰى

کماں ہیں موسیٰ کماں ہیں عیسیٰ کماں ہیں یحییٰ کماں ہیں نوح تو ہے صدیق اکبر رجوع کر طرف مولا نے مجلس کے

قُلْ لَنَارِ اَبْرِدِيْ يَارَبِّ فِى حَقِّىْ كَيْفًا

آتش دوزخ کو فرماتے میرے رب کہ ٹھنڈی ہو جائے میرے حق میں جیسے کہ

قُلْتُ قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ اَنْتَ فِى حَقِّ الْخَلِيْلِ

فرمایا تو نے کہا ہم نے ہو جا تو ہے آگ خلیل کے حق میں (ٹھنڈی اور سلامتی)

بِسْمِ اللّٰهِ كَلِمَةٌ الْبِعْتَصِبِيْنَ وَمَقَالَةٌ الْمُتَحَرِّزِيْنَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى

بطفیل نام مقدس اللہ کے جو کلمہ ہے چنگل مارنے والوں کا اور قول ہے پناہ و حفاظت حاصل کرنے والوں کا اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِيْنَ وَكَيْدِ الْحَاسِدِيْنَ وَبَغْيِ الظَّالِمِيْنَ وَاَحْمَدُ كَفُوْرًا

ظالموں کے جور سے اور حاسدین کے مکر سے اور اہل ظلم کی تعدی سے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں سب

حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيْكَ وَاَنْتَ الْبَدِيْءُ

حامدین کی حمد سے زیادہ۔ اے اللہ تو یکتا ہے بغیر کسی شریک کے ہے۔ اور تو ہی شاہنشاہ ہے (ذاتی طور پر)

بِلَا تَمْلِيْكَ لَا تَضَادُ فِى حَكْمِكَ وَلَا تَنَازَعُ فِى مُلْكِكَ اَسْئَلُكَ اَنْ

بغیر کسی کے بادشاہ بنائے۔ نہیں مخالفت کیا جاتا اپنے حکم میں اور نہ نزاع کیا جاتا ہے تو اپنے ملک میں۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ

تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَنْ تُؤْتِنِيْ عَيْنِ رَحْمَتِكَ

درود بھیجے اپنے عبد خاص اور رسول برحق محمد پر اور توفیق دے مجھے اپنی نعمتوں کے

نِعْمَاتِكَ مَا تَبْلَغُ فِى غَايَةِ رِضَاكَ وَاَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلَى طَاعَتِكَ

شکر کی جو پہنچے تیری حد رضا تک اور میری اعانت فرمائے اپنی طاعت پر

وَلِزُوْمِ عِبَادَتِكَ وَاَسْتَحِقُّ مَثُوْبَتَكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اور عبادت کی مداومت پر اور ثواب و جزاء کے استحقاق پر ساتھ اپنے لطف و عنایت کے

وَتَرْحَمَنِيْ وَتَقْصِدَنِيْ عَنْ مَعْصِيَتِكَ مَا اَجْرَكَ

اور مجھ پر رحم کرے اور روکے رکھے مجھے نافرمانیوں سے جب تک زندہ رکھے اور مجھے توفیق دے

لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَيْقَيْتَنِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحْطَبَ بَتْلَاوَتِهِ

نفع دینے والے امور کی جہتک مجھے باقی رکھے اور کھول دے اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ اور گراوے اس کی تلاوت کے ذریعے

وَزُرِّي وَتَمْنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي وَلَا تُوحِشْ بِي أَهْلَ

میرے بارگناہ کو اور عطا کرے مجھے سلامتی دین میں اور اپنی ذات میں اور نہ وحشت میں ڈالے میری وجہ سے میرے ساتھ

النَّاسِ وَتُتِمَّ أَحْسَانُكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا أَحْسَنْتَ فِيمَا

انس رکھنے والوں کو اور پورا کرے اپنے احسان کو میری بقیہ عمر میں جیسے کہ تو نے احسان فرمایا میری

مَضَى مِنْهُ يَا أَحْسَنَ الْأَحْسَنِينَ اللَّهُمَّ زِدْ نُورَنَا وَزِدْ سُرُورَنَا وَ

گزری عمر میں اے سب محسنوں سے زیادہ احسان کرنے والے۔ اے اللہ زیادہ فرما ہمارے نور کو۔ زیادہ فرما ہمارے سرور کو اور

زِدْ حُضُورَنَا وَزِدْ مَعْرِفَتَنَا وَزِدْ طَاعَتَنَا وَزِدْ نِعْمَتَنَا وَزِدْ هَجَّتَنَا

زیادہ فرما ہمارے حضور قلب کو اور زیادہ فرما ہماری معرفت کو اور زیادہ فرما ہماری طاعت کو اور زیادہ فرما ہماری نعمتوں کو اور زیادہ فرما ہماری

وَزِدْ عَشْقَنَا وَزِدْ ذُوقَنَا وَزِدْ شَوْقَنَا وَزِدْ عِلْمَنَا وَزِدْ عَمَلَنَا يَا

محبت اور زائد فرما ہمارا عشق اور زائد فرما ہمارا ذوق اور زائد فرما ہمارا شوق زائد فرما ہمارا علم۔ زائد فرما ہمارا عمل خیر اے

مَوْلَانَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَا سَائِدًا نَا

ہمارے مولا اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں بخش اور ہمارے اساتذہ کو

وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَشَائِرِنَا وَ لِأَصْحَابِنَا وَ لِأَحْبَابِنَا وَ لِأَجْبَاءِنَا وَ لِعَشَائِرِنَا

والدین اور مشائخ کو اور ہمارے اصحاب اور محبوبوں اور احباب کو اور ہماری قریبی برادری کو

وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِجَمِيعِ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

اور اہل قبیلہ کو اور جس کا بھی کسی طرح کا حق ہے ہم پر اور تمام امت محمد علیہ الصلوٰۃ

وَالسَّلَامُ وَ قِنَارِ بَنَانِ شَرِّ مَا قَضَيْتَ وَ قِنَاعِ أَبِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ الْحَشْرِ

والسلام کو بخش اور بچا ہمیں اے ہمارے پروردگار اپنی قضاء کے شر سے اور بچا ہمیں قبر کے عذاب اور حشر

وَالنَّشْرِ وَ احْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَ الْاَبْرَارِ اللَّهُمَّ اشْفِنِي وَقَوِّنِي وَ

دشتر کے عذاب اور ہمارا حشر متقین و محسنین کے ساتھ نہرانا۔ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما اور تقویت ہم پہنچا اور

اجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُرْفِ فِيمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

مجھے طویل زندگی والا بنا ان (طاعات و اعمال میں) جنہیں تو پسند فرماتے اور تیرا محبوب پسند فرماتے جن پر تو راضی ہوتا ہے اور وہ راضی

أَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ حَقِّ الْحَقِّ وَنُقْطَةِ

ہوتے ہیں آمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو مظہر ہیں حقِ خالص کے اور مرکزی نقطہ ہیں وجودِ خلاق کے

دَائِرَةِ اسْتِمْدَادٍ وَجُودِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دائرہ استمداد کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مَنْ تَبِعَتْ فِيهِ وَمِنْهُ أَسْرَارُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جس محبوب میں پھوٹے اور جن سے پھوٹے اسرارِ الہیہ (کے چشماے آبِ حیات) لا الہ الا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّصْدَرِ الْهُوَ فِي الْهُوَ لِلْهُوَ مِنَ الْهُوَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو جائے صدور و ظہور ہیں کلمہ ہو کی جو کہ اسی کی ذات میں ہے۔ اسی کے لیے اور اسی کی طرف سے ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے ذاتِ بحت۔ اے ذاتِ مطلق۔ ایک نہیں مگر وہی ذات ایک

لَا يَتَّوَدَى بِهِوًا إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْرِفُ بِهِوًا إِلَّا هُوَ يَا مَنْ

نہیں نداء کیا جا سکتا ساتھ ہو کے مگر وہی۔ ایک نہیں معروفاً ساتھ ہو کے مگر وہی ایک

هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ هُوَ هُوَ

وہی ذاتِ بحت ہے یا ہو یا ہو یا ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

اس نے جنم دیا اور نہ وہ جنا گیا اور نہیں اس کے لیے

كُفُوًا أَحَدًا

کوئی ہم پلہ اور مماثل و مشابہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله الذي فضل

كثيرين بان نعت القرآن بل
ايزو منان تحفة عجائب وهدية غرائب الى الله
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت سید محمد رسول اللہ
مُسَمَّيْ بِهِ

مَجْمُوعَةُ الرَّسُولِ

الجزء الثاني عشر ۱۲

فِي حَلِيهِ وَحَلِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْتَ نَبِيُّ جِبْرِائِيلَ وَمَخْلُوقُ الْمَلَائِكَةِ وَرَبُّكَ جِبْرِائِيلُ وَمَخْلُوقُ الْمَلَائِكَةِ

حَضْرَتِ خواجه خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحِلْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلْمِ بِسْمِ

اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم و بردباری کے طفیل اور بسم اللہ

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

الرحمن الرحیم کے علم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم اور پرچم کے طفیل سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِنَّا کَ نَعْبُدُ

جو سب جہانوں کا رب ہے۔ رحمت میں حد غایت کو پہنچا ہوا ہے بہت مہربان ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری

وَ اِنَّا کَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر کہ جن پر تو نے انعام

عَلِیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِن

فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک

اللّٰهُ لَعَلِیْمٌ حَلِیْمٌ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّهُ کَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا اَللّٰهُمَّ

اللہ تعالیٰ البتہ دائمی علم اور حلم والا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک وہ ہمیشہ سے صاحب حلم اور صاحب مغفرت ہے۔ اے

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ فِیْهِ حِلْمٌ عَظِیْمٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن میں عظیم علم اور بردباری ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اَنْتُمْ وَفَدَا عَبْدِ الْقَیْسِ وَمَا یَرِیْ اَحَدٌ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آچکا حالانکہ ان میں سے ابھی کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا

فَیْنَمَا نَحْنُ کَذٰلِکَ اِذْ جَاؤْ وَافْتَزَلُوْا فَاتُوْرَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

تھا۔ تو اسی دوران کہ ہم ابھی بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر تھے کہ وہ پہنچ گئے فوراً اپنی سواریوں سے اترے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے

عَلِیْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِیَ الْاَشْجُ الْعَصْرِیُّ فَجَاؤْ بَعْدُ فَنَزَلَ مِنْ اَفَانَخَ

صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشج عصری ابھی باقی رہ گیا تھا وہ بھی ان کے بعد پہنچ گیا پس وہ اپنی قیامگاہ پر اترے۔

رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سواری کو بٹھایا اور اپنے مستعمل کپڑوں کو ایک طرف رکھ کر اس نے نئے پنئے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ إِنَّ فِيمَكَ

کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیج تیرے اندر

لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالشُّوَدَّةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَشِيءُ

دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ بردباری اور آہستگی اور باوقار انداز۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ایسی شئی ہے

جَبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ حَدَّثَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جس پر میں پیدا کیا گیا ہوں یا بعد میں میرے اوپر طاری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ بَلْ شَيْءٌ جَبِلْتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

وسلم نے فرمایا بلکہ وہ ایسی شئی ہے کہ تو اسی پر پیدا کیا گیا ہے یعنی وہ تیرے نمبر میں داخل ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ مَنْ كَظَمَ غِيظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ

فرمایا جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا تمام

الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيْ حُورٍ شَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ لے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا۔ نہیں کوئی گھونٹ عظیم تر اجر والا اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کے گھونٹ سے جسے بندہ

مِنْ جُرْعَةٍ غِيظٍ كَظَمَهَا عِبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بنائے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا نہیں ہوتا فحش کسی شئی میں مگر اس کو عیب ناک کر دیتا ہے

وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور نہیں ہوتا حیا کسی شئی میں کبھی مگر اس کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مَحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بے حیائی

مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

جفا کاری کا بہت بڑا شعبہ ہے اور جفا کاری آتش دوزخ میں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي

فرمایا بیشک جو پالیا لوگوں نے پہلی نبوتوں کے کلام سے اسی سے یہ بھی ہے "جب تجھے حیا وامنگیر نہ ہو

فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

تو کر جو چاہے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

لَا شَيْخَ الْعَصْرِيِّ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجَلَمُ وَالْحَيَاءُ

اشیخ عصری کو بے شک تجھ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ بردباری اور شرم و حیا

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ

اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری شخص پر جبکہ وہ

يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ

اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

کیونکہ حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

لَبَّوْا مِنْ غَرِّكُمْ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَّيْمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ مومن سادہ لوح اور صاحب کرم ہے اور فاجر و منافق اعیار اور کینہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ نَحْرَمُ النَّارَ عَلَيْهِ

جنہوں نے فرمایا "کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کی جو آگ پر حرام کیا گیا ہے اور جس پر آتش دوزخ حرام کی گئی ہے۔

عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْبٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

اور ہر اس مومن شخص کے جو آہستہ و نرم خود ہر ایک سے قریب اور نرمی برتنے والا ہے" اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "جو

يُحَرِّمُ الرِّفْقَ يُحَرِّمُ الْخَيْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

رفق اور نرم مزاجی سے محروم کیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا۔

الشَّوَدَّاهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کہ آہستگی بہتر ہے ہر چیز میں مگر عمل آخرت میں۔ اور فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجُولَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرَوَى عَنْ

وسلم نے آہستگی اور باوقار انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور حضرت

عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَهْمُ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

سے سوال کیا اللہ سبحانہ کے اس قول کے متعلق انہیں کے لیے بشارت ہے دنیوی زندگی میں اور

الْآخِرَةِ قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آخرت میں تو آپ نے فرمایا یہ بشارت اچھے خواب ہیں جنہیں مرد مسلم دیکھتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمَبَشِّرَاتُ

محمد کریم پر جو فرماتے ہیں نبوت ختم ہو چکی اور صرف مبشرات اور سچے خواب باقی رہ گئے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "نیک مرد کا اچھا خواب

الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنْ النَّبُوَّةِ قَالَ

نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ مِنْ جُزْءٍ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا خواب ایک جزء ہے نبوت کے چھیالیس

مِنَ النَّبُوَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا

اجزاء میں سے اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا سچا خواب

الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِّنَ النَّبُوَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمَبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ نہیں باقی رہے نبوت میں سے مگر مبشرات صحابہ کرام نے عرض کیا وہ

الْمَبَشِّرَاتُ قَالَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى

مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ سچا خواب ہے مرد مسلم دیکھتا ہے (ذاتی صلاحیت) یا اسے دکھلایا جاتا ہے (قدرت

لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ

کامل سے) اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جب قریب ہو گا زمانہ (قیامت کا)

لَمْ يَكْذِبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَ

نہیں قریب کہ جھوٹا ہو مومن کا خواب اور مومن کا خواب ایک جز ہے نبوت کے چھ یا س

أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ

اجزاء میں سے اور جو نبوت کے اثرات و برکات سے ہو گا وہ یقیناً جھوٹا نہیں ہو گا

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ الرَّؤْيَا ثَلَاثُ حَدِيثِ النَّفْسِ

اور فرمایا محمد بن سیرین نے اور میں کہتا ہوں کہ خواب تین قسم کے ہیں حدیث نفس

وَتَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ

اور شیطانی ڈراوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت تو جو شخص دیکھے ایسی چیز جسے وہ ناپسند رکھتا ہے

فَلَا يَقْضُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلِيَقْمُ فَلْيَصِلْ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي

تو وہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھ کھڑا ہو پس نماز پڑھے اور فرمایا کہ وہ خواب میں طوق پہنائے جانے کو ناپسند کرتے

النَّوْمِ وَيَعْجَبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہیں اور بیڑیاں پہنایا جانا انہیں بھلا معلوم ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیاں پہنایا جانا دین پر ثبات (علامت) ہے اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهَا يَرَى النَّاسُ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا میں نے ایک رات دیکھا خواب میں جیسے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں

كَانَ فِي دَارِ عُقَيْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَتَيْنَا بِرُطِيبٍ مِّنْ رُّطِيبِ ابْنِ طَابِطٍ

گویا کہ ہم عقیبہ بن رافع کے مکان میں ہیں تو ہمارے پاس ابن طاب کے باغ والی تازہ کھجوریں لائی گئی ہیں

فَأَوْلَتْ أَنَّ الرَّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ رُطِيبَنَا

تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں برتری ہمارے ہی لیے ہے اور حسن عاقبت آخرت میں اور ہمارا دین

قَدْ طَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ

طیب و پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا

أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبٌ وَهَلِي إِلَى النَّهْجِ

کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے اس زمین کی طرف جس میں بکثرت کھجوریں ہیں تو میرا وہم اس طرف گیا کہ دار ہجرت

الْيَمَامَةُ أَوْ هَجْرًا فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُنِي فِي رُؤْيَايَ إِلَى

یمامہ یا ہجر ہے تو واقعہ میں وہ مدینہ یثرب تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے

هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبُ مِنَ الرُّومِ مَنِينٌ

تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا تو اس کی تعبیر تھی وہ نصیبت جو مومنین کو

يَوْمَ أَحَدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ وَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ كَالسَّيْفِ

احد کے دن پہنچی۔ پھر میں نے خواب میں ہی اس کو دوبارہ جھٹکا دیا تو وہ پہلے سے ہی اچھی حالت میں ہو گئی تو اس کی

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

تعبیر وہ فتح اور باہمی الفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مومنین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُنِي بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا فِي

جنہوں نے فرمایا اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا مجھے دئے گئے زمین کے تمام خزانے اور رکھے گئے میری ہتھیلی میں

سَوَارِيزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَ عَلَيَّ فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ أَنْفُخَهُمَا مَاءٌ كَرِيمٌ

سونے کے دو کنگن تو وہ دونوں مجھ پر گراں گزرے پس مجھے وحی کی گئی کہ انہیں پھونک مارو میں نے پھونک مارا

فَذَهَبَا فَأَوْلَتْ لَتَهُمَا الْكَذَّ ابْنِ الدُّنْيَا أَنَا بَيْنَهُمَا كَالرُّبْعِ

تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر یہ کی یہ دو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جن کے درمیان میں موجود ہوں ایک صاحب صنعا اور

صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مَسِيلَةُ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ

دوسرا صاحب یمامہ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک کو مسیلہ صاحب یمامہ کہا جاتا ہے

وَالْعَنَسِيُّ صَاحِبُ الصَّنْعَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اور دوسرا اسود عنسی صاحب صنعاء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

أَعْنِي لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ

یعنی اپنے صحابہ کرام کو آیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا لیکن میں نے

الليلة رجلين أتيا نني فأخذ ابديتي فأخرجاني إلى أرضٍ قدَّسَةٍ

آج رات خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے پس انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مجھے پاکیزہ زمین

فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُبِيدُهُ كَلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ

کی طرف لے گئے۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ٹیڑھے سروالی چھڑی ہے جسے اس کی

فِي شِدْقِهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاةً ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ

ایک باجھ میں ڈال کر اسے گدی تک پھاڑ دیتا ہے۔ پھر دوسری باجھ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے

ذَلِكَ وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ

اتنے میں اس کی پہلی باجھ مندل ہو جاتی ہے۔ پس وہ مڑ کر اس کے ساتھ حسب سابق عمل کرتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے

إِنْطَلِقُ فَأَنْطَلِقُنَا حَتَّى أَتِينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاةٍ وَرَجُلٍ

ان دونوں نے کہا آگے چلئے ہم چل پڑے حتیٰ کہ اس آدمی پر پہنچے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص

قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يُشْلَخُ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَاهَا

اس کے سر پر مٹھی میں گول پتھر لیے کھڑا تھا جس سے اس کا سر بھوڑتا تھا۔ جب اس کو مارتا تو پتھر دوسری

الْحَجَرِ فَأَنْطَلِقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ

جانب لڑھک جاتا تو وہ ادھر چلتا تاکہ اس کو پکڑے ابھی واپس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا سر درست ہو جاتا تھا

فَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ أَنْطَلِقُ

اور پہلے کی مانند ہو جاتا تو وہ واپس آکر پھر اسے مارتا میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلئے

فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ آتَيْنَا إِلَىٰ ثَقِيبٍ مِّثْلِ الثُّمُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ

پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک سورخ پر آئے جو ثمور کی مانند تھا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچلا حصہ

وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ اِرْتَفَعُوا حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا

بست کشادہ تھا جس کے نیچے جھتے میں آگ دکھ رہی تھی جب وہ بلند ہوتی تو جو اس میں تھے وہ بھی اوپر اٹھ آتے

مِنْهَا وَإِذَا خِمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَاةٌ فَقُلْتُ مَا

یہاں تک کہ گویا نکلنے کو ہیں اور جب وہ شعلہ کچھ جاتا تو وہ نیچے چلے جاتے اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں تو میں نے کہا

هَذَا قَالَ اِنْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ آتَيْنَا عَلَىٰ نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رِجَالٌ

یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلئے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جس میں خون جاری تھا اس کے وسط میں

قَائِمٌ عَلَىٰ وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَابَةٌ

ایک شخص کھڑا تھا اور کنارے پر دوسرا شخص جس کے آگے پتھر پڑے تھے

فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ حِجَابَهُ

پس جب متوجہ ہوتا اندر والا شخص کنارے کی طرف باہر نکلنے کے ارادہ پر تو مار دیتا کنارے والا شخص اس پتھر کو

فِي فُيُوهِ فَرَدَّهُ لَا حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّهَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فُيُوهِ بِحِجَابِهِ

اس کے منہ میں پس اس کو سابقہ جگہ پر دھکیل دیتا۔ پس یہی اس نے وپیرہ بنا لیا کہ جب بھی وہ نکلنے لگتا یہ اس کے منہ میں

فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ اِنْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِنْتَهَيْنَا

پتھر مارتا تو وہ سابقہ جگہ پر پہنچ جاتا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے۔ ان دونوں نے کہا آگے چلئے چنانچہ ہم چلے حتیٰ کہ پہنچے

إِلَىٰ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْبٌ وَصَبَانٌ

ایک سرسبز و شاداب سبزہ زار میں جس میں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے تنہ کے ساتھ ایک بزرگ اور کچھ بچے

وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ تَتَوَقَّدُ مَا وَصَلْنَا

موجود تھے اور اس درخت کے قریب ہی دوسرا شخص موجود تھا جس کے سامنے آگ ہے جسے وہ بھڑکار رہا تھا اور وہ مجھے لیکر

بِالشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَنِي دَارًا وَسَطَ الشَّجَرَةِ لَوْ أَنَّكَ لَرَأَيْتَ مَا فِيهَا

چڑھے درخت پر اور اس کے درمیان میں موجود ایک مکان میں داخل کیا اس طرح کا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا

فِيهَا شِيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بَنِي

اس میں بڑے اور جوان۔ عورتیں اور بچے موجود تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے اس سے نکالا اور مجھے درخت پر

الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شِيُوخٌ وَ

لے چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو پہلے سے بھی خوبصورت ترین اور افضل تھا اس میں بڑھے اور

شَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَا نِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا

جوان تھے تو میں نے ان دونوں سے کہا تم نے آج ساری رات پھر ایسا تو مجھے خبر دیکھنے ہر اس شبی سے جو

رَأَيْتُمْ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ

میں نے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ لیکن وہ شخص جسے تم نے دیکھا کہ اس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں تو وہ کذاب تھا

يُحَدِّثُ بِالْكَذِبِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَاتَرِي

جھوٹ بیان کرتا پھر اس سے اس کو نقل کیا جاتا حتیٰ کہ سب آفاق میں پہنچ جاتا تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا رہے گا تو تم نے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدُّ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَيْهِ اللَّهُ

دیکھتا قیام قیامت اور وہ جس کا سر پھوڑتے آپ نے دیکھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تشران کا

الْقُرْآنَ فَتَنَامُ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يَفْعَلُ بِهِ

علم بخشا مگر وہ اس سے رات کو سویا رہتا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سلوک

مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَ

جو آپ نے دیکھا قیامت تک جاری رہے گا اور جنہیں آپ نے بڑے سوراخ میں دیکھا تو وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں

الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكُلُ الرَّبِيِّ وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ

جسے آپ نے خون کی نہریں دیکھا تو وہ سود خوار تھا اور وہ بزرگ جسے آپ نے درخت کے نیچے دیکھا

إِبْرَاهِيمَ وَالصَّبِيَّانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَا لَكَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے تھے۔ اور آگ بھڑکانے والا شخص مالک

خَازِنُ النَّارِ وَالذَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا

تھا جو دروزخ کا نگران ہے۔ اور پہلا مکان جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کی جنت تھی لیکن

تھا جو دروزخ کا نگران ہے۔ اور پہلا مکان جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کی جنت تھی لیکن

هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرَائِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَأَرْفَعُ

دوسرا مکان دار الشہداء تھا اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ تو آپ اپنا سر بلند

رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ قَتْلُ

کری جب میں نے سر کو اُپر اٹھایا تو ناگاہ میرے اُپر بادل کی مانند ایک چیز تھی اور ایک روایت میں ہے

الرِّيَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا ذَاكَ مَنَزِلُكَ قُلْتَ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنَزِلِي

کہ سفید پتلے بادل کی مانند۔ انہوں نے کہا وہ بلند مرتبت منزل آپ کی ہے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں اپنی منزل

قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عَمْرُؤٌ تَسْتَكْبِلُهُ فَإِذَا اسْتَكْبَلْتَهُ أَتَيْتَ

میں داخل ہو جاؤں انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جس کی تکمیل آپ نے نہیں کی جب اس کو مکمل کر چکے تو اپنی اس

مَنَزِلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ

منزل میں آ جاؤ گے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور

فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ ضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى

اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر کاٹا جا چکا ہے تو آپ ہنس پڑے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا الْعَبَّ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا

اور فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان کھیلے اس کی نیند میں تو وہ اسے لوگوں کے سامنے

يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا

بیان نہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَنَامًا

سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹا خواب شیطان کی طرف سے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب

يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ

دیکھے جسے پسند کرتا ہے تو اسے صرف اپنے محبوب لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور نا پسندیدہ امر دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب

مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفَلَّحْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا

کرے اس کے شر سے اور شر شیطان سے اور تین مرتبہ بچو کے اور کس کو بیان نہ کرے

قَاتِهَانُ تَضَرَّ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا رَأَى

وہ اسے ہرگز ضرر نہیں دے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی

أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا فليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيُسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

خواب دیکھے جسے ناپسند کرتا ہو تو بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ کی

الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى

شیطان سے تین مرتبہ اور بدل جائے اس پہلو سے کہ جس پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهْوِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا خواب تین قسم پر ہیں۔ بعض شیطان کی طرف سے جو ہول و دہشت کے موجب ہوتے

لِيُحْزِنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ

ہیں تاکہ ابن آدم کو غمزدہ کرے اور بعض وہ ہیں جس چیز کا آدمی بیداری میں ارادہ کرتا ہے پس اسی کو

فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ قَالَ

نیند میں دیکھتا ہے اور بعض وہ ہیں جو نبوت کے چھبالیس اجزاء میں سے ایک جز ہوتے ہیں راوی کہتا ہے

قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

میں نے حضرت عوف بن مالک سے کہا کیا واقعی تم نے سنا اس کو رسول خدا صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ

وسلم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا جب دیکھے تم سے کوئی

رُؤْيَا فليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْئَلِ اللَّهَ

ناپسندیدہ خواب تو پہلو بدل لے اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے

مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی خیر کا اور پناہ طلب کرے اس کے شر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي

كُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَاهِدَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِلَى أَحَدِكُمْ فِيهِوَلَهُ ثُمَّ يَعْدُو وَيُخْبِرُ النَّاسَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا

يَرَى النَّاسَ كَانَ عُنُقِي ضَرْبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ

فَأَعْدْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ الشَّيْطَانُ

بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرُ النَّاسَ يَتَلَقَّبُ الشَّيْطَانُ

بِهِ فِي الْمَنَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ الرَّؤْيَا عَلَى

رَجُلٍ طَائِرٌ مَالٌ تَعَبَّرُ فَإِذَا عُدَّتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنَ النَّوْمِ

پرنندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو اس کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے اور فرمایا کہ خواب

سونے والے دیکھتے ہیں گویا کہ میری گردن مار دی گئی ہے اور میرا سر گر پڑا ہے میں نے اس کے پیچھے جا کر اس کو پکڑ لیا

تلا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جبکہ

آپ خطبہ دے رہے تھے پس عرض کی یا رسول اللہ میں نے گزشتہ رات دیکھا جیسے کہ

اور دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ

کھیلے اس کی نیند میں تو وہ ہرگز اسے لوگوں کو نہ بتلائے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا

محمد پر جنہوں نے فرمایا جب کسی کو بیہودہ خواب آئے تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے شیطان اس کے ساتھ حالت نیند میں

مذاج کرتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو فرماتے ہیں کہ خواب

سِتَّةٌ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٍ مِّنَ النَّبُوَّةِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقْضُهَا إِلَّا

ایک جزبے نبوت کے چھیالیس اجزائیں سے۔ راوی کہتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ فرمایا اسے نہ بیان کرے مگر

عَلَىٰ وَإِذْ أَوْذَىٰ رَأَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اُعْتَبِرُوا هَا

اہل مودت پر یا عقلمند پر۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا تعبیر کرو انہیں

بِأَسْمَائِهَا وَكُتُوبِهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا وَرَأَىٰ عَابِدُ اللَّهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان کے اسماء کے ساتھ اور کنیتوں کے ساتھ نامزد کرو اور خواب پہلے تعبیر دینے والے کے مطابق ہوتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت

مُحَمَّدٍ الَّذِي آتَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْصَرَفَهُ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص احد سے واپسی کے وقت پس عرض کیا رسول اللہ

إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ سُبْنَا وَعَسَلًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ

میں نے خواب میں ایک چھوٹی سی بدلی دیچی جس سے ٹپک رہا ہے گھی اور شہد اور لوگوں کو دیکھا کہ

يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْفَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبِيًّا وَاصِلًا إِلَىٰ

وہ ہتھیلیوں پر لیتے ہیں اس سے بعض بہت زیادہ اور بعض کم اور دیکھا میں نے ایک رے کو جو آسمان تک

السَّمَاءِ رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ

پہنچا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ کے بعد دوسرے شخص بھی اس کو پکڑ کر چڑھ گئے

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَأَنْقَطِعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ

پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گیا پھر اس کو جوڑا گیا اس کے لیے تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے عرض

أَبُو بَكْرٍ دَعَانِي أَعْبَرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِبْرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ

کیا مجھے اجازت دیجئے یا رسول کہ میں اس کی تعبیر کروں آپ نے فرمایا تعبیر کرو تو انہوں نے فرمایا چھتری

فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ فَهُوَ الْقُرْآنُ

اسلام ہے اور جو اس سے ٹپک رہا ہے یعنی شہد اور گھی تو وہ قرآن مجید

حَلَاوَتُهُ وَرَيْبُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالَّذِي أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ

اور اس کی حلاوت اور لطافت ہے اور وہ جو لوگ اس سے ہتھیلیوں پر لیتے ہیں کچھ زیادہ کچھ کم تو وہ قرآن سے حاصل کرنے والے

كثيراً و قليلاً و أما السبب الواصل إلى السماء فما أنيت عليك من

ہیں زیادہ اور تھوڑا۔ لیکن وہ رساجو آسمان تک پہنچا ہوا ہے تو وہ دین کی حقانیت ہے جس پر آپ پر قائم ہو

الحق أخذت به فعلا بك ثم يأخذك رجل من بعدك فيعالبك

آپ نے اس کو اپنایا اور وہ آپ کو بندوں پر لے گیا پھر آپ کے بعد دوسرا شخص اس کا زمرہ دار ہوگا تو یہ دین اس کو بھی بندوں پر فائز

ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به قال أصبت بعضاً

کرے گا۔ پھر اور شخص جس کے ساتھ وہ منقطع ہوگا پھر اس کو متصل کیا جائے گا پس بند ہوگا۔ اپنے فرمایا بعض میں درست کہا اور بعض میں

أخطأت بعضاً قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني

خطا کی ہے ابو بکر نے عرض کیا میں قسم دے کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ مجھے ضرور بتلاؤ

بالذي أصبت من الذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه

جس میں میں نے صواب کو پایا اور جہاں خطا سرزد ہوئی تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر قسمیں نہ دو۔ صلی اللہ علیہ و

سلم لا تقسم يا أبا بكر اللهم صل على سيدنا محمد الذي

و آلہ و صحبہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ حضرت عبداللہ

عمر قال كنت غلاماً شاباً عزيباً في عهد رسول الله صلى الله

بن عمر نے فرمایا کہ میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم فكنت أبيت في المسجد فكان من رأي منارويكاً بعضاً

میں۔ اور میں مسجد شریف میں ہی رات گزارتا تھا تو ہم میں سے جو بھی خواب دیکھتا وہ اے

على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم إن كان لي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا میں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا اے اللہ اگر میرے لیے تیرے

خبر فارني روياً يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم

ہاں کوئی خبر ہے تو مجھے ایسا خواب دکھلا جس کی تعبیر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں چنانچہ میں سویا

فرايت ملكين اتيانني فانطلقا بي فلقبها ملكاً

اور دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آکر مجھے لے گئے راہ میں ان کو ایک اور فرشتہ ملا تو اس نے کہا تو خوف نہ کھا

فَانْطَلَقَ بِنِيَّ إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبَيْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ

ترجمے آتش ووزخ کی طرف لے جایا گیا ناگاہ وہ کوئیں کی مانند گولی تھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں لوگ ہیں

عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ

جن میں سے بعض میرے جانے پہچانے تھے تو وہ ملا کر مجھے دائیں جانب لے گئے جب صبح ہوئی تو میں نے یہ صورت ان سے

ذَلِكَ لِحَفْصَةٍ فَرَعَمْتُ حَفْصَةَ أَتَاهَا قَصَّةُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْتَبُ الصَّلَاةُ مِنْ

وسلم پر پیش کیا تو آپ نے فرمایا بے شک عبد اللہ نیک آدمی ہے۔ اگر ہر رات بکثرت نوافل ادا کرتا تو اس

اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْتَبُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَنْ خُرَشَةَ

کے درجات مزید بلند ہوتے) راوی نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بعد ازاں رات کو بکثرت نوافل ادا کرتے تھے اور خورشہ سے مروی ہے

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى مَشِيخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مسجد شریف میں مسجد رسول صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَاهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ

علیہ وسلم میں مشائخ کے پاس بیٹھا اسی دوران ایک بزرگ عصا کا سہارا لیے تشریف لائے تھے لوگوں نے کہا جس کو یہ بات

يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ

اچھی لگے کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے وہ بزرگ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا

پس دو رکعت ادا کیں میں اٹھ کر ان کی طرف گیا اور ان سے کہا لوگوں نے آپ کے متعلق ایسی ایسی بات کی ہے

قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يَدُ خَلْفًا مِّنْ يَشَاءُ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ

تو انہوں نے کہا الحمد للہ جنت اللہ تو الٰہی کے ملک میں ہے اس میں جسے چاہے گا داخل فرمائے گا اور میں نے زمانہ رسول

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُ أَنَّ رَجُلًا اتَّانِي فَقَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا پس اس نے کہا

لِي أَنْطَلِقَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بَنِي فِي مَنْهَبٍ عَظِيمٍ فَعَرَضْتُ عَلَى

چلنے میں اس کے ساتھ چل پڑا تو وہ مجھے بہت بڑی کشادہ راہ پر لے چلا اس دوران مجھ پر ایک راستہ

طَرِيقٌ عَنْ يَسَارِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا

بائیں جانب سے پیش کیا گیا میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا یقیناً تو اس راہ والوں سے نہیں ہے

ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَى طَرِيقٍ عَنْ يَمِينِي فَسَلَكَتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى

پھر مجھ پر دائیں جانب سے ایک راہ پیش کی گئی تو میں اس پر چل پڑا حتیٰ کہ جب میں ایک صاف اور ملام

جَبَلٍ زَلِقٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَّلَ بَنِي حَتَّى أَخَذَتْ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ

پتھروں والے پہاڑ تک پہنچ گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے زور سے اُوپر دھکیلا حتیٰ کہ میں نے اُوپر لے کئے اور حلقے کو

اسْتَمْسِكُ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرَجُلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ

پکڑ لیا تو اس نے کہا کیا تو اسے پکڑے رہے گا تو میں نے کہا ہاں تو اس نے ستون پر اپنا پاؤں مارا تو میں اس حلقے سے چٹا رہا

فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ خَيْرًا

انہوں نے کہا پس میں نے وہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا آپ نے فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا

أَمَّا الْمَنْهَبُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضْتُ عَنْ

وہ کشادہ راستہ میدان محشر ہے۔ اور وہ راستہ جو تیری بائیں جانب

يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي

پیش آیا تو وہ اہل نار کا راستہ ہے اور تو ان سے نہیں ہے۔ لیکن وہ راستہ جو

عَرَضْتُ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلِقُ

دائیں جانب نمودار ہوا تو وہ اہل جنت کا راستہ ہے لیکن پھسلن والا پہاڑ

فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتُ بِهَا فَفَرْسُ الْمَلَكِ

پس وہ شہداء کی قیامگاہ ہے۔ لیکن وہ حلقہ جس کو تو نے مضبوطی سے تھاما تو وہ اسلام کا حلقہ ہے

فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَإِنَّا أَرْجُو أَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھتی کہ تجھے اسی حالت یرموت آئے پس میں امید رکھتا ہوں کہ تو اہل جنت سے ہو گا



فَاذْهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ ابْنُ

پھر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ حضرت ابن

حَزِيمَةَ أَنَّهُ يَرَى فِيهَا يَرَى النَّائِمَةَ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى

حزیمہ نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جبین نبی صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِّقُ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ

علیہ وسلم پر سجدہ کیا ہے (جب یہ خواب) انہوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ لیٹ گئے اور فرمایا ایسے خواب کو بجا کر لہجہ انہوں

عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ

نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ

ورقہ بن نوفل کے متعلق تو آپ سے حضرت خدیجہ نے عرض کیا اس نے

قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

آپ کی تصدیق کی تھی۔ لیکن آپ کی نبوت کے ظہور سے قبل ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُرِيَتْهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب میں مجھے دکھلایا گیا جبکہ اس کے کپڑے سفید تھے اور اگر وہ

أَهْلُ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اہل نارسے ہوتا تو اس کا لباس اس سے مختلف ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ ابْنُ

سب سے زیادہ سچے خواب اوقات سحر والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا

أَفْرَى الْقَرَى أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرِيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بڑے افرات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو دکھلائے جو انہوں نے نہیں دیکھا یعنی جھوٹے خواب بیان کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كَلَّفَ أَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اسے مکلف ٹھہرایا جائے گا

يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذِّبُ عَلَى ذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا

جو کے دو دانوں میں گانٹھ دینے کا اور عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان اشیاء کی

خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ

مقدار جو آسمانوں میں پیدا کیں اور تسبیح ہے اللہ کے لیے ان کی مقدار جو زمین میں پیدا کیں اور تسبیح ہے

اللَّهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

اللہ کے لیے بمقدار ان اشیاء کی جو ان کے درمیان ہیں اور تسبیح ہے اللہ کیلئے ان کی مقدار جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ بخش

لِي ذُنُوبِي كُلَّهُ مِنَ الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَأَخْرَجَهُ وَ

مے میرے تمام گناہ کبار اور صغائر، چھوٹے اور بڑے اول اور آخر

عَلَانِيَةً وَسِرَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَافِيَتِكَ

علانیہ اور خفیہ۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری رضا کے طفیل تیری ناراضگی سے اور تیری عفو کے طفیل

مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

تیری عقوبت سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کے طفیل تجھ سے۔ میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثناء کا۔ تو اسی ثناء

أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَسَعِّرْ لِي خُلُقِي وَطَبِّ لِي

کے لائق ہے جو خود اپنی ذات پر کی ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخش اور میرے اخلاق وسیع بنا اور میری کمائی کو پاکیزہ بنا

كَسْبِي وَقِطْعِي بِمَارِزِقَتِي وَلَا تَذْهَبْ إِلَيَّ سِيئِي صَرَّفْتَهُ عَنِّي وَأَعْطِنِي

اور مجھے قانع بنا اس کے ساتھ جو عطا کیا اور نہ جا طرف میری اس برائی کے جسے تو نے مجھ سے پھیر دیا اور مجھے کامیابی کا ضامن

عَلِمًا نَجِيحًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ اللَّهُمَّ قِنِّعِي بِمَارِزِقَتِي وَبَارِكْ لِي

علم عطا کر اور ایسی تجارت جو کبھی برباد نہ ہو۔ اے اللہ مجھے قانع بنا اپنے عطا کردہ رزق پر اور نگران بن اور

وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضْرِحِينَ يَا مُنْتَهَى

ہر اس چیز کے جو مجھ سے غائب ہے ساتھ خیر کے اے فریادوں کی جائے فریاد اور لوٹنے

الْعَائِدِينَ يَا مُفْرِجَ الْهَكْرُوبِينَ يَا مُفْرِجَ الْهَكْرُوبِينَ

والوں کا مرجع اور غمزدگان کے غم گسار اور غمگینوں کو فرحت بخشنے والے

مَنْزُولٌ لَدَيْكَ بِكُلِّ حَاجَةٍ أَلْهَمَرَانِي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَتْ إِلَيْكَ مِنْهُ

تیری بارگاہ ہی محل نزول ہے ہر حاجت مند کی حاجت کیلئے۔ اے اللہ میں معفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس سے میں

وَعَدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَعْرَضْتُكَ مِنْ سُوءِ نَفْسِي فَلَمْ أَتُبْ

نے توبہ کی اور پھر اس کی طرف لوٹا اور استغفار کرتا ہوں اس گناہ سے جس میں میں نے تجھ سے روگردانی کی اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے پس میں نے

إِلَيْكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ

تیری طرف توبہ نہ کی اور استغفار کرتا ہوں تجھ سے ان نعمتوں کی وجہ سے جن کے ساتھ میں نے تقویت حاصل کی تیری معصیت پر اور استغفار

لِكُلِّ خَيْرٍ آرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا

کرتا ہوں ہر خیر کے لیے جس میں تیری رضا کا ارادہ کیا پس اس میں شامل ہو گیا جو نہیں تھا تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ

تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اللَّهُمَّ اسْتَجِيرُكَ

مجھے سوانہ فرمانا کیونکہ میرے متعلق علم رکھتا ہے۔ اور مجھے عذاب نہ دینا کیونکہ تو مجھ پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَأَجْعَلُ لِي وَلِجَنَّةٍ وَ

کرتا ہوں تیری ہر پردہ شئی سے اور حفاظت حاصل کرتا ہوں تیری ان کے شر سے اور بنا میرے لیے حقیقی دوستی

زُلْفَى وَحُسْنِ مَآبٍ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيدَكَ وَ

قرب منزلت اور اچھا انجام اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں تیرے حضور قیام سے اور تیری وعید سے اور

يَرْجُو لِقَاءَكَ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً نُّصُوحًا وَصَلَّى

امید رکھتے ہیں تیری ملاقات کی اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو تیری بارگاہ میں خالص توبہ کرتے ہیں اور رحمت کاملہ

اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا

نازل فرماوے اللہ تعالیٰ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام نازل فرمائے۔ اے میرے الہ اپنے نبی اکرم سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ

محمد کی عزت و مرتبت کے طفیل اور تیری ان سے جو محبت ہے اور انہیں

وَمَحَبَّتِهِ لَكَ وَبِالسِّرِّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَسَلِّمْ

جو تجھ سے محبت ہے اس کے تصدق میں اور جو اسرار تیرے اور ان کے درمیان ہیں ان کے طفیل میں سوال کرتا ہوں کہ صلوٰۃ و سلام نازل کرے

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمَّ مَحَبَّتَهُ فِيَّ وَعَرَفْتَنِي بِحُبِّهِ

ان پر اور ان کی آل اور اصحاب پر اور کئی گنا بڑھائے ان کی محبت اور مجھے ان کے حق اور مراتب کی معرفت عطا کر

وَرْتَبِهِ وَوَقَّفْتَنِي لِاتِّبَاعِهِ وَالْقِيَامِ بِأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ وَاجْمَعْنِي عَلَيْهِ

اور ان کی اتباع اور آداب و احترام اور سنت کو قائم کرنے کی توفیق بخش۔ مجھے ان کے ساتھ رکھنا ان کے

وَمَتَّعْنِي بِرُؤْيَيْتِهِ وَأَسْعِدْنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَارْفَعْ عَنِّي الْعَوَائِقَ وَالْعَلَائِقَ

ویدار سے نفع اندوز کرنا اور ان کی ہمکلامی سے بہرہ ور کرنا اور دور فرمانا مجھ سے رکاوٹوں اور اسباب

وَالْوَسَائِطَ وَالْحِجَابَ وَشَيْفَ سَبْعِي مَعَهُ بِلَذِيذِ الْخِطَابِ وَهَيِّئْ لِي

وسائط اور حجابات کو اور مزین فرمانا میرے کانوں کو ان کے لذیذ خطاب کے سننے سے اور مجھے آمادہ فرما

لِلتَّلَقِّي مِنْهُ وَأَهْدِنِي لِخِدْمَتِهِ وَاجْعَلْ صَلَوَاتِي عَلَيْهِ نُورًا تَبْرَأُ كَامِلًا

ان سے اکتساب فیض کے لیے اور ان کی خدمت کا اہل بنا اور میرے درودوں کو بناوے (میرے حق میں) نورانی نیر کامل

مُكْمَلًا طَاهِرًا مُطَهَّرًا مِمَّا حِيَائًا لِكُلِّ ظُلْمٍ وَظُلْمَةٍ وَشِكِّ وَشُرْكَ وَكُفْرٍ وَرَدِّ

و مکمل۔ طاہر و مطہر محو کرنے والے ہر ظلم اور ظلمت اور شک و شرک اور کفر و کذب و کفر و کفر کے لیے

وَاجْعَلْهَا سَبَبًا لِلتَّهَجُّبِ وَمُرْتَقَى لِنَائِلِ بِهَا أَعْلَىٰ مَقَامِ الْإِخْلَاصِ

اور بنا انہیں سبب میری تہجیب کا اور ذریعہ ارتقاء کا تاکہ حاصل کر سکوں ان کی بدولت اعلیٰ مقام اخلاص و

والتَّخْصِيصِ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ فِي رَهْبَانِيَّةٍ لِّغَيْرِكَ وَحَتَّىٰ أَصْلَحَ

تخصیص کا حتیٰ کہ نہ رہے مجھ میں ذرہ بھر خوف ماسوا کا اور میں تیری بارگاہ کے

لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِكَ مُسْتَسْكِنًا بِأَدَبِكَ

لائق ہو جاؤں اور تیرے اہل خصوصیت سے تمسک کرتے ہوئے آپ کے آداب اور

سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِدًّا مِنْ حَضْرَتِهِ الْعَالِيَةِ

سنت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم استمداد کرتے ہوئے ان کی بارگاہ عالیہ سے

كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَحَبِّدٍ وَصَلِّ عَلَىٰ زَيْنِ

ہر وقت اور ہر لحظہ۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد کی ٹھنڈک پر اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد کی تسکین و طمانیت

وَصَلِّ عَلَى حَصْحَصَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَصَانَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى

پر صلوات بھیج سیدنا محمد کے ظہور حق پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی مضبوطی و ثابنت قدمی پر۔ صلوات بھیج سیدنا

حَصَّةَ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَافِرَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَافَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ

محمد کے حصّہ پر۔ صلوات بھیج سیدنا محمد کی ابتدائی حالت پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے ہر پہلو اور جانب پر۔ صلوات بھیج

عَلَى حَيَاةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حِرَاسَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حُلَّةِ

سیدنا محمد کی حیات پر۔ صلوات بھیج سیدنا محمد کی حراست پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے حلے

مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حُلِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حِكْمَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ

پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے حلیہ پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی حکمت پر اور صلوات بھیج

عَلَى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى حِلْمِهِ وَصَلِّ عَلَى خُلُقِهِ وَصَلِّ عَلَى شَرَفِهِ وَ

سیدنا محمد کے علم پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے حلم پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے خلق پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے شرف

صَلِّ عَلَى شَرَافَتِهِ وَصَلِّ عَلَى فُخْرِ الْأَنْبِيَاءِ ذَمَامًا وَأَسْنَى الْأَنْبِيَاءِ

پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی شرافت پر اور صلوات بھیج اوپر فخر انبیاء کے از روئے ذمہ داریوں کے اور تمام انبیاء سے برتر

مَقَامًا وَأَثْبَتِ الْأَنْبِيَاءِ بُرْهَانًا وَأُظْهِرِ الْأَنْبِيَاءِ سُلْطَانًا وَأَجْمِلِ

مقام والے پر اور سب انبیاء سے ثبوت میں بلند پایہ برہان والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ ظاہر تسلط والے پر اور سب انبیاء

الْأَنْبِيَاءِ عَهْدًا وَأَصْدَقِ الْأَنْبِيَاءِ وَعْدًا وَالْطِّفِ الْأَنْبِيَاءِ نِقَابًا وَ

بمیل ترین عہد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ سچے وعدہ والے پر اور سب سے زیادہ لطیف نقاب والے پر اور

أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ أَصْحَابًا وَأَقْوَى الْأَنْبِيَاءِ حُسَامًا وَأَزْكَى الْأَنْبِيَاءِ

سب انبیاء سے افضل اصحاب والے پر اور سب انبیاء سے قوی تلوار والے پر اور سب انبیاء سے پاکیزہ تر

سَلَامًا وَالْهَيْجِ الْأَنْبِيَاءِ سَبِيلًا وَأَرْجِحِ الْأَنْبِيَاءِ مِيزَانًا وَأَنْجِحِ الْأَنْبِيَاءِ

سلام والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ بارونق راستے والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ وزنی میزان والے پر اور سب انبیاء

إِيمَانًا وَكَثْرِ الْأَنْبِيَاءِ رِفْدًا وَأَوْفِدْ الْأَنْبِيَاءِ لِسَانًا وَأَوْفِرْ

سے زیادہ کامیاب ایمان والے پر اور سب انبیاء سے زائد عطیات اور وفد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ فصیح زبان والے پر اور سب سے زیادہ وافر

الْأَنْبِيَاءِ إِحْسَانًا وَأَفْقَهُ الْأَنْبِيَاءِ عِلْمًا وَأَعْظَمَ الْأَنْبِيَاءِ حِكْمًا

احسان والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ فقاہت و علم والے پر اور سب انبیاء سے عظیم تر علم والے پر اور سب انبیاء سے

الْأَنْبِيَاءِ قَدْرًا وَأَعَزَّ الْأَنْبِيَاءِ يُسْرًا وَأَطْهَرَ الْأَنْبِيَاءِ فِرْعًا وَأَطْهَرَ الْأَنْبِيَاءِ

اعلیٰ قدر والے پر اور سب انبیاء سے عزیز تر سہولت والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ پاکیزہ فرع و اولاد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ

شَرْعًا وَأَعْظَمَ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا وَكَمَلُ الْأَنْبِيَاءِ فِعْلًا وَالَّذِينَ الْأَنْبِيَاءِ

ظاہر شرع والے پر اور سب انبیاء سے عظیم تر فضل والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ نرم طبع والے

طَبْعًا وَأَحْسَنَ الْأَنْبِيَاءِ صُنْعًا وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ نَصَابًا وَأَسْبَغَ الْأَنْبِيَاءِ

پر اور سب انبیاء سے حسین تر صنع و عمل والے پر اور سب انبیاء سے افضل نصاب والے پر اور سب سے زیادہ قابل فخر اور مشہور

فَخْرًا وَأَشْهَرَهَا وَنُورًا أَزْهَرَ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَقَهَا وَأَوْضَحَهَا وَأَطْهَرَهَا

سیرت والے پر جن کا نور سب انبیاء کے انوار سے زیادہ روشن اور ضوؤ فگن - واضح ترین - پاکیزہ ترین اور سب

وَأَكْرَمَهَا خَلْقًا وَأَعَدَّلَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سے زیادہ عزت و کرامت اور اعتدال والا ہے از روئے تخلیق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ نَفْسًا وَأَبًا وَأَطْهَرَ النَّاسِ قَلْبًا وَعَلَى النَّاسِ

آل پر جو سب لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں اپنی ذات میں اور آباء کے لحاظ سے اور سب پاکیزہ قلب والے ہیں اور تمام لوگوں

مَقَامًا وَأَحْلَى النَّاسِ كَلِمًا وَأَصْدَقِ النَّاسِ قَوْلًا وَأَزْكَى النَّاسِ

سے اعلیٰ مقام والے ہیں۔ اور شیریں تر کلام والے۔ سب سے زیادہ سچے قول والے اور سب سے پاکیزہ ترین فعل

فِعْلًا وَأَوْفَى النَّاسِ عَهْدًا وَأَمْكِنَ النَّاسِ مَجْدًا وَأَكْرَمَ النَّاسِ

والے اور سب سے زیادہ وفاء و عہد والے اور سب سے زیادہ پائیدار مجد والے اور سب سے بزرگ ترین

طَبْعًا وَأَحْسَنَ النَّاسِ صُنْعًا وَأَطْيَبَ النَّاسِ فِرْعًا وَأَكْرَمَ النَّاسِ

طبیعت والے۔ سب سے حسین ترین صنع و عمل والے۔ سب لوگوں سے پاکیزہ ترین فرع والے۔ اور سب سے زیادہ

طَاعَةً وَسُبْعًا وَأَجَلَّ النَّاسِ قَدْرًا وَأَسْنَاهُمْ فَخْرًا وَأَمْرًا وَالَّذِينَ

طاعت و قبولیت والے اور سب سے اجل قدر والے اور سب لوگوں سے بلند تر فخر والے اور سب سے زیادہ سچے وعدہ والے

وَعَدًا وَأَحْسَنَ النَّاسِ خَيْرًا وَأَجْمَلَ النَّاسِ صَبْرًا وَأَعْلَمَ النَّاسِ

اور سب سے زیادہ حسین خیرات والے۔ اور سب لوگوں سے جمیل ترین صبر والے اور سب سے زیادہ توحید کا علم رکھنے

تَوْحِيدًا وَأَعْرَفَ النَّاسِ تَمْجِيدًا وَأَعْلَمَ النَّاسِ تَحْمِيدًا وَأَبْهَمَ النَّاسِ

والے۔ اور سب لوگوں سے زیادہ معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی اور سب سے زیادہ عالم حمد کرنے کے اور سب سے

دَلِيلًا وَأَبْلَجَ الرَّبِّينَ وَأَبْرَجَ الْعَيْنِ وَأَنْهَجَ النَّاسِ سَبِيلًا وَأَعْظَمَ

مؤثر دلیل والے۔ واضح ترین والے حسین آنکھوں والے اور سب سے کشادہ اور وسیع راستہ والے۔ اور سب لوگوں سے عظیم تر

النَّاسِ شَانًا وَأَقْوَى النَّاسِ دَلِيلًا وَبُرْهَانًا وَأَوَّلَ النَّاسِ إِيْمَانًا وَ

شان والے اور سب سے قوی تر دلیل و برہان والے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے

أَرْجَحَ النَّاسِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَ النَّاسِ بَيَانًا وَأَخْرَجَ النَّاسِ إِثْمَانًا وَ

سب سے وزنی میزان والے اور سب سے واضح ترین بیان والے اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے

أَكْمَلَ النَّاسِ إِنْسَانًا وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا وَأَوْسَعَ النَّاسِ صَدْرًا

سب انسانوں سے کامل ترین انسان اور سب سے بلند تر قدر والے اور سب سے وسیع ترین سینہ والے

وَأَكْثَرَ النَّاسِ أُمَّةً وَأَثْبَتَ النَّاسِ أَصْلًا وَأَبْعَدَ النَّاسِ مَكَانًا وَ

سب انبیاء سے کثیر امت والے اور سب سے مضبوط و راسخ اصل والے اور سب سے بلند تر مرتبہ و مکانت والے

أَرْفَعَ النَّاسِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ذِكْرًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ فَخْرًا وَأَشْهَرَهَا

سب سے بلند تر از روئے ذکر کے ملائعہ اعلیٰ میں۔ اور عظیم ترین از روئے فخر کے اور مشہور ترین اور

وَأَكْمَلَ النَّاسِ نُورًا وَأَزْهَرَهَا وَأَوْضَحَ النَّاسِ شَرِيعَةً وَأَظْهَرَهَا

کامل ترین از روئے نورانیت کے اور سب سے زیادہ روشن۔ اور سب سے زیادہ واضح از روئے شریعت کے اور سب سے زیادہ ظاہر

وَأَكْمَلَ النَّاسِ دَرَجَةً وَأَظْهَرَهَا وَأَجْزَلَ النَّاسِ عَطِيَّةً وَأَوْفَرَهَا

اور سب سے کامل تر از روئے درجات کے اور پاکیزہ ترین اور سب سے جنیل و عظیم از روئے عطیات اور سب سے وافر عطیات والے

وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ نَسَبًا وَأَبَاً وَأَعْظَمَهُمْ مَحَلًّا وَأَكْمَلَهُمْ مَحَاسِنًا وَفَضَّلَهُ

اور سب مخلوق سے گرامی تر از روئے نسب اور آباء کے اور عظیم ترین از روئے مقام و محل کے اور کامل ترین از روئے محاسن و فضیلت کے

وَأَثْبَتَهُمْ بِرُحْمَانًا وَأَصْدَقَهُمْ وَعْدًا وَأَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ

اور سب ثابت ترین از روئے برہان کے اور سب سے بچے از روئے وعدہ کے اور سب اکثر از روئے شکر کے۔ اور سب بلند تر

أَمْرًا وَأَقْرَبَهُمْ يُسْرًا وَأَزْكَاهُمْ سَلَامًا وَأَعْظَمَهُمْ فَخْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ

از روئے امر کے اور قریب تر از روئے یسر کے اور سب پاکیزہ تر از روئے سلام کے اور عظیم تر از روئے فخر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب انبیاء سے افضل ہیں از روئے

مُعْجَزَاتٍ وَأَبْيَنَهُمْ بَيَانًا وَخَطَابًا وَأَفْضَلَهُمْ مَوْلِدًا وَمُهَاجِرًا

معجزات کے اور واضح تر بیان والے ہیں اور خطاب والے۔ اور سب افضل ہیں از روئے مقام ولادت و مقام ہجرت

وَعْتَرَةً وَأَصْحَابًا وَأَغْنَى الْعَرَبِ نَصَابًا وَأَبْيَنَ الْعَرَبِ خَطَابًا

اور عترت و اصحاب کے۔ اور سب عربوں سے زیادہ غنی ہیں از روئے نصاب کے اور واضح تر ہیں از روئے خطاب کے اور

أَكْثَرَ الْعَرَبِ نَيْلًا وَطَوْلًا وَأَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَهَا

تمام عربوں سے اکثر ہیں از روئے حصول مقاصد اور طاق کے اور مبعوث فرمایا انہیں وزنی میزان والے عربوں سے اور واضح ترین

بَيَانًا وَأَوْفَاهَا ذِمًّا وَأَصْفَاهَا زَعَامًا وَأَوْضَحَ الطَّرِيقَةَ وَنَضَحَ

بیان والوں سے اور سب زیادہ ذمہ دار بیاں نبھانے والوں سے اور انتہائی صاف ستھری قیادت والوں سے اور واضح کیا انہوں نے طریقت کو اور

الْخَلِيقَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَقْدَسَةِ الْبَحِيْطَةِ بِأَنْوَاعِ

ہم دردی فرمائی مخلوق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اس حقیقت مقدسہ پر جو محیط ہے تمام انواع آثار

الْأَثَارِ مَعَ الْبَصَائِرِ وَالْأَبْصَارِ مَلَأَتْ جَدًّا وَلَهُمْ بِأَنْوَاعِ مِيَاهِ الْحَيَاةِ

کو جمع بصیرتوں کے اور نگاہوں کے۔ بھر دیا ہے تو نے ان کی آبی نالیوں کو آب حیات کے جملہ اقسام سے

حَتَّى عَرَفُوكَ بِالْأَلُوْهِيَّةِ وَالصِّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ فَهَذِهِ الرَّحْمَةُ الْمَكْمُومَةُ

حتیٰ کہ انہوں نے تجھے پہچان لیا الوہیت اور صفات کمال کے ذریعے سے۔ تو تیری یہ رحمت عظیم ترین

مِنْ أَعْظَمِ الْإِنْعَامَاتِ لَيْسَ فِيهَا قُصُورٌ وَغَيْرُ مَحْصُورَةٍ وَكَأَنَّ

انعامات میں سے ہے جس میں کوئی کوتاہی نہیں اور نہ ہی وہ منحصر و محدود ہے صرف

مَوْجُودٍ دُونَ مَوْجُودٍ بَلْ هِيَ بَحْرٌ مَّوْجٍ يَغِيَسُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْ

ایک موجود میں سوائے دوسرے کے بلکہ تیرے انعامات ٹھاٹھیں مارتے سمندر ہیں جو ہر ایک کو ہر ساعت میں اپنے

السَّاعَاتِ فَرَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ فَلَا يَقْرِنُهَا أَلْفُ

اندر غرق کرتے ہیں۔ پس تیری رحمت زیادہ وسیع ہے تمام مخلوقات سے نہیں بانٹ کر ختم کر سکتے اس کو

أَلْفِ عَالِمٍ مِّثْلَ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ الْعُلُويَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ فَرَحْمَتِكَ

دس لاکھ جہان مثل ان موجودات علویہ اور سفلیہ کے پس تیری رحمت

مُتَنَوِّعَةٌ بِأَنْوَاعِ الْمَوْجُودَاتِ كَرَحْمَتِكَ فِي حَقِّ الْعَرْشِ مِنْ أَنَّكَ

مختلف النوع ہے مطابق انواع موجودات کے مانند تیری رحمت کے حق عرش میں

خَلَقْتَهُ أَعْظَمَ السَّمَوَاتِ ثُمَّ رَبَطْتَ الطُّلُوعَ وَالْغُرُوبَ بِهِ بَرَّاقًا

کہ اس کو تمام آسمانوں سے عظیم تر بنایا پھر طلوع و غروب کو منقطع فرمایا ساکھ اس کے درآغاییکہ وہ روشن

مُتَلَاكًا غَيْرَ مَوْكِبٍ طَلَبًا صَفْصَفًا تَحْتَهُ مَسْكَنٌ لَاهُوتِيَّاتٍ وَفِي

اور چمکدار ہے نہیں جمعیت کا طالب بلکہ تنہا رواں دواں ہے اس کے نیچے مسکن ہے لاهوتی مخلوق کا اور اس کی

لُوحِهِ كَلِمَاتٌ مَّسْطُورَاتٌ وَظِلُّهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ وَالْحَرِّ لِمَنْ تَقَرَّبَ

لوح پر کلمات منقوش و مسطور ہیں اور اس کا سایہ روز جزاء اور تپش محشر کے وقت ان کیلئے ہوگا جنہوں نے قرا

إِلَيْكَ بِحُسْنِ الطَّاعَاتِ وَالتَّصَدِيقَاتِ مِنَ السَّابِقِينَ وَالسَّابِقَاتِ

قرب حاصل کیا حسن طاعات اور تصدیقات کے ساتھ اہل سبقت مردوں اور عورتوں میں سے

وَتَعْظِيمِهِ فِي الْمَثَلِ وَالْكِنَايَاتِ فِي الْقُدْسِيَّاتِ وَحَمَلْتَهُ أَعْظَمَ

اور اس کا بیان عظمت بطور امثال و کنایات ہے قدسید میں اور اس کو اٹھانے والے سب

الْمَخْلُوقَاتِ مُشْرِفَةً بِتَعْلِيْقِ الْقَائِمِ فَيَأْتِيهِ اللَّهُ مَلَكَةٌ الْعَرْشِ

مخلوق سے عظیم تر ہیں جو مشرف ہیں عرش کے ہر پایہ کے ساتھ متعلق ہونے سے پس اے حاملین عرش ملائکہ کے

اجْعَلْنِي مَحْبُوبًا عِنْدَهُمْ فَأَهْبِشْ أَسْرَارَهُمْ فِي قَلْبِي هَابِشًا قَائِلًا

اللہ مجھے ان کے ہاں محبوب بنا دے پس جمع کر لوں میں ان کے اسرار کو اپنے دل میں درآغاییکہ کہنے والا ہوں

لَتَسْبِيحَاتِهِمْ وَرُوحِي أَخَذَةً لَفِيضِهِمْ وَمَدَدِهِمْ مُفِيضَةً عَلَيْهِمْ

انہیں کی تسبیحات اور میری روح ان سے فیض اور مدد حاصل کرتے ہوئے فیض رساں ہو

نَفْسِي فَتَكُونُ نَافِذَةً مِّنْهُ إِلَىٰ أَحِبَّائِي أَيْنَارًا لِلْأَخْوَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا

میرے نفس پر پس وہاں سے نافذ ہو میرے احباب کی طرف اس اخوت و محبت کو ترجیح دیتے ہوئے جیسے کہ اس کا حق ہے

فِي كَلَامِ اللَّهِ ثُمَّ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةُ وَالْعِلْمُ الْحَقُّ قَدْ أَحَاطَتْ بِكُلِّ

جو کلام الہی میں ثابت ہے پھر تیری وسیع رحمت اور برحق علم محیط ہیں

شَيْءٍ مِّنَ السَّمَوَاتِ الْمُدَوَّرَاتِ مَعَ الْكَوَاكِبِ حَتَّىٰ صِرْنَا مَزِينَةً

بہر شئی کو حتیٰ کہ مدور شعل کے آسمانوں میں سے ہر ایک کو بیع کواکب کے حتیٰ کہ وہ مزین ہو گئے

مُتَحَرِّكَةً بِحَرَكَتِهِ هِيَ أَحْسَنُ الْحَرَكَاتِ فِي حَقِّهِمْ وَتَلَاوُتِ الْكَوَاكِبِ

اور حرکت پذیر ہو گئے ایسی حرکت کے ساتھ جو ان کے حتیٰ میں سب حرکات سے حسین ترین ہے اور جگہ جگہ اُٹھ

بِالشُّعَاعَاتِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهِمْ مِّنْ عَكْسِ الْأَنْوَارِ خُصُوصًا عَلَىٰ

تساے ان شعاعوں کے ساتھ جو ان پر فائض ہونے والی ہیں عکس انوار سے بالخصوص

النَّيِّرِينَ مِنَ النُّورَيْنِ الْكَائِنَيْنِ مِنْ عَكْسِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ

ان دو نیروں پر جو مشور ہیں ان دو نوروں سے جو جلال و جمال خداوندی کا عکس ہیں

حَتَّىٰ صَارَ فِي عَالِمِ الْأَجْسَامِ عَلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِقَوَامِ

حتیٰ کہ ہو گیا عالم اجسام میں رحمت باری کی وجہ سے جو مقتضی ہے

نِظَامِ الْمَحْسُوسَاتِ أَحَدُهُمَا طِبَاخٌ وَالْآخَرُ صَبَاغٌ وَوَهَبْتَ التَّانِثِيَّاتِ

محسوسات کے نظام کی پائیداری کی ان دو میں سے ایک پخت و پز کرنے والا اور دوسرا رنگ و زینت دینے والا اور تو نے پختی ہیں ان کو تاثیرات

لَهُمَا مِنْ مَّحْضِ جُودِكَ وَاقْتِضَاءِ قُدْرَتِكَ فَهِيَ تَحْتَ أَمْرِكَ

محض اپنے جود اور تقاضائے قدرت سے پس وہ سبھی تیرے حکم کے ماتحت

مُطِيعَةٌ لِّكَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

اور اطاعت گزار ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر تک۔ یہ حد بندی ہے عزیز و علیم

فَرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ فِي حَقِّهَا حَتَّىٰ أَحَاطَ ضَوْءُهَا بِكُلِّ الْمَوْجُودَاتِ

کی طرف سے، تو تیری رحمت وسیع ہے ان دونوں کے حق میں حتیٰ کہ احاطہ کر رکھا ہے ان دونوں کی روشنی نے ان تمام موجودات

تَحْتَهُمَا وَشَرَفَتْهُمَا بِأَنْوَاعِ التَّشْرِيفَاتِ فَكَذَلِكَ أَرْحَمُ عَلَىٰ عَبْدِكَ

کا جو ان کے نیچے ہیں اور تو نے انہیں مختلف اقسام کی فضیلتوں سے مشرف فرمایا پس ایسے ہی اپنے اس عبد پر رحم فرما

هَذَا بِأَنْوَاعِ التَّشْرِيفَاتِ فَكَذَلِكَ أَرْحَمُ عَلَىٰ عَبْدِكَ هَذَا بِأَنْوَاعِ

مختلف النوع فضائل کے ساتھ اور ایسے ہی رحم فرما اپنے اس بندے پر مختلف اقسام کے

الْأَثَارِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِهَا أَوْ ظُهُورِ الْأَثَرِ مِنْهَا مِنْ

آثار کے ساتھ جن کا علم نہ ہو سکے کسی کو بھی مگر ان کے تحقق کے وقت یا ان کے اثر کے اذروے

حَيْثُ الظُّلَعَةُ وَالْجِبَالُ بِحَيْثُ صَارَ شَخْصَةً مُسْتَعْرِقًا فِي

طلعت و جمال ظاہر ہونے کے وقت اس انداز سے کہ اس عبد کا وجود مستغرق ہو جائے

المُشَاهَدَاتِ مَعَ بَقَاءِ الشَّخْصِ الْبَشَرِيِّ وَالرُّوحِ الْإِنْسَانِيِّ فِيهَا

مشاہدات میں مع باقی رہنے شخص بشری اور روح انسانی کے پس لے

خَالِقِ السَّبْعِ السِّيَّارَةِ وَالْخُمْسَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ كُلِّهَا

پیدا کرنے والے سات سیارات کے اور پانچ متحیر و لرزہ بر اندام نیرات کے اور دیگر تمام ستارگان کے

سَخَّرَهَا لَنَا فِي ظُهُورِ الْفِعْلِ مِنْهَا حِينَ قَصَدَ هَذَا الدَّاعِيَ إِلَيْهَا

سخر فرما ان سب کو ہمارے لیے ظہور افعال کے حق میں وقت ارادہ کرنے اس دعا گو کے ان کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمَقْدَمِ عِنْدَكَ عَلَىٰ سَائِرِ مَخْلُوقَاتِكَ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل اس ذات کے جو تیرے ہاں مقدم ہیں سب مخلوقات پر اور

بِالْمُتَصَرِّفِ فِي أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ الَّذِي سَمَّيْتَهُ فِي الْأَرْضِ

بظیفیل اس ذات کے جو متصرف ہیں اہل ارض اور اہل سموات میں جنہیں موسوم کیا ہے تو نے زمین میں

بِمُحَمَّدٍ فِي السَّمَاءِ بِمُحَمَّدٍ وَخَصَّصْتَهُ بِاللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْمَقَامِ

اسم محمد کے ساتھ اور آسمان میں محمود کے ساتھ اور مخصوص ٹھہرایا ہے انہیں لواء الحمد کے ساتھ اور بلند تر

الرَّفِيعِ الْكَرِيمِ وَأَنْ تُمَدِّدَنِي بِأَمْدَادِهِ وَأَنْ تُسْقِيَنِي بِشَرِبِهِ

اور بزرگتر مقام کے ساتھ کہ تو امداد مہیا فرمائے ان کی خاص امداد سے اور پلائے مجھے ان کے

حَبْرُ حَبِّهِ وَوَدَادِهِ وَأَنْ تُبَدِّلَنِي نَفْحَةَ مَنْ نَفْحَاتِهِ وَأَنْ تُخَصِّصَنِي

شراب محبت و مودت سے ایک گھونٹ اور مجھے عطا کرے عظیم عطیہ ان کے عطیات سے اور مجھے مخصوص ٹھہرائے

بِجَذَابِهِ مَنْ عَظِيمُ جَذَابَاتِهِ وَأَنْ تَمَنَّ عَلَيَّ بِالصَّدَقِ الْكَامِلِ فِي

ان کے عظیم جذبات میں سے خاص جذب کے ساتھ اور مجھ پر احسان فرمائے ان کی محبت میں صدق کامل

مَحَبَّتِهِ وَالْوَدِّ الشَّامِلِ لِأَهْلِ مَوَدَّتِهِ يَا مَنْ لَا يَرُدُّ السَّائِلَ خَائِبًا

اور ایسی مودت کاملہ کے ساتھ جو شامل ہو ان کے اہل مودت کو بھی ایکہ تو نہیں لوٹاتا سائلوں کو حالت حرمان میں

أَسْأَلُكَ بِجُمْلَةِ الْحَبَائِبِ أَنْ تُحَقِّقَنِي بِإِتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ السَّامِيَةِ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جملہ احباب کے طفیل کہ مجھے موصوف و متصف کرے شریعت عالیہ کی

وَالْإِقْتِدَاءِ بِطَرِيقَتِهِ النَّامِيَةِ لِأَكُونَ بِذَلِكَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَى

اتباع اور طریقت گرامی کی اقتداء کے ساتھ تاکہ ہو جاؤں میں اس کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والوں کے

الْكَوْثَرِ مِنَ الْوَارِدِينَ يَا قَوِيَّ يَا مَتِينُ اللَّهُمَّ بِبَرَكَتِكَ قَدْرَهُ عِنْدَكَ

اور کثرت کوثر پر وارد ہونے والوں سے اے صاحب قوت۔ اے پائیدار و مستحکم۔ اے اللہ بطفیل ان کی قدر مبارک جو

أَجِبْنِي يَا عَجِيبَ الصَّنَائِعِ يَا مَنِيْعَ يَا مَعِينُ يَا مَعْبُودَ يَا مَقْصُودَ يَا

تیری بارگاہ میں ہے میری عرض قبول فرما۔ اے عجیب صنائع والے اے ناقابل تسخیر۔ اے معین۔ اے معبود۔ اے مقصود۔ اے

مَوْجُودَ اتِّبَاعِ حُرْمَتِهِ جَمِيعَ سُؤْلِ النَّاسِ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا

موجود عطا کر ہمیں ان کی حرمت و عزت کے طفیل ہمارے تمام مطالب دینی اور دنیاوی اور آخری۔

أَنْتَ مَوْلَانَا أَجِبْ دُعَائَنَا وَلَا تُخَيِّبْ أَمَلَنَا وَأَمَّا جَمِيعُ أَحْبَابِنَا

تو ہی ہمارا مددگار ہے ہماری دعا قبول فرما اور ہماری آرزوں کو حرمان سے دوچار نہ فرما اور اسی طرح ہمارے تمام

وَأَصْدِقَائِنَا وَأَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا وَالْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَالشَّقِيقَ وَالْمُسْتَعِظِلَ

احباب و اصدقاء اور اہل و اولاد اور قریب و بعید اور بد بختوں اور نیک بختوں کی آرزوں کو پورا فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحُرْمَةِ جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّوحِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر بطفیل عز و احترام ان تمام حروف کے جو لوح محفوظ میں

فِي عِلْمِ اللَّهِ وَمِنَ الْمَحْفُوظِ تُنَزَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ

نقش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور لوح محفوظ سے نازل کئے جانے ہیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلِفِ

کلام اللہ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَيَاءِ بُرْهَانَ الدَّلَالَاتِ وَتَاءِ تَكْوِينِ

بدایت و نہایت کی الفت ہیں اور برہان و دلالات کی یاء ہیں اور مخلوقات کی تکوین

الْمُكُونَاتِ وَثَاءِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَجِيمِ جَنَّاتِ الْجَنَّةِ

و ایجاد کی ثاء اور اعمال صالحہ کے ثواب کی ثاء اور جنتوں کے جنتی (تازہ چسنے ہوں پھلوں) کی جیم ہیں

وَخَاءِ حِمَايَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَخَاءِ خِتَامِ الْخَيْرَاتِ وَذَالِ دَلِيلِ

اور دین و دنیا میں حمایت کی خاء ہیں۔ خیرات کے ختام اور مہر کی خاء و دلیل نجات کی ذال ہیں اور

النَّجَاتِ وَذَالِ ذُرِّ وَالْبَعَالِيُّ وَرَاءِ رُوحِ الشَّرَفِ الْعَالِيُّ وَرَاءِ زَهْرَةِ

اعلیٰ صفات کے ذرہ و بلندی کی ذال ہیں۔ بلند مرتبت نفساں کے روح کی راء ہیں نورانیت و ضیاء کی زہرت اور بہار کی زام ہیں

السَّنَا وَسَيِّدِ السَّعَادَةِ وَسَحَابِ الْغُفْرَانِ وَشَيْنِ الشَّرَافَةِ وَ

سعادت اور مغفرت کے سحاب اور بادلوں کی سین ہیں۔ شرافت اور شامل جو در نوال کی شین۔

شِبَائِلِ التَّدْيِ وَصَادِ صِلَاحِ الْأَخْيَارِ وَضَادِ ضِحَاءِ الْأَيَّامِ وَطَاءِ

نیک سیرت لوگوں کے صلاح و تقویٰ کا صاد۔ ایام کی ضحا، اور روشنی کی ضاد ہیں۔ روشن نور کے طراز و

طَرَاذِ الثُّورِ الْأَسْنَاءِ وَظُهُورِ الْأَيَّاتِ وَعَيْنِ عِرْفَانَ الْأَنْبَاءِ وَ

نقش کی طاء ہیں و ظہور آیات کی ظاء ہیں اور عرفان خلائق کا عین ہیں

عَيْنِ غَيْبَةِ الْفَلَاحِ وَفَاءِ فَصَاحَةِ الْفُصَّاحِ وَقَافِ قَلَائِدِ

فلاح و کامرانی والی غیبت کا غین ہیں۔ فصیح لوگوں کی فصاحت کی فاء ہیں۔ احسان و امتنان کے قلائد اور ہاروں کا

اِمْتِنَانٍ وَكَافٍ كُنُوزِ الْهُدَايَاتِ وَلَا مَعَ الْاَنْوَارِ وَوَالِدِ الْاَسْرَارِ

قاف ہیں۔ کنوز ہدایات کا کاف۔ اور نواع روشن انوار کا لام۔ مواد

الْاَسْرَارِ وَتُونِ نَعِيمِ الْاَبْرَارِ وَوَالِدِ الْاَحْبَابِ وَهَادِي الْهُدَى

اسرار کا میم اور ابرار و محسنین کے نعیم کا نون اور وصال احباب کی داؤ اور ہدایت یافتگان کی

مَنْ اهْتَدَى وَلَا مِ الْاَسْبَابِ الْمَوْصِلَةَ اِلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفَانِ وَالْفَا

ہدایت کی ہاد۔ اور لام ہیں ان اسباب کا جو پہچانے والے ہیں جنت کے بالا خانوں اور منازل عرفان تک اور الف

اِرَادَةِ رَبِّ الْاَرْبَابِ وَيَا عَيْدِ الْاِنْعَامِ السَّامِيَةِ الْمَوْدَعَةِ فِي الْقُرْآنِ

ہیں رب الارباب کے ارادہ کی۔ اور یاد ہیں بلند مرتبت پر اور دست انعام کی جو ودیعت کئے گئے ہیں قرآن میں

مِنْ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مالک جلال و اکرام کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدُوَّةَ السَّابِقِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا مقتدا ہیں پہلوں اور پچھلوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا اِلَّا عَلٰى سَبِيْلِ النَّجَاتِ وَالْمَوْصِلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو رہنمائی فرمانے والے ہیں راہ نجات کی اور واصل کرنے والے ہیں

اِلَى رِضَا رِبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

زمین اور آسمانوں کے مالک کی رضاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَهَتْ بِهٖ بَيْتُ الْعِزَّةِ وَعَدَّتْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر فخر و ناز کیا بیت العزت نے اور جن کی بدولت

بِهٖ النَّفُوسُ مُعْتَزَّةٌ وَالْقُلُوبُ فِي عِزَّةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

نفوس عزت پا گئے اور قلوب عزت والے بن گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَبَّتْ بِهٖ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ایتادہ ہوئے افلاک اور زمین حاصل کی

بِهِ طُرُقِ السَّمَوَاتِ وَأَشْرُقَتْ بِهِ الْبِشَارِقُ وَتَحَقَّقَتْ بِهِ الْحَقَائِقُ

ان کے ساتھ آسمانوں کے راستوں نے اور جگہ جگہ اُسٹے ان کی وجہ سے افق شرق (دو غرب) اور انہیں کی بدولت حقائق نے لباس وجود پہنا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

أَبِيحَ بِهِ لِأُمَّتِهِ نَعِيمُ الْجَنَّةِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مباح کئے گئے ان کی امت کے لیے نعیم جنات اور ان کی رونق و بہار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَتُحِفُّ بِهِ الْإِنَامَ مَوَاعِدَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت تحفہ دیا گیا ساری مخلوق کو دوام و

الْخُلْدِ بَدَارِ السَّلَامِ وَتَالَ بِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ مَحَاسِنَ الْحُورِ وَ

خلود کے دسترخوان کا دارالسلام ہیں۔ اور پالیا آپ کی بدولت اہل ایمان نے حسین حوروں

الْوُلْدَانِ إِنَّ اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَكِرَّمُ وَعَظْمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور غلمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام۔ کرامت و عظمت اور برکت عطا فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَرْجُو بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ نَيْلَ

محمد کو اور آپ کی آل کو کہ جس محبوب کی بدولت امید رکھتے ہیں ان کے اطاعت گزار

الْخُلْدِ وَالشَّفَاعَةَ وَيَوْمَئِذٍ مُرْتَجِيهِ أَنْ يُنْقِذَهُ مِنَ النَّارِ وَيُنْجِيهِ

شفاعت اور خلد کے حصول کی اور امیدیں رکھتے ہیں ان سے رجاء و امید رکھنے والے کہ انہیں بچائیں گے آتش دوزخ سے اور اس نجات دہانی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

كُونَتْ بِهِ الْأَكْوَانُ وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ وَسُعِدَ بِهِ

موجودات کو پیدا کیا گیا اور بلند کئے گئے ان کے طفیل جنات کے درجات اور سعادت مند ہو گئے ان کے طفیل

الرِّضْوَانُ وَالْوُلْدَانُ إِنَّ اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رضوان جنات اور غلمان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَنَارَتْ بِهِ الْاَنْوَارُ وَاَمِنَ بِهِ الْعُصَاةُ

آل پر کہ جس محبوب کی بدولت انوار نے نورانیت حاصل کی اور امن و سلامتی حاصل کر لی عاصیوں نے ان کے طفیل

الْخُلُودِ فِي النَّارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

آتش دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَتْ بِهٖ اُمَّتُهٗ الْحُضُوْرَةَ وَالْكَرَامَةَ وَظَهَرَتْ حُرْمَتُهٗ

کی آل پر جن کی بدولت امت نے عزت و کرامت پائی اور ظاہر ہوئی ان کی حرمت

وَمَزِيَّتُهٗ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فضیلت قیامت کے میدانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُعَادَى عِنْدَ ضَيْقِ الْخَلَائِقِ اَعْتَابَنَا

اور آپ کی آل پر جس محبوب کو ندادی جائے گی مخلوقات کی تنگی اور پریشان حالی میں ہماری فریاد کو پہنچانے

مَلَاذِ الْخَلَائِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

سب مخلوق کی جائے پناہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوْرٌ وَجْهُهٗ الْكَرِيْمُ يَشْرُقُ وَلِيْوَاْنُهٗ فِي الْحَشْرِ يَخْفَنُ

پر جن کے چہرہ کرامت کا نور چمکتا ہوگا اور میدان حشر میں ان کا لواء حمد لہراتا ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی

اَظْهَرَ اَللّٰهُ قَدْرَهٗ وَفَضْلَهٗ يَوْمَ يَغْضَبُ الرَّبُّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ

قدر و منزلت اور فضل و شرف کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا جس دن وہ ایسے غضب کا اظہار کرے گا کہ نہ کسی پہلے اس طرح کا اظہار

مِثْلَهٗ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا اور نہ اس کے بعد اس کی مانند ناراض ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمْنَطِقُ بِمِنْطَقَةِ الرِّضْوَانِ وَتَدَارِكُ

آپ کی آل پر جس محبوب نے رضوان و رضوانندی کا کمر بند باندھا اور زرہ پہنی

يَدْرِعُ الْعِزَّ وَالْأَمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عزت و امان وال - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي حِصْنٍ كَنَفِهِ وَأَوْدَعَهُ اللَّهُ سِرًّا

محمد کی آل پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اپنے پہلوئے رحمت کے مضبوط قلعہ میں ان میں ودیعت فرمایا

خَفِي لُطْفِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے مخفی لطف کے راز کو - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِحُلَّةِ الْكِبَالِ يَوْمَ يَتَجَلَّى الْجَلِيلُ بِصِفَةِ

پر جو محبوب خلعت کمال کو زیب تن فرمائیں گے جس دن رب جلیل تجلی جلال کے ساتھ

الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ظاہر ہوگا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي لَا يَزَالُ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْ الْجِبَارِ حَتَّى يُدْخِلَ أُمَّتَهُ دَارَ الْقَرَارِ

جو رب جبار کے حضور قیام پذیر رہیں گے یہاں تک داخل کریں گے اپنی امت کو دار قرار میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

لَا يَزَالُ بِيَدِهِ لُؤَاءُ الْحَمْدِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ أُمَّتِهِ فِي الْمَوَاقِفِ أَحَدٌ

دست اکرام میں لواء الحمد رہے گا یہاں تک کہ نہ باقی رہے گا ان کی امت سے کوئی فرد موقف محشر اور پل صراط وغیرہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

يَتَجَلَّى بِحُسْنِ مَعَانِيهِ عَلَى قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَعُلُوِّ مَبَانِيهِ اللَّهُمَّ

تجلی فرما ہوں گے اپنے حسن معانی و صفات کے ساتھ جنت الفردوس کے قبابات پر اور بلند و بالا اصول و مبانی پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو زیب تن کرائی

اللَّهُ حَلَّةَ التَّوْحِيدِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَسَقَاةَ اللَّهِ شَرَابِ الصِّدْقِ وَالْوَكَا

اللہ تعالیٰ نے خلعت توحید اور اصطفاء کی اور پلایا انہیں شراب صدق و وفا کا۔

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِهَا صُدُورَنَا وَكَيْسِرْ بِهَا أُمُورَنَا وَأَخْرِجْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ

اے اللہ ان صلوٰت کے طفیل ہمارے سینے کشادہ فرما اور ہمارے امور آسان فرما اور نکال ان کے طفیل ہمیں

ضَيْقٍ وَعُسْرٍ إِلَى كُلِّ فَرْجٍ وَيُسِّرْ وَقْرَبْنَا بِهَا قُرْبَةً تُصِيرُ بِهَا لَدَيْكَ

ہر تنگی اور مشکل سے طرف کشائش اور سہولت کے اور ان کے طفیل ہمیں قربت و نزدیکی عطا فرما کہ جس کی بدولت ہم تیرے

مِنْ أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ وَآكْتُبْنَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَحْبُوبِينَ وَأَبْعِدْنَا

ہاں اعلیٰ مقربین میں سے ہو جائیں اور لکھ ہمیں اپنے ہاں محبوبین میں سے اور دور فرما ہمیں

عَنْ دِيَوَانِ الْبُعْدَاءِ وَالْمَطْرُودِينَ وَبَارِكِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

بعید اور دھتکارے ہوئے لوگوں کے دفتر سے۔ اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ صَلَاةً مِّنْكَ

اور تمام اصحاب پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا اور صلوٰۃ بھیجے اپنی طرف

عَلَيْهِ مَقْبُولَةً بِكَ مِثْلَ دَيْكِ تَلِيْقُ بِذَاتِهِ وَتَغْبِسْنَا بِهَا فِي أَنْوَارِ

سے ان پر ایسی صلوٰۃ جو مقبول ہو تیرے طفیل ہماری طرف سے ان کے ہاں جو ان کے نمایاں شان ہو اور اس کے طفیل ہمیں مستغرق

تَجَلِّيَاتِهِ وَتَطَهَّرْ بِهَا قُلُوبَنَا وَتُقَدِّسْ بِهَا أَسْرَارَنَا وَتُرْقِ بِهَا

فرمان کے انوار تجلیات میں اور پاک کرے اس کے ذریعے ہمارے قلوب کو اور مقدس فرمائے ہمارے بواطن کو اور ترقی دے

أَرْوَاحَنَا وَتُعِمْ بِرَكَاتِهَا عَلَيْنَا وَعَلَى مَشَائِخِنَا وَالِدِينَا وَالْمُسْلِمِينَ

ہمارے ارواح کو اور عام کرے ان کی برکات کو ہم پر۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے والدین پر اور مسلمان مردوں اور

وَالْمُسْلِمَاتِ مَقْرُونَةً بِسَلَامٍ مِّنْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَضْرُوبَةً

عورتوں پر جو متصل و مقرون ہوں تیرے سلام کے ساتھ قیامت کے دن تک کہ ضرب دی گئی ہو ان میں سے

بِأَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ عَلَى السَّيِّدِ الْأَمِينِ ط وَاللَّهُ وَصَلَّى

ہر صلوٰۃ ہزار ضرب ہزار صلوٰۃ و سلام کے ساتھ جو بھیجی گئی ہوں سید امین پر اور ان کے اہل و اصحاب

أَجْمَعِينَ مُنكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ

تمام پر تیری طرف سے ہر وقت اور ہر جہین میں اور تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور

أَجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَعَلْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِرًا وَ

جمع فرما مجھے اور انہیں اے اللہ جیسے تو نے اکٹھا کیا ہے روح اور نفس کو ظاہر و باطن میں اور

بَاطِنًا يَقُظَةٌ وَمَنَامًا وَأَجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِدَا تِي مِنْ جَمِيعِ

بیداری اور نیند میں۔ اور بنا دے انہیں اے میرے رب روح میری ذات کے لیے تمام

الْوُجُوهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَا عَظِيمُ اللَّهُمَّ أَمْلَأْ سُوْدَانَنَا

وجوہ سے دنیا میں ہی آخرت سے پہلے اے مالک عظمت۔ اے اللہ بھروسے ہمارے دل کی گہرائیوں کو

مِنْ سَنَاءٍ وَقُلُوبَنَا مِنْ نِعْمَتِكَ وَأَهْلِنَا بِمَجَالِسَتِهِ فِي كُلِّ دِيْوَانٍ

ان کی روشنی سے اور ہمارے قلوب کو ان کی نعمتوں سے اور اہل بنا دے ہمیں ان کی ہمنشینی کا ہر کچھری میں اور

وَالْحَقْنَا بِجَلَالَتِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ يَنَالُهُ إِنْسَانٌ إِنَّكَ وَلِيُّ الْعَطَاءِ

لاحق فرما ہمیں ان کی جلالت و بزرگی کے ساتھ ہر مشہد میں جس کو کوئی بھی انسان پا سکتا ہو بیشک تو مالک ہے عطا کا

وَالْإِمْتِنَانِ يَا مَعْطَى يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ اللَّهُمَّ الْحَقْنِي

اور احسان کا آئین۔ اے معطی۔ اے وہاب۔ اے حنان۔ اے اللہ مجھے لاحق فرما

بِنَسَبِهِ الرُّوحِيَّ وَحَقَّقْنِي بِحَسَبِهِ السُّبُوْحِيَّ وَعَرِّفْنِي آيَاتَ مَعْرِفَةٍ

ان کے روحانی نسب کے ساتھ اور مجھے قائم و پائیدار رکھ ان کے سبوحی مقدس حسب کے ساتھ اور مجھے ان کی پہچان کر

أَشْهَدُ بِهَا مَحْيَاةً وَأَبْصُرُ بِهَا مَحَلًّا كَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَأَسْلَمُ

کہ جس کے ساتھ مشاہدہ کروں ان کے روئے اقدس کا اور دیکھوں ان کے جمال و زینت کو جیسے وہ محبوب رکھیں اور پسند فرمادیں اور

بِهَا مِنْ وَرُودِ مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهِ وَكَرْعِ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ

مخوف ہوں بسبب اسکے ان کے عوارف و عطیات سے جمالت و لاعلمی کے موارد اور گھاٹوں میں وارد ہونے سے اور پیوں ان کے بحر کمال و فضل اور معارف میں داخل

الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهِ وَأَحْمِلْنِي عَلَى نَجَائِبِ لُطْفِكَ وَمَرَكَاتِ

بحر ان کے فضل و کمال اور معارف کے موارد اور گھاٹوں اور سواروں پر اور اپنی عنایت اور

حَنَانِكَ وَعَظْمِكَ وَسِرِّي فِي سَبِيلِهِ الْقَوِيحُ وَصِرَاطُهُ الْقَوِيحُ

مہربانی کی اونٹنیوں پر اور چلا مجھے ان کے راہ راست پر اور پائیدار شاہراہ پر

حَضْرَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ الْمُتَّبِعَةِ بِتَبَجُّدِكَ

طرف ان کی بارگاہ اقدس کے جو متصل ہے تیری بارگاہ مقدسہ کے ساتھ در آنجا لیکہ عظمت پائے والے ہیں تیری

مَحَاسِنُهُ إِلَّا نَسِيَّةً حَبْلًا مَّحْفُوفًا بِجَنُودِ نَصْرَتِكَ مَصْحُورًا بِعَوَالِمِهِ

عطا کردہ عظمت کے ساتھ ان کے معائنہ اسبہ۔ اس طرح پر سوار فرمانا جو گھرا ہو تیری نصرت کے لشکروں میں ہم صحبت ہو

أَسْرَارِكَ وَأَقْدَافِ بِي عَلَى الْبَاطِلِ بِأَنْوَاعِهِ فِي جَمِيعِ بُقَاعِهِ فَأَدْمِغَهُ

تیرے اسرار کے عوالم کا اور مجھے پھینک باطل پر بیع اس کے تمام اقسام کے تمام مقامات میں پس اس کو نیست و نابود

بِالْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحَقِّ وَزُبَّرِي فِي بِحَارِ الْأَحْدِيثِ السَّحِيطَةِ

کردوں ساتھ حق کے ایسے طریقہ پر جو موزوں و مناسب ترین ہو۔ اور مجھے کھینچ لے احدیت کے سمندروں میں جو محیط ہیں

بِكُلِّ مُرَكَّبٍ وَبَسِيطٍ وَأَنْ شُلِّنِي مِنْ أَحْوَالِ التَّوْحِيدِ إِلَى فَضَاءِ

ہر مرکب اور بسیط کو اور مجھے چلا توحید کے احوال سے تفرید کی فضاء کی طرف

التَّفْرِيدِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَأَعْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ

جو منزہ ہے اطلاق اور تقیید سے اور مجھے مستغرق فرما بحر

الْوَحْدَةِ شَهْوَةً أَحْتَى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ وَلَا أَحْدُ وَلَا أَحْسِسُ إِلَّا بِهَا

وحدت میں از روئے شہود کے حتی کہ میں نہ دیکھوں اور نہ سنوں۔ نہ پاؤں اور نہ محسوس کروں مگر اسی

نُزُولًا وَصُعُودًا كَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَنْ يَزَالَ وَجُودًا وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ

وحدت کو حالت نزول میں بھی اور حالت صعود و ترقی میں بھی جیسے وہ اب واحد ہے ایسے ہی ہمیشہ رہے گا۔ اور بنا کے

الْحِجَابِ الْأَعْظَمِ حَيَاةَ رُوحِي كَشْفًا وَعَيَانًا إِذَا مَرَّ كَذَلِكَ رُوحِي

اے اللہ حجاب اعظم کو میرے روح کی حیات از روئے کشف اور معاینہ کے کیونکہ حقیقت حال اسی طرح ہے تیری رحمت

مِنْكَ وَحَنَانًا وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ سِرَّ حَقِيقَتِي ذَوْقًا وَحَالًا

و عنایت سے اور بنا دے اے اللہ میری حقیقت کے سر و باطن کو سراپا ذوق اور حال اور اسکی حقیقت

جَامِعَ عَوَالِمِي حَالًا وَمَالًا وَحَقَّقْنِي بِذَلِكَ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِحَقِّقِي

کو میرے تمام عوالم کی جامع از روئے حال کے اور مال و انجام کے اور مجھے متحقق اور پائیدار فرما اس حقیقت جامعہ کے ساتھ بسبب

الْحَقِّ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَاهِهِ

حقیقت اس حق کے جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی پس سوال کرتے ہیں تجھ سے لے اللہ بظہیر ان کی

لَدَيْكَ وَبِكِرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيرَ قَوْلَ الْبِنَاءِ بِأَفْعَالِهِ وَأَسْمَاعِنَا

عزت و حرمت کے تیرے ہاں کہ آباد فرمائے ہمارے ڈھانچوں کو ان کے افعال کے ساتھ اور ہمارے کانوں کو

بِقَوْلِهِ وَقُلُوبَنَا بِأَنْوَارِهِ وَأَرْوَاحَنَا بِأَسْرَارِهِ وَأَشْبَاحَنَا

ان کے اقوال کے ساتھ اور قلوب کو ان کے انوار کے ساتھ اور روحوں کو ان کے اسرار اور اجسام کو

بِأَحْوَالِهِ وَسَرَائِرِنَا بِمَعَامَلَتِهِ وَبِوَاطِنِنَا بِشَاهِدَتِهِ وَأَبْصَارِنَا

ان کے احوال کے ساتھ اور ہمارے سرائر کو ان کے معاملہ اور بواطن کو ان کے مشاہدہ اور نگاہوں کو

بِأَنْوَارِ مُحَيَّا جَمَالِهِ وَخَوَاتِمِ أَعْمَالِنَا فِي مَرْضَاتِهِ حَتَّى

ان کے چہرہ کے انوار جمال کے ساتھ اور ہمارے آخری اعمال کو ان کی رضا مندی میں حتیٰ کہ

نَشْهَدَكَ بِهِ وَهُوَ بِكَ فَأَكُونُ نَائِبًا عَنِ الْحَضْرَتَيْنِ بِالْحَضْرَتَيْنِ

ہم مشاہدہ کر لیں تیری ذات کا ان کے ذریعے اور ان کا تیرے ذریعے پس ہو جاؤں میں نائب اور خلیفہ دونوں بارگاہوں کا ان دونوں

وَأَدُلُّ بِهِمَا عَلَيْهِمَا وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّيَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَوةً

مشاہدوں کے ذریعے اور دوسروں کی رہنمائی کر سکوں ان دونوں شہودوں کے ذریعے ان دونوں بارگاہوں پر اور سوال کرتے ہیں تجھ سے لے اللہ

وَسَلَامَةً يَلِيْقَانِ بِجَنَابِهِ وَعَظِيمٍ قَدْرِهِ وَتَجْمَعُنِي بِهِمَا عَلَيْهِ

کہ ان پر صلوات و سلام بھیجے جو ان کی بارگاہ اور عظیم قدر کے لائق اور شایاں ہوں۔ اور جمع کرے مجھے ان کی بدولت ان کے ساتھ

وَتَقَرَّبَنِي بِخَالِصٍ وَدِّهْمًا لَدَيْهِ وَتَتَفَحِّنِي بِسَبَبِهِمَا نَفْحَةً

اور مقرب ٹھہرائے ان کے ہاں اس صلوات و سلام کی خالص محبت کے ذریعے اور عطا کرے ان کے سبب

الْأَتْقِيَاءِ وَتَمْنَحْنِي مِنْهُمَا مَنَحَةً الْأَصْفِيَاءِ وَأَجْعَلِ اللَّهُمَّ دَلَالَتَنَا

اتقیاء والا عطیہ اور مہرب کرے ان دونوں کی وجہ سے اصفیاء والا مہرب اور لے اللہ بنا دے

عَلَيْكَ بِهٖ وَمَعَامَلَتَنَا مَعَكَ مِنْ أَنْوَارِ مَتَابِعَتِهِ وَنَسْتُكَ الشَّفَاعَةَ

ہماری رہنمائی تیری ذات کی طرف ان کے ذریعے اور ہمارا معاملہ ساتھ تیرے ان کے انوار متابعت کے طفیل اور سوال کرتے ہیں تجھ سے

وَالرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ وَالْعَفْوَ وَالرَّأْفَةَ الْعَامَّةَ الْكَامِلَةَ وَالشَّرِيفَةَ

شفاقت رحمت شاملہ کا اور عفو کا اور رحمت کاملہ تامہ کا اور توفیق کا

إِلَى طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سَبِيلِهِ بِكَ مُعَانِيٍّ مِّنْ جَمِيعِ مَا لَا يُرْضِيهِ

ان کی اطاعت کیلئے اور ان کے راستہ کی اتباع کے لیے ساتھ تیری ذات کے درآغا لیکہ معافی دئے گئے ہوں ان تمام امور سے جو ان کیلئے پسندیدہ نہ

مُسْتَهْلِكًا جَمِيعَ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ الْبَاطِنَةَ وَالظَّاهِرَةَ مِنْ قَدَارِكِهِ

ہوں اور ہلاک و فناء کرنے والے ہوں تمام حرکات و سکنات ظاہرہ و باطنہ کو جو سرزد ہوں اپنے مدارک سے

أَبَدًا فِي مَرَاضِيهِ مُشَاهِدًا لَّهِ بِهِ مَا دَامَ دَوَامُهُ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ

ہمیشہ ان کی رفا مندلیوں میں درآغا لیکہ مشاہدہ کرنے والا ہو اس کا ساتھ اسی کے جب تک کہ اس کا دوام ہے تاکہ پہنچ جائے یہ عبد

بِذَلِكَ رِضَاً وَرِضَاكَ إِتْسَامًا بِعِبُودِيَّتِهِ وَقِيَامًا بِبَعْضِ وِفَاءِ

اس ذریعے سے ان کی رضا اور تیری رضائیک امتیازی نشان حاصل کرتے ہوئے اس کی عبودیت کا اور قائم رکھتے ہوئے اس کے

حُقُوقِ رَبُوبِيَّتِهِ حَسْبًا يُمْكِنُهُ مِنْ طَاقَتِهِ مَعَ تَرْجِيحِ ذَلِكَ

حقوق ربوبیت میں سے بعض کے ایفاء کو مطابق اس عبد کی ممکنہ قوت و طاقت کے بمع ترجیح دینے اس کے ساتھ

بِنُوعِ قَابِلِيَّتِهِ وَبِقُوْرِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْحَبِّ الْعَامِّ وَلَوْازِمِهِ وَ

ایک قسم کی قابلیت اور استعداد عبد کے اور اس کے فوری حقدہ پلنے کے جب عام سے اور اس کے لوازم سے اور

الْخَاصِّ وَمَعَالِمِهِ لَكَ وَلِرَبِّكَ بِالْغَايَةِ ذَلِكَ رُتْبَةُ الْفَنَاءِ فِيهِ

حب خاص اور اس کے معالم سے واسطے آپ کے اور آپ کے رب جلیل کے کہ پہنچنے والا ہو یہ عبد اس حب عام و خاص کے

وَالْفَنَاءِ عَنِ الْفَنَاءِ بِشُهُودَةِ آيَاتِهِ فِي حَضْرَةِ وَحْدِيَّتِهِ بِالْبَقَاءِ

ذریعے رتبہ فنا فی اللہ تک بلکہ فنا عن الفناء کے رتبہ تک بسبب اس کے مشاہدہ کے ساتھ اسی کے اس کی بارگاہ یتانی میں بمع بقا

مَعَهُ فِي جَمِيعِ مَعَالِمِهِ وَمَشَاهِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

باشد ومع اللہ کے تمام معالم و مشاہدہ میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ بِأَهْدَىٰ سَبِيلِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اپنی کامل ہدایت والے

وَحَصَّهُ اللَّهُ بِمَا لَمْ يَخْصُ بِهِ أَحَدًا مِّنْ رُّسُلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راہوں کی اور مخصوص ٹھہرایا ان کو ایسے کمالات کے ساتھ کہ نہیں مخصوص کیا ساتھ ان کے کسی رسول کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اجْلِسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو بٹھایا گیا کرتی

الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جلال پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أُقِيَّتْ عَلَيْهِ هَيْبَةُ الرِّسَالَةِ وَأُعْطِيَ مِنْبَرَ الْكِرَامَةِ فِي

جن پر ڈال گئی تھی جلالت و ہیبت رسالت کی اور جنہیں عطا کیا گیا منبر کرامت کا

عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

قیامت کے میدانوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ غُرِسَتْ لَهُ

آل پر جو محبوب بہتر ہیں ان سب سے جو عطا کئے گئے کتاب و سنت اور جن کے لیے لگائے گئے

ثَمَارُ الْجَنَّةِ وَخَيْرِ مَنْ حُلِيَ بِالْمَحَلِيِّ الْأَعْلَىٰ وَمَنْ رُفِعَتْ لَهُ الدَّرَجَاتُ

جنت میں پھل دینے والے پودے اور جو بہتر ہیں ان سب سے جو آراستہ کئے گئے بلند شان زیورات کے ساتھ اور جن کے لیے بلند

الْعُلَىٰ خَيْرِ شَفِيعٍ وَمُشَفِّعٍ وَرَفِيعٍ وَمَرْفِعٍ وَمَقْصُودٍ وَمَرْغُوبٍ وَ

کئے گئے اعلیٰ درجات۔ بہترین شفیع۔ بہترین مقبول الشفاعت۔ بہترین بلند مرتبت اور بندیوں پر فائز کئے ہوئے

حَبِيبٍ وَمَحْبُوبٍ وَخَيْرِ مَنْ تَحَلَّىٰ بِحُلَّةِ الْكَمَالِ وَمَنْ تَقَلَّدَ

سب سے افضل مقصود و مرغوب اور حبیب و محبوب اور بہتر سب سے جو آراستہ ہوئے خلعتہائے کمال کے ساتھ اور جنہوں نے گلے میں ڈالے

قَلَائِدَ التَّوَالِ وَالْأَفْضَالَ وَمَنْ يُرْجَىٰ بِهِ دَفْعُ الْعُظَايِمِ وَ

جو دو نوال والے ہار اور جن سے امید کی جا سکتی ہے عظیم مصائب کے دور کرنے کی اور

لَيْلِ الْمَكَارِمِ وَمَنْ سَبَا وَتَسْتَبِي وَمَنْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ

مکارم و بزرگ اخلاق کے پانے کی اور جو بلند مقام پر فائز ہوئے اور بلندی و رفعت کے لیے سعی کی اور جن کیلئے کھولے گئے

السَّمَاءِ خَيْرَ الْأَخْيَارِ وَخَيْرِ الْأَيْرَامِ وَخَيْرِ الدِّينِ وَخَيْرِ

آسمان کے سبھی دروازے۔ جو نیک سیرت لوگوں سے بہتر و برتر ہیں اور محسنین سے منتخب اور مختار۔ اہل دین سے مختار اور

الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِينَ وَخَيْرِ السُّعْدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَخَيْرِ مَنْ

اولین و آخرین کے مختار، سعداء اور شہداء سے مختار اور

أَمَّنَ بِاللَّهِ وَاهْتَدَى وَخَيْرِ مَنْ خَضَعَ لِلَّهِ وَتَوَاضَعَهُ وَمَنْ جَدَّ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر ایمان لانے والے اور ہدایت پانے والے کے سردار۔ اور اللہ تعالیٰ کیلئے انکساری و تواضع کرنیوالوں کے سردار اور جنہوں

فِي الْخَيْرِ وَسَارِعَ وَخَيْرِ مَنْ حَصَلَ لَهُ جَزِيلُ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّ

نے جدوجہد کی غیر میں اور مسارعت سے کام لیا ان کے سردار اور متران سب کے جنہیں حاصل ہوا ثواب جزیل رب

الْأَرْبَابِ وَخَيْرِ مَنْ اتَّقَى وَخَيْرِ مَنْ سَنَّ السُّنَنَ وَخَيْرِ مَنْ

الارباب کی طرف سے اور بہتر سب اہل اتقاء سے اور متر سب سنن کے جاری کرنے والوں سے۔ بہتر ان سب سے

شَهَرَ الدِّينَ وَخَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَخَيْرِ مَنْ

جنہوں نے دین کی تشہیر کی اور بہتر ان تمام حضرات سے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا خفیہ اور علانیہ اور بہتر ان سب سے

أَسَدَى مَعْرُوفًا إِلَى الْأَنْبَاءِ وَأَحْسَنَ وَخَيْرِ الرُّسُلِ الْبَشَرِيِّينَ وَ

جنہوں نے پہنچائی خبر مخلوق تک اور احسان کیا اور جو بہتر ہیں تمام رسل بشری اور

الْمَلَائِكِيِّينَ وَخَيْرِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَخَيْرِ الْمَعْرُضِينَ وَ

ملکی سے اور بہتر و برتر ہیں تمام مخلوق سے اور بہتر و برتر ہیں (ماسوا اللہ سے) اعراض کرنے والوں اور

الْمَوْحِدِينَ الْعَارِفِينَ الْوَاصِلِينَ الْكَامِلِينَ الْمَكْرَمِينَ

اہل توحید۔ ارباب عرفان اصحاب وصول۔ اہل کمال و تکمیل

الزَّاهِدِينَ الصَّابِرِينَ الْقَانِعِينَ الشَّاكِرِينَ

ارباب زہد و صبر اور اصحاب قناعت و شکر سے اور ارباب مشاہدہ

الْمُتَوَكِّلِينَ الْمُرَاقِبِينَ الْمُتَّقِينَ خَيْرَ أُولَى الْعِزْمِ وَخَيْرٍ مِنْ سَبَقِ

و توکل اور اہل مراقبہ و اتقا سے اور جو بہتر و برتر ہیں سب اولو العزم سے اور بہتر ہیں سابقین

وَلِحَقِّ وَمَنْ حَبَّ وَلِئِي وَخَيْرِ الْأَوَائِلِ وَالْآخِرِ وَالْمُمَكِّنَاتِ وَخَيْرِ

و لاحقین سے اور حج کرنے اور تلبیہ کئے والوں سے اور بہتر و برتر ہیں اوائل وواخر سے اور تمام ممکنات سے اور بہتر

عَاصِمِهِ وَخَيْرِ الْعَبِيدِ وَخَيْرِ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ وَخَيْرِ

ہیں ہر صاحب عصمت سے اور تمام بندگان خداوند تعالیٰ سے بہتر اور بہتر ہیں زمین پر قدم رکھنے والوں سے اور بہتر ہیں

الْبَرِيَّةِ وَخَيْرِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ وَخَيْرِ مَنْ

دونوں فریق (عرب و عجم) سے اور بہتر ہیں ساری مخلوق سے اور بہتر ہیں ان تمام سے جن پر تو نے صلوٰۃ بھیجی اور جن پر وحی نازل فرمائی

أُرْسِلَ أَوْ تَنَبَّأَ وَمَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَخَيْرِ مَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَمَنْ

اور بہتر ہیں ان تمام سے جو رسول بنائے گئے یا نبی بنے اور جو سوار ہوئے سواروں پر اور بہتر ہیں ان تمام سے جن پر تو صلوٰۃ بھیجے گا اور جن

تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَبَارَكَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ خَيْرِ الصَّلَوةِ وَتَسْلِيمًا

پر سلام بھیجے گا اور جن پر برکت نازل کرے گا ایسی صلوٰۃ جو تمام صلوات سے بہتر اور ایسا سلام جو

خَيْرِ التَّسْلِيمَاتِ وَبَرَكَهٌ خَيْرِ الْبَرَكَاتِ وَخَيْرِ أَهْلِ الرِّضَاءِ وَ

تمام تسلیمات سے بہتر ہو اور ایسی برکت جو تمام برکات سے بہتر اور جو بہتر و برتر ہیں اہل رضاء و

التَّسْلِيمِ وَأَهْلِ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْحُبِّ وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ

تسلیم سے اور اہل ورع اور اہل علم و عقل اور حب سے اور اہل فنا و بقاء سے

وَخَيْرِ أَصْحَابِ الْمَكَاشِفَةِ وَأَرْبَابِ الْمَعَايِنَةِ وَخَيْرِ الْكُلِّ فِي

اور بہتر و برتر ہیں اصحاب مکاشفہ اور ارباب معائنہ سے اور بہتر و برتر ہیں تمام مخلوق سے

الْكُلِّ وَخَيْرِ النَّبِيِّينَ وَالرَّاضِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْمُحِبِّينَ

تمام کمالات میں اور بہتر و برتر ہیں تمام انبیاء سے اور ارباب رضا سے۔ اولین و آخرین سے اور مجبین

الْمُحِبُّونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و محبوبین سے۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْمَحْبُوبِينَ وَالْمَحْبُوبِينَ أَنْ تَنْظُرَنِي بِعَيْنِ الْحُبِّ وَ

جو بہتر و برتر ہیں تمام محبین و محبوبین سے کہ تو مجھے دیکھے حب و

الْقُرْبِ وَالْوَصْلِ وَفِي إِيمَانِي وَإِسْلَامِي وَإِحْسَانِي وَدِينِي وَدُنْيَايَ

قرب اور اوصل کی نگاہ سے اور نظر فرمائے میرے ایمان و اسلام اور احسان میں میرے دین و دنیا

وَآخِرَتِي وَعَلَيْهِ وَعَمَلِي وَرَجَائِي وَشِفَائِي وَقُوَّتِي وَصِحَّتِي وَ

اور آخرت میں۔ میرے علم و عمل اور رجاہ و شفا میں۔ میری قوت اور صحت و

عَافِيَتِي وَجَسْمِي وَرُوحَانِيَّتِي وَوَجُودِي وَحَيَاتِي وَصِفَاتِي وَ

عافیت میں۔ میرے جسم و روحانیت اور وجود میں میری حیات و صفات اور

قِيَامِي وَكَلَامِي وَحَالِي وَخِيَالِي وَكِبَالِي وَمَقَامِي وَفِي ذُوقِي وَشَوْقِي

قیام و کلام میں۔ میرے حال و خیال اور کمال و مقام میں میرے ذوق و شوق

وَمَعْرِفَتِي وَوَحْدَتِي فَلَا تُوسِّلْ إِلَيْهِ كَالظِّلِّ أَوْ الْجُزْءِ أَوْ الْجُزْئِي

اور معرفت و وحدت میں پس میں نہ توسل کروں مگر ساتھ انہیں کے مانند توسل و تطفل سایہ کے یا جز کے یا

فَتَوَسَّلُوا بِمَا اتَّوَسَّلُ بِهِ اللَّهُ رَانِي أَحْمَدُكَ عَنْ شَرَفِ تَوَسُّلِي

جزئی کے پس تم بھی توسل کرو (اے میرے متعلقین) ساتھ انہیں کے جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں مجھے توسل

بِأَشْرَفِ الْوَسَائِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِينُكَ فِي

کا شرف بخشنے پر ساتھ اشرف الوسائل محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں

جَمِيعِ أُمُورِي اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ إِذَا نَصَرْتَ وَأَعَنْتَ لِعَبْدِكَ وَ

اپنے تمام امور میں۔ اے اللہ تیری رحمت (کی اعانت درکار ہے) جب تو نصرت و اعانت فرمائے اپنے اس عبد

فَقِيرِكَ الْمُتَوَجِّهِ إِلَيْكَ فَحَصَلَتْ لَهُ إِطَاعَةٌ كُلُّ مَوْجُودٍ عَلَوِيًّا

کی اور فقیر کی جو متوجہ ہے طرف تیری پس حاصل ہوئی اسے اطاعت ہر موجود علوی

كَانَ أَوْ سَفَلِيًّا كَأَعَانَةِ رَحْمَتِكَ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ

اور سفلی کی مانند تیری رحمت کی اعانت کے واسطے سلیمان علیہ السلام کے جبکہ وہ بھی

كَانَ وَاحِدًا مِّنْ أَبْنَاءِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَخَّرَتْ لَهُ الرِّيحَ وَالْجِبْنَ

ایک فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پس تو نے مسخر فرما دیا ان کے لیے ہوا۔ جن

وَالطُّيُورَ مَعَهُ وَقُوفَهُ عَلَى أَصْوَاتِهِمْ وَطَيْرَانُ سِرِيرَةٍ فِي الْهَوَاءِ مِنْ

اور پرندوں کو۔ مع ان کے وقت ہونے کے ان کی بوکیوں پر اور ان کے تخت کا ہوا پر اڑنا

مَحْضٍ رَحْمَتِكَ عَلَيْهِ بِتَوْجُّهِهِ إِلَيْكَ بِصَدَقِ الْقَلْبِ وَالْإِخْلَاصِ

محض ان پر تیری رحمت کا نتیجہ ہے بسبب متوجہ ہونے ان کے تیری طرف ساتھ صدق قلب اور اخلاص کے

مَعَ أَنَّهُ كَانَ بَشَرًا ابْنُ بَشَرٍ مِّنْ نَّبِيِّ كَسَائِرِ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ

باوجودیکہ وہ بھی بشر تھے اور بشر نبی کے بیٹے تھے مانند دوسرے انبیاء کے بیٹوں کے

الْأَسْبَاطِ لَا مَلْكَاهُ يَأْمُرُ الْبَدَأَ لِمُتَدَّ فِي أَنْشَاءِ عَوْنًا

اسباط میں سے نہ کہ فرشتے تھے۔ اے انوکھی اشیاء کے از سر نو ایجاد کرنے والے نہیں چھوڑی تو نے ان بدائع کے پیدا کرنے میں عانت

مِنْ خَلْقِهِ وَأَبْدَعَتْ الصَّنَائِعَ بِذَاتِهِ الصَّمِدِ الْغَنِيِّ مِنْ كُلِّ

کی (مخالف) اپنی مخلوق کے لیے اور ایجاد کیا از سر نو صنائع کو اپنی بے نیاز ذات کے ساتھ جو غنی و بے نیاز ہے ہر

أَلَةٍ وَشَرْطٍ مُّتَوَقِّفٍ عَلَيْهِ وَعِلَّةٍ حَتَّىٰ أَبْدَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ بِهَيْئَاتِ

آلہ اور شرط سے۔ متوقف علیہ اور علت سے حتیٰ کہ تو نے پیدا فرمایا ہر شئی کو مختلف ہیئات

مُخْتَلِفَةٍ وَالْوَانِ مُتَنَوِّعَةٍ وَأَشْكَالٍ مُّتَجَنِّسَةٍ وَصُورًا أَنْسِيَّةً

اور انواع و اقسام کے رنگوں میں اور مختلف اجناس کی اشکال میں اور مختلف انسانی صورتوں میں

بِأَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَبْدَعُ سِيرَةٍ فِي مَلَكُوتٍ مُّتَلَاكِنَةٍ بِرَاقَةٍ بِحَيْثُ

انتہائی حسین صورت اور انوکھی سیرت کے ساتھ ایسے ملکوت میں جو روشن اور چمکدار ہے یہاں تک

تَغْيِبِ الشَّمْسِ مَعَ شُعَاعَاتِهَا فِي بَرَاقَتِهَا الْجَلَالِيَّةِ هَذَا هُوَ

غائب ہو جاتا ہے سورج مع اپنی شعاعوں کے ان کی جلالی چمک و دمک میں یہی ہیں

الْأَثَارُ مِنَ الْبَدَأِ إِلَهِيَّةٍ وَأَيْنَ الْعَوْنُ الْخَلْقِيُّ النَّاسُوتِيُّ

آثار اللہ تعالیٰ کی انوکھی ایجادات کے اور کیا حیثیت ہے مخلوق کی اعانت کی جو خود جسمانی

الصَّلَاحِي وَالْجِنِّي النَّارِيُّ بَلْ كُلُّ عَوْنٍ هَالِكٌ تَخْتَلِفُ

ارضی لباس والی ہے یا جنوں کی جو مادہ تار سے بنے ہیں بلکہ ہر عون و اعانت فانی و ہالک ہے نیچے تیری عنایت

عَوْنٍ عِنَايَتِكَ الْكَلْبِيَّةِ وَالْجُرَيْيَةِ الْمُرَادَةُ عِنْدَ

کلبیہ و جزیئہ کی عون نے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے وقت

اِيْجَادِ كُلِّ نَوْعٍ وَّابْدَاعِ كُلِّ عَجِيْبٍ وَّاخْتِرَاعِ كُلِّ هَيْئَةٍ مَعَهُ

ایجاد کرنے ہر نوع کے اور از سر نو پیدا کرنے پر عجیب شئی کے اور اختراع کرنے ہر ہیئت کے مع

لَوْ اِزْمَ شَخْصِيَّةٍ وَبِخَلْقِ قَابِلِيَّةٍ مُتَجَدِّدَةٍ اِضَافَاتُهَا وَنَسَبُهَا

اس کے لوازم شخصیت کے اور ساتھ پیدا کرنے قابلیت کے ہر وقت بدلتی ہیں جس کی اضافتیں اور نسبتیں

هَالِكَةٌ فِي عَيْنٍ وَحُدَّةٌ تَائِسَةٌ مِّنْ يِّنَا بَيْعٌ جَدَّ اَوَّلِ جَامِعَةٍ فِي

وہ ہلاک ہونے والی ہیں عین وحدت میں جو پیدا ہونے والی ہے ان جد اول کے سرچشموں سے جو جمع ہونیوالی ہیں

بَحْرٍ اَحَدِيٍّ هُوِيٍّ وَمَمْطُوْسٍ لِّكُلِّ جُرَيْيٍ مِّنْ نُّوْعٍ اَوْ جِنْسٍ اَوْ

ہویت احدیہ کے سمندر میں اور وہ سمیٹنے والوں سے ہے واسطے ہر جزیئہ کے نوع سے ہو یا جنس یا

شَخْصٍ حَسَنٍ اَوْ قَبِيْحٍ كَامِلٍ اَوْ نَاقِصٍ طَوِيْلٍ اَوْ قَصِيْرٍ وَمَطْوِيَّةٍ

شخص سے خوبصورت ہے یا بدصورت کامل ہے یا ناقص اور دراز ہے یا کوتاہ اور سمی اور لمبی ہے

فِي تَسْوِيَةٍ جِهَةٍ وَّاِحْدَةٍ مُّضْبِحَةٍ ثُمَّ ظُهُورُهَا وَتَنْشِيْرُهَا عِنْدَ

جہت واحدہ کی ہمواری میں جہاں پر اس کا ظہور اور نشرو اشاعت مضمحل اور بے اثر ہے وقت

تَفِيْحٍ وَنَفِيْحٍ هُوَ عَلَامَةٌ نُّشْرٍ وَوَجُوْدٍ اِضَافِيَّةٍ وَنَسَبِيَّةٍ تَرَا جَعَلَهُ

پیدائش پھولوں کے اور مہکتے پھولوں کے جو علامت ہے نشرو وجود کی جو علامت کہ اضافی و نسبی ہے راجع ہے

اِلَى تَقْيِيْدِهَا وَمَرَاكِزِهَا عَلٰى هَيَاةِ النُّشَاةِ الْمَفْصَلَاتِ الْمُنْضِيْعَاتِ

طرف تقیید کے اور اس کے مراکز کے مانند ہیئات مفصلات کی نشاۃ کے جو جاری و ساری ہیں

الْمُشَخَّصَاتِ الْمُمْتَبِزَاتِ فَهَذِهِ الْبَدَائِعُ اَعْجَبُ اَخْلَاقًا وَاَوْصَافًا

اور مشخص اور متمیز ہیں پس یہ بدائع پسندیدہ تر ہیں از روئے اخلاق و اوصاف کے

فِي الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتٍ وَخَوَارِقٍ فِي الْأَوْلِيَاءِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَيَّ

انبیاء علیہم السلام میں۔ اور کرامات و خوارق عادات ہیں اولیاء کرام میں بغیر موقوف ہونے

عَوْنِ أَحَدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِكَ وَعَلَى شَرْطٍ مِّنْ شَرَائِطٍ فَجَعَلْتَ

کے اور پر اعانت کسی فرد کے تیری مخلوقات میں سے اور اوپر کسی شرط کے شرائط میں سے پس کیسے تو نے

مَصْنُوعَاتِكَ مَوْجُودَةً مِّنْ مَّحْضِ جُودِكَ وَلَطْفِكَ حَتَّىٰ

اپنے مصنوعات کو موجود محض اپنے جود اور لطف سے حتیٰ کہ

يَتَعَجَّبُ خَلْقِكَ فِيَّ إِنِّي مَتَىٰ أَصَبْتُ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَالْبِدَائِعِ

تعجب کرتی ہے تیری مخلوق اس میں کہ کہ میرے جیسے عبد نے کب سے پائے یہ مراتب اور اولیٰ مقامات

وَحَتَّىٰ يَتَحَقَّقَ عَلَيَّ مِنْ مَّحْضِ هِدَايَتِكَ وَإِرْشَادِكَ مِنْ غَيْرِ

اور حتیٰ کہ متحقق ہو گئے مجھ میں محض تیری دلالت اور رہنمائی سے بغیر

جُهْدٍ طَوِيلٍ وَجِدِّ كَثِيرٍ بَلْ فِي لَمِحَةٍ دُونَ لَمِحَةٍ إِذَا لَمْ يَنْصَرِعْ عَوْنُكَ

طویل مشقت کے اور کسی بڑی کوشش کے بلکہ صرف ایک لمحہ میں بغیر دوسرے لمحہ کے۔ اگر تیری اعانت شامل حال نہ ہو

فَبَاعُونَ الْغَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تو دوسروں کی اعانت کیا ہے؟ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةَ الْأَسْرَارِ وَمَنْبِعِ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جس محبوب کی بارگاہ بارگہ اسرار ہے اور سرچشمہ انوار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ وَالنَّاهِي وَالْمُؤَيَّدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب امر و نہی ہیں اور مدد الٰہی سے

بِالْمَدَدِ الْإِلَهِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تائید و تقویت پانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَائِرَةِ السَّعَادَاتِ وَشَهَابِ قَيْسِ الْعِنَايَاتِ

آل پر جو آقا قطب و مرکز ہیں سعادت کے دائرہ کے اور عنایات الٰہیہ کے دستے الوار کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب ماہ تمام ہیں

جَلَّالِ اللَّهِ وَإِعْظَامِهِ وَتُورِهِ جَلَّالِ اللَّهِ وَإِنْعَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کے اور نور انور ہیں اللہ کے جلال و انعام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامَةً سَلَامَةً

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب جو ہر روح ہیں خلاصہ (کائنات) کی

وَخُلَاصَةَ الرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور خلاصہ رسالت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ نَفْسًا مِّنْ إِلَّا نَامٍ أَعَزَّ عَلَيْهِ

آل پر کہ نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نفس تمام مخلوق میں جو زیادہ عزیز و مکرم ہو اس کے

مِنْ نَفْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہاں آپ کی ذات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ مِثْلَهُ لَأَقْبَلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آپ کی مانند نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ قسم اٹھائی اللہ

عَزَّوَجَلَّ بِقَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عز و جل نے آپ کے قلب مقدس کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَدَّقَهُ اللَّهُ بِلَا أَمْتِرَ آءِ قَبَارِئِ مِنْ آيَاتِ

آل پر جن کو سچا ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش کے رب تعالیٰ کی ان آیات کبریٰ میں

رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو اپنے (شب معراج) دیکھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَوْدَعَهُ اللَّهُ أَسْرَارَ بَدِيْعِ

پر جس محبوب کی بخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان عظیم فرمایا اور ان میں ودیعت فرمائے انہی

الْحِكْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حکمت کے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَيْنَ اللَّهُ طَلْعَتَهُ السَّعِيْدَةَ وَخَصَّهُ اللَّهُ بِالْفَضَائِلِ

پر کہ جس محبوب کی طلعت سعیدہ کو اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی اور مخصوص ٹھہرایا انہیں بہت فضائل

الْعَدِيْدَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَتْ أَنْوَارُهُ جَوَانِحَ الصُّدُوْرِ وَعَظُمَتْ بِهِ الْحَسَنَاتُ

کہ جس محبوب کے انوار نے بھر دئے ہیں خلایق کے سینوں کے تمام جوانب و اطراف بھی اور جن کی بدولت عظیم ہو گئیں نیکیاں

وَالْأَجْوَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور ان کے اجر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَنَارَتْ الْكُوْنُ بِنُوْرِهِ وَأَشْرَقَ الْحَقُّ بِطَالِعِهِ

پر کہ جس محبوب کے نور کے ساتھ روشنی حاصل کی تمام جہان نے۔ اور جگہ جگہ اٹھا حق و صدق ان کے ظہور والے

ظُهُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ستارہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَطْلَعَ اللَّهُ السَّعْدَ بِطَالِعِ عِزَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ طلوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے سعادت اور نیچھتی کو ان کی عزت و حرمت کے ستارے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّنَ اللَّهُ الْيَمْنَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے مقرون و متصل کر دیا ہے برکت

وَالْتَوْفِيْقَ بَيْنَ طَلْعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور توفیق کو ان کی طلعت کے یمن و برکت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَشَرَتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ النُّصْرَةِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب پر پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پرچم نصرت اور

السَّعَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سعادت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ حِزْبَهُ وَأَجْنَادَ لَا وَقْرَ لَهُ

کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کو بنا دیا ہے ان کا لشکر اور عساکر اور انہیں اپنے قریب کیا

مَوْلَاهُ وَنَاجَاةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اپنے مولیٰ نے اور سرگوشی فرمائی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اتَّيَمَّنَهُ اللَّهُ عَلَى كَشْفِ الْحَقَائِقِ وَارْتِضَاءِ

اطہار پر کہ امین بنایا اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو کشف حقائق پر اور چن لیا انہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو

وَهَبَهُ اللَّهُ الشَّرْفَ الْأَكْبَرَ وَتَرَدَّى بِرِدَائِهِ الْكَمَالَ وَاتَّزَرَ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بہت بڑا شرف اور جنہوں نے کمال والی چادر اوڑھی اور اس کی تہمد باندھی۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُعْطَاهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ جَمِيعَ مَطْلَبِهِ وَقَصْدِهِ وَأَثَبَتْ اللَّهُ فِي دِيْوَانِ مَجْدِهِ وَتَنْزِيهِهِ

اس محبوب کو ان کے تمام مطالب اور مقاصد۔ اور ثبت فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نامی کو اپنے بزرگی

عَهْدِهِ وَوَعْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور پاکیزہ عہد و پیمان کے دیوان میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طُبِعَ عَلَى الْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَالْقَلْبِ الشَّامِخِ

امجاد پر کہ جو محبوب پیدا کئے گئے ہیں خلق عظیم پر اور قلب شامخ پر اور

جِبِلَّ عَلَى الطَّبَعِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے خیر و طینت میں شامل کیا گیا ہے جو دو کرم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حَقَّهُ أَكْبَرَ الْحَقُّوقِ وَجَمَعَهُ

آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ان کے حق کو تمام حقوق سے عظیم تر اور اس نے جمع کر دئے

اللَّهُ فِيهِ مَا لَمْ يَجْمَعُهُ فِي مَخْلُوقٍ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ میں وہ اعلیٰ کمالات جو نہیں جمع کئے کسی مخلوق میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمْسَكَ الْعَرْشُ بِيَمِينِهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ عرش خداوندی نے تھام لیا ان کا دایاں ہاتھ اور

أَلْبَسَ اللَّهُ آدَمَ تاجًا مِنْ نُبُوَّتِهِ عَلَى جَبِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تاج نبوت (ان کے نور سے) جبین آدم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَّتْ لِرِسَالَتِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل امجاد پر کہ سرنگوں ہو گئے ان کی بعثت رسالت کے وقت

الْأَصْنَامُ وَتَعَطَّلَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَزْلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اصنام اور معطل و بے اثر ہو گئے ان کے دعویٰ نبوت کے وقت فالوں والے تیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْجَزَ الْكُفْرَةَ بِآيَاتِ الصِّدْقِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے عاجز و بے بس کر دیا کفار کو آیات (کلام مجید) سے جو اہل ایمان کے سینوں میں

وَأَوَّلَهُ نُورًا وَآخِرَهُ نُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مغفوظ ہیں اور ان کا اول بھی نور ہے اور آخر بھی نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَيْرَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جس محبوب نے مٹا ڈالا بتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے مفروضہ مقابل اصنام کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْلَحَ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اصلاح فرمائی اللہ تعالیٰ نے

بِهِ مَا كَانَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِنَ الْفُسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے ذریعے خشکی اور تری میں موجود فساد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَمَ مِمَّنْ طَيَّبَ اللَّهُ لَهُ النَّفُوسَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو پائیدار ہیں ان تمام سے جن کے نفوس اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنائے اور

أَوْرَعَ مِمَّنْ أَدْفَعُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سب زیادہ صاحب پرہیز و احتیاط ہیں نفس و شیطان کا دفاع کرنیوالوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُهَانَ الْمَعَادِنِ الْجَوْهَرِيَّةِ وَأَكْسِيرِ الْعَوَالِمِ الْمَعْرُوفَةِ

آل پر جو محبوب جوہری معاون کی برہان ہیں اور معنوی جہازوں کی اکسیر ہیں

وَفَضَائِلِ سَمَاوِيَّةٍ وَمَعَانِي الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَحَدًا

ان کے فضائل سماوی اور بلند مرتبت ہیں اور اسرار الہیہ کے معانی اور مقاصد ہیں اور نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا کسی نے

بِالرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا ذَكَرَهُ بِالرِّسَالَةِ الْعَلِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَحَدًا بِالْأَحَادِيثِ

ربوبیت کے ساتھ مگر ان کا ذکر کیا ساتھ ہی رسالت عالیہ کے ساتھ۔ اور نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا کسی نے اس کی احادیث کے ساتھ

إِلَّا ذَكَرَهُ بِالْمَحْمَدِيَّةِ الْأَعْظَمِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مگر ساتھ ان کا ذکر کیا عظیم ترین اور بالاترین محمدیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنُزِ جَوَاهِرِ اللَّطَائِفِ وَنُورِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب خزانہ ہیں جواہر لطائف کا اور راز مخفی ہیں

عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ وَمُظْهِرِ أَنْوَارِ التَّجَلِّيَّاتِ وَعَنْصَرِ مَوَادِّ الْأَسْرَارِ

بلند مرتبت معارف کا۔ مظہر ہیں انوار تجلیات کا اور اصل و عنصر ہیں مواد اسرار کا

وَفَيْضِ جَدِّ أَوْلَى الْأَنْوَارِ أَوْلَى بِالْعَوَارِفِ وَالْبَشَرِيِّ وَهُوَ الْعَلَمُ

اور آب فیض ہیں انوار کے جد اول اور نالیوں کا۔ سب زیادہ ممتاز ہیں عارف و عطا اور بشارات واسطے عالمین کے

ذِكْرًا وَأَدْوَمِ الْخَلْقِ عِبَادَةً وَأَقْوَمَ مِمَّنْ قَامَ بِشَهَادَةِ رُؤُوسِ

از روئے ذکر کے اور سب مخلوق سے زیادہ مداومت کرنے والے ہیں عبادت پر اور سب اہل شہادت سے مضبوط ترین شاہد اور

مَنْ قَامَ بِالْحُدُودِ وَرُوحَ الْجُودِ وَسَبَاكَ السُّعُودِ وَأَفْضَلَ مَنْ

حدود قائم والوں میں سب سے زیادہ عادل ہیں روح جود نوال اور رفعت سعادت دیکھتی ہیں اور افضل ترین ہیں تمام

جَادَ بِالْعَطَايَا وَأَوْرَعَ مَنْ حَدَّ لِلْعَصَاةِ حُدُودًا وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ

عطیات کی سخاوت کرنے والوں سے اور زیادہ محتاط ہیں عاصیوں پر حدود قائم کرنے والوں سے اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے درمیان ان

وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَوْمِنْ بِهِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ستر اور حجاب اور قائم فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن

مَقَامًا مَحْمُودًا وَذَكَرَى اللَّهُ سُبْحَانَكَ فُؤَادًا وَجَوَارِحَهُ وَأَثْنًا اللَّهُ

مقام محمود پر اور پاکیزہ تر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور اعضاء مبارکہ کو اور ثنا کی ہے اللہ تعالیٰ

تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَلَى اخْلَاقِهِ الْمَحْمُودَةِ وَأَدَابِهِ وَأَفْصَحَ الْقُرْآنُ

نے کتاب عزیز میں ان کے اخلاق محمودہ اور آداب ستودہ پر۔ اور کھول کر بیان کیا ہے قرآن نے

بِجَبِيلٍ ذِكْرَهُ وَنَطَقَ الْقُرْآنُ بِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَقَدْرِهِ وَأَقْسَمَ اللَّهُ

ان کے ذکر جمیل کو اور قرآن نے نطق کیا ہے ان کے عظیم امر اور قدر کے ساتھ اور قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے

سُبْحَانَكَ بِحَيَاتِهِ وَلَمْ يُقْسِمْ بِحَيَاتِ أَحَدٍ غَيْرَهُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ

آپ کی حیات مبارکہ کی اور نہیں قسم اٹھائی تمام مخلوق میں سے ان کے علاوہ کسی کی زندگی کی

وَهَدَى اللَّهُ بِهِ الْخَلْقَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ وَلَمْ يَنْلُ ذَلِكَ

اور ہدایت دی ان کے طفیل مخلوق کو ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد اور یہ مقام

أَحَدٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ الْوَفَىٰ بِعَهْدِهِ وَالصَّادِقِ فِي وَعْدِهِ وَنَعْمَ

کسی دوسرے شخص نے نہیں پایا مخلوق میں سے۔ وہ وفا کرنے والے ہیں اپنے عہد کی اور صادق ہیں اپنے وعدہ میں اور

الرَّجُلُ شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِهِ وَحِرْصًا لِعِزَّتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَكَرَامَتِهِ

لائق مدح و ستائش ہیں از روئے شفاعت کے واسطے گناہگار ان اُمت کے اور از روئے حرص کے واسطے عزت و کرامت حاصل کرنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے رب تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

رَوْضَةَ الْجَمَالِ وَبَهْجَةَ الْكَمَالِ غَيْثِ النَّوَالِ وَلَيْثِ الْفَرَالِ حَمَالِ

باغ ہیں جمال کا۔ رولق ہیں کمال کی۔ موسلا دھار بارش ہیں جو دو نوال کی اور شیر ہیں میدان مبارزت کے اور جان

الْجَمَالِ وَغَايَةَ الْقَصْدِ وَالْأَمَالَ طَوِيلِ الطَّوْلِ وَصَالِحِ الْفِعْلِ وَ

جمال ہیں اور منتہی ہیں خلاق کے مقاصد اور امیدوں کا۔ وسیع قوت و استطاعت اور صالح عمل

الْقَوْلِ طَاهِي النَّوَالِ وَسَاهِي الْكَمَالِ قُرَّةَ الْعَيْنِ وَزَيْنَ كُلِّ زَيْنِ

و قول والے ہیں۔ عظیم جود والے۔ بلند کمال والے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہرزینت والے کی زینت

سَمَاءِ الْعُلَى وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَقَرِيبِ الْبَدَى حُسَامِ الشَّرِيعَةِ وَ

بلندی و رفعت کے آسمان۔ مولی کے محبوب اور قریب تر خیر و بھلائی والے۔ شریعت کی تیغ بے نیام اور

هَدَلِ الطَّرِيقَةِ وَمُدْجَاءِ الْعُصَاةِ وَظِلِّ الْعُفَاتِ مَا وَى

طریقیت کے ماہ تو۔ عاصیوں کی جائے پناہ۔ سائین کے لیے سایہ جو دو نوال

الْمَسَاكِينِ وَهَادِي الْمُضِلِّينَ تَاجِ الْمَدَائِحِ وَفَرْدِ الْمَنَاجِحِ

مساکین کا سہارا اور گمراہ کرنے والوں کے ہادی۔ صفات مدح کے تاج اور عطیات و انعامات میں یکتا۔

وَطَيْبِ الطَّيِّبِ وَالْمُبَرِّءِ عَنِ الْعَيْبِ وَالرَّيْبِ وَعَيْنِ الْغَيْبِ

اہل طہارت کی طہارت کے موجب۔ عیب اور شکوک سے میرا۔ سراپا غیب

الْمَكْنُونِ وَسِرِّ السِّرِّ الْمَصُونِ وَخَاتِمِ الْوُجُودِ وَفَلَكِ الْأَمَانِ

مکنون ہیں اور اسرار مضمونہ کی روح ہیں وجود کے لیے زینت۔ جو دو امان کے فلک دائرہ۔

وَالْجُودِ دَائِرَةِ التَّوْحِيدِ وَهَالَةِ الْهَيْكَلِ السَّعِيدِ بَدْرِ التَّحْقِيقِ

توحید کے دائرہ محیط اور مجسمہ سعادت کے ہیکل کا ہالہ اور دائرہ نور۔ تحقیق کے ماہ تمام

وَنُورِ التَّصْدِيقِ رِيَاضِ الْخُلَّةِ وَسَرَاجِ الْبَهْلَةِ رَأْسِ الْمَحْكَمِ

اور تصدیق کے نور سراپا۔ خلعت اور دوستی حق کے ریاض سرسبز اور ملت خفیہ کے روشن چراغ۔ محبت کی اصل

وَمُطَهَّرِ الْكَعْبَةِ حَامِي الْمَقَامِ وَمُفْشِي السَّلَامِ وَبَنِيَانِ الْبَقَاءِ

بنیاد اور کعبہ مبارکہ کو پاک کرنے والے اور مقام مقدس کی حفاظت کرنے والے۔ سلام کو عام کرنے والے دن کے روشن ستارے اور

أَسَانِ الْعَيْنِ جَوَادِ الْبِرَارِ وَطِرَازِ الطَّرَازِ صَبِيبِ الْحَسْبِ وَعَرِيْقِ

خلائق کی آنکھ کی تیلی۔ میدان مبارزت کے شاہسوار۔ نقوش زینت کی زینت۔ مضبوط حسب والے اور راسخ

النَّسَبِ ذِمَامِ الْحَرَمِ وَلِبَابِ الْكُرْمِ نُورِ عَرُوسِ الْقَدَمِ وَضِيَاءِ

نسب والے۔ حرم (کی حفاظت) کے ضامن اور کرم و بخشش کے جوہر و معزز۔ عروس قدم و ازلیت کے نور اور امانتوں کی

بَصَائِرِ الْأُمَمِ قَبْرِ السَّعَادَةِ وَقَلْبِ السِّيَادَةِ وَجَهِ الرِّضَا وَعَدْلِ

بصیرتوں کی ضیاء۔ سعادت کے ماہ تاباں اور سیادت کے سپہرا عظم۔ رضاء حق کے سبب اور قضاء میں

الْقَضَاءِ شَمْسِ الْمَنَاءِ وَزُهْرَةِ الثَّنَاءِ قُدْوَةِ الْمُتَّقِينَ وَجَامِعِ شَمْلِ

باعث عدل و انصاف۔ آرزوؤں کے آفتاب اور ثناء و توصیف کے نجم زہرہ۔ متقین کے مقتدا، دینی فضائل کے

الدِّينِ وَهَادِي الْمُهْتَدِينَ مُجِيبِ الدَّاعِي وَنَعْمِ الرَّاعِي سَيْفِ

جمع کرنے والے۔ ہدایت یافتگان کے ہادی۔ دعوت کو قبول کرنے والے اور اچھے نگران و محافظ ملت کی

الْبَلَّةِ وَنَرِينَ الْوَجْهِ وَالْحَلَّةِ تَمَامِ الدِّينِ وَنِهَائَةِ الْيَقِينِ

تلوار۔ پھروں اور خلعتوں کی زینت۔ دین کو تمام و کامل کرنے والے اور یقین کی انتہاء پر فائز

مِفْتَاحِ الضِّيَاءِ وَسُرُورِ أَهْلِ الْأَخْرَةِ وَالدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ضیاء کی مفتاح اور سبب تمام اور اہل آخرت و اہل دنیا کے سراپا سرور۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ حَيْثُ السَّمَاءِ وَمِنْ مَنبَعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سخاوت کی شاہراہ ہیں اور فصاحت کے

الْفَصَاحَةِ سَبِيَّ الْأَسْمَاءِ وَالْأَعْدَاءِ الْأَثْمَاءِ وَأَنْجَادِ الْأَنْجَادِ وَالنَّجْمِ

سرچشمہ بلند شان ناموں والے ہیں اور انتہائی معزز و کامل۔ سب بہادروں سے بڑے بہادروں کوہ وقار اور روشن ستارے

الْوَقَادِ زَيْنِ الْعَالَمِينَ وَأَحْمَدِ الْحَامِدِينَ وَكَرِيمِ الْعُنْصَرِينَ

عالمین کی زینت تمام حمد کرنے والوں سے بڑے حامد۔ دونوں پاکیزہ عنصروں والے

وَمُكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ وَمِصْبَاحِ الْأَرْوَاحِ وَإِمْلَاحِ

اور ارباب کرامت کو کرامت و بزرگی بخشتے والے۔ کامیابی کی جیابی ارواح کے روشن چراغ۔ فرحت و خوشی کی نمکینی و

الْفَرَاحُ زَيْنُ الْمَدَائِحِ وَعَيْنُ الْمَدَائِحِ زَيْنُ الصِّفَاتِ وَحَسْبُ

چاشنی۔ تعریفیات کی زینت اور عین مدح و ثناء صفات کمال کی زینت اور اچھی

النُّبَاتِ قُوَّةُ الْأَرْوَاحِ وَعَنْبَرُ الْقَوَاحِ وَأَسِعَ الْكَلْفُ وَبَرَكَتُ التَّلْفِ

ثبات قدمی والے۔ ارواح کے لیے باعث قوت۔ اور مہکتا عنبر اور بے پایاں محبت والے۔

غَزَالِ الثُّغَى وَكَزْرِ الثُّغَى مُبَشِّرُ الْمُخْبِتِينَ وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

صاف و ستھرے ہرن کی مانند چاک و چوبند۔ تقویٰ کا خزانہ۔ فروتنی و انکساری والوں کے مبشر اور مؤمنین کے آقا

عَصْمَةُ الْعَصَاةِ وَعَرُوسُ الْمَحَبَّةِ يُمَحِّوَاللَّهُ بِهِ السَّيِّئَاتِ وَ

مولی، عاصیوں کے (قہر خداوندی سے بچنے کے موجب، محبت و پیار کے دو لہما جن کے ذریعے اللہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور

يُضَاعِفُ اللَّهُ بِهِ الْحَسَنَاتِ يَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ كُلَّ

نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اے احسان کرنے والے محسن احاطہ کئے ہوئے ہے تمام

الْخَلَائِقِ مِنْهُ قَدْ مَنَنْتَ عَلَى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ بِالْإِبْجَادِ وَالْإِكْرَامِ

مخلوقات کو جس کا احسان تو نے ہی احسان فرمایا عقل اول پر ایجاد و تخلیق اور عزت و اکرام کے ساتھ

وَأَحْسَنْتَ إِلَيْهِ بِمَحْضِ الْجُودِ وَالْإِنْعَامِ حَتَّى صَارَ مَوْجُودًا

اور نیکی کی اس کے ساتھ جو دو انعام محض کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ہو گیا موجود و جود

مُشَخَّصًا بَسِيطًا كَلِيًّا مُجَرَّدًا فِي ذَاتِهِ وَفِعْلُهُ نَاشِئًا مِنْهُ وَجُودُهُ

مشخص کے ساتھ درانحالیکہ وہ بسیط و کلی ہے مجرد اور غیر مادی ہے اپنی ذات اور افعال میں اسی سے پیدا ہونے والا ہے

نَفْسٍ فَلَئِنْ مَدَّ بِرَأْمِطِيْعًا مُطَاعًا يَا ذُنَّ اللَّهُ وَإِقْدَارُهُ وَجَعَلَهُ

نفس مدبرہ فلکی کا وجود جو اطاعت گزار بھی ہے اور اطاعت کیا جانے والا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور قدرت عطا تیرے سے اور

قَادِرًا غَنِيًّا عَنْ كُلِّ الْأَعْيَانِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْكَ فِي بَقَاؤِهِ وَخُصْمُهُ

تو نے اسے بنا دیا ہے صاحب قدرت اور مستغنی تمام موجودات سے پس وہ تیری طرف محتاج ہے اپنی بقا اور وجود میں

وَوُجُودُهُ بِحَيْثُ أَنْشَأْتَ سُلْسُلَةَ الْوُجُودِ مِنْهُ ثُمَّ اللَّهُ إِلَيْكَ

اس حیثیت سے کہ تو نے پیدا فرمایا ہے سلسلہ وجود کو اسی سے پھر وہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا تجھ پر۔

فَهَذَا مِنْكَ وَإِحْسَانُكَ فِي حَقِّهِ أَعْظَمُ الْبَيْنِ وَالْإِحْسَانَاتِ

پس یہ تیری منت اور احسان ہے اس کے حق میں جو سب احسانوں سے عظیم تر ہے

ثُمَّ أُعْطِيَتْهُ قُوَّةً بِهَا يَصُونَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْأَرْحَامِ وَجَعَلَتْهُ

پھر تو نے اس کو قوت عطا کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے ارواح انبیاء علیہم السلام کو ارحام میں اور بنادیا

مَلِكَ اللَّوْحِ وَالْقُرْآنِ وَقَدْ سُنَّهَ عَنِ التَّشْبِيرِ ثُمَّ عَظَّمَتْهُ وَ

ہے تو نے اس کو بادشاہ لوح اور قرآن کا اور مقدس ٹھہرایا ہے اس کو تکبر سے پھر اسے عظمت و

كَرَّمَتْهُ بِمَنْكَ وَإِحْسَانِكَ وَإِعْطَاكَ نَفْحَةَ التَّضْبِيبِ تَحْتَ

کرامت بخشی اپنے فضل و احسان سے اور عطا کرنے تیرے ہوا کا تیز جھونکا جو چھپانے والا ہے خاک

جَوَاهِرِ التُّرَابِ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَيْئًا مَذْكَورًا وَنَفَحَتْ

کے جواہر کے نیچے (پہر شئی کو) اس طرح کہ نہ رہی کوئی شئی اس سے قابل ذکر اور تو نے تیز ہوا

التَّشْبِيرِ فَبِأَثَرِهِ وَنَضَارَتِهِ صَارَ الْوُجُودُ مَبْسُطًا عَلَى ذُرَّاتِ

عمل تقسیم والی چلائی تو اس کے اثر اور تازگی سے ہو گیا وجود پھیلنے والا ذرات شخصیت پر

شَخْصِيَّةٍ فَيَكُونُ جَامِعًا لِذَاتِ كُلِّ شَخْصٍ مَّحْصُورَةً فِي شَخْصِهِ

پس ہو گیا جامع واسطے ہر شخص کی ذات کے در آغا لیکہ وہ ذات محصور و منحصر ہے اس شخص میں

وَعُضْوَةٌ فَيَكُونُ الْإِحْسَانُ مِنْكَ فِي حَقِّهِ قَدْ كَفَّرْتُ لَهُ بِجَمِيعِ

اور اس کے اعضاء میں پس ہو گا احسان صرف اور صرف تیری طرف سے اس کے حق میں نے کفارہ دیا ہے اس کے لیے اپنے

بَدَنِي وَأَعْضَائِي فَأَحْسِنُ إِلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مُجِبَّالِي وَنَاصِرًا فِي

تمام بدن اور اعضاء کے ساتھ پس تو میری طرف احسان فرما کہ وہ عقل اول میرا محب اور ناصر بن جائے

شِدَائِي وَحَاجَاتِي وَبِأَنْ يُهْدِيَ رَأْيِي حَوْلَهُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ

میری تمام مشکلات اور حاجات میں اور جوش و خروش کا اظہار کرے اپنے ارد گرد ملائکہ میں

الَّتِي جَعَلَتْهُ رَئِيسَهَا وَعَيْنَهَا وَبِأَنْ تُسَخِّرَهُ لِي وَتُجِيبَنِي إِلَيْهِ مُحْسِنًا فِي

جن پر تو نے اس کو رئیس بنایا اور ان کا نگران اور اسے سخر فرمائے میرے لیے اور مجھے محبوب بنائے اس کے ہاں احسان کرنیوالا ہو

حَقِّ عَبْدِكَ وَفَقِيرِكَ كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَنَّكَ وَرَحِمْنَاكَ

میرے عبد و فقیر کے حق میں جیسے کہ تو نے اس پر احسان فرمایا پھر تیرا فضل و احسان پہنچا ہے

قَدْ وَصَلَ إِلَى كُلِّ عَقْلٍ وَنَفْسٍ فَلَيْكِي وَمَلِكِي حَتَّىٰ إِلَى الْعَقْلِ

طرف ہر عقل و نفس تکلی اور ملکی کے حتیٰ کہ عقل

الْفَعَالِ الْمُدَبِّرِ لِلْأَصُولِ وَالْأَمْهَاتِ فِي التَّمْزِيحِ وَالتَّخْلِيطِ وَ

فعال تک بھی جو مدبر و متصرف ہے اصول اور مواد منفعلہ میں باہم امتزاج و اختلاط پیدا کرنے میں اور

التَّصْوِيرِ فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ الْحِفْظِ مِنَ الْجَنَّاتِ الْمَتَمَرِّدَةِ الْقَاصِدَةِ

ارحام کے اندر صورتگری میں پھر محفوظ رکھنے میں ان جنات سے جو سرکش ہیں اور درپے ہوتے ہیں

إِلَى الْإِهْلَاكِ وَالْأَلَامِ وَشَرَّفْتَهُ بِالْكَلامِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ الْعِظَامِ

ہلاک کرنے اور رنج و الم پہنچانے کے اور مشرف فرمایا اس کو انبیاء عظام علیہم السلام کی ہمکلامی کے ساتھ

خُصُوصًا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ وَ

بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پر تو نے احسان اور تفضل فرمایا

مَنْنْتَ عَلَيْهِ بِالنَّبُوءَةِ وَالْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَاتِ بَعْضُهَا بِالْفِعْلِ

عطا ثبوت اور عطاء معجزات کے ذریعے جو واضح اور روشن ہیں جن میں بعض بالفعل ہیں

وَبَعْضُهَا بِالْقُوَّةِ ثُمَّ شَرَّفْتَهُ بِالْمَعَارِجِ وَكَرَّمْتَهُ بِأَنْوَاعِ الْخَطَابَاتِ

اور بعض کی صلاحیت و استطاعت ہے پھر انہیں مشرف فرمایا بلندیوں کے ساتھ اور تکریم کی مختلف اقسام کے خطابات

فَأَطَاعَتْ نَفْسَهُ وَمَا التُّفَّتْ بَصْرُهُ وَجَعَلْتَهُ مَحْبُوبًا فِي الْقُدْرَتِ

اور القابات کے ساتھ پس اطاعت کی ان کے نفس نے اور نہ دوسری جانب متوجہ ہوئی نگاہ ان کی اور بنا دیا تو نے انہیں محبوب تمام قدسیوں

وَالْمَحْسُوسَاتِ وَأَصْحَابَهُ كَوَاكِبَ دُرِّيَّاتٍ فِي الْأَرْضِيَّاتِ كُلِّ نَجْمٍ

میں اور محسوسات میں اور ان کے اصحاب کو چمکتے ستارے زمینی مخلوقات میں حتیٰ کہ نجات حاصل کر لی

مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ بِحُسْنِ التَّصَدِيقِ وَالطَّاعَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ہر اس شخص نے جو متوجہ ہوا ان کی طرف صحیح تصدیق اور طاعت کے ساتھ۔ اے میرے الہ یہ

الْحَسَنَاتُ فِي حَقِّهِمْ مِّنْ أَثَارِ الْإِحْسَانَاتِ وَالْمِنَنِ الْبُقَدَّ سَةِ

نیکیاں ان کے حق میں تیرے ان احسانات و نوازشات کے آثار و ثمرات ہیں جو منزہ و مبرا ہیں

عَنِ الْإِعْرَاضِ وَالْبِدَالَاتِ وَكَيْفَ وَالْكَفَّارُ لِمَلْعُونُونَ قَائِلُونَ

اعراض اور عوض و بدل سے اور کیونکر اس طرح نہ ہو گا حالانکہ کفار ملعون (جو محروم احسان ہیں) وہ قائل ہیں تیرے

بِالْوَالِدِ وَالشَّرِكِ وَأَنْوَاعِ النَّسَبِ اللَّادِي تَقَدَّسَتْ ذَاتُكَ وَتَنَزَّهَتْ

حق میں اولاد کے اور شرک کے اور طرح طرح کی نسبتوں کے جن سے مقدس ہے تیری ذات اور منزہ ہیں

صِفَاتِكَ عَنْهَا وَأَنْتَ تَرْزُقُهُمْ وَتَصُونُ أَبْنَاءَهُمْ مُبَقَّاةً عَلَى

تیری صفات اور تو انہیں رزق دیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے ان کے بیٹوں کو در آنجا لیکہ رس چوتے ہیں

أَشْجَارِهِمْ وَهَيْئَاتِهِمْ وَهَذَا مِنْ إِحْسَانِكَ وَمِنْكَ الْمَحِيطُ

اپنے درختوں سے اور مستفید ہوتے ہیں ان کے ہیئات و احوال سے اور یہ تیرا احسان و فضل ہے جو محیط ہے

بِكُلِّ خَلْقٍ حَتَّى الْعَلَقِ وَالذُّبَابِ وَالذُّوْدَةَ الْمَتَكُونَةَ عَنِ

ہر مخلوق کو حتی کہ لوتھڑوں اور مکھیوں اور ان کیڑوں کو بھی جو تیار ہوتے

الْعَفْوَنَاتِ الْإِلَهِيِّ لِسَانِي كُلِّ وَقَلْبِي مَحْجُوبٌ عَنْ تَفْصِيلِ الْإِنِّ

غلاظتوں سے۔ اے میرے اللہ میری زبان گنگ ہے اور میرا دل محجوب ہے ان احسانات و نوازشات کی

وَالْإِحْسَانَاتِ مِنْكَ فِي خَلْقِكَ فَأَحْسِنُ إِلَيْكَ بِأَنْوَاعِ الْإِثَارِ الْفَائِضَةِ

تفصیل سے جو تیری طرف سے مخلوق پر ہیں پس میری طرف احسان فرما مختلف النوع آثار کے ساتھ جو جاری ہونے والے ہیں

وَالشُّعَاعَاتِ النَّوْرِيَّةِ الْحَادِثَةِ مِنَ الْعَكْسَاتِ وَتَسْخِيرِ الْقَدْسِيَّاتِ

اور نوری شعاعوں کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہیں تیرے عکسوں اور پرتوں سے اور احسان فرما قدسیوں

وَالْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّاتِ وَالْأَرْضِيَّاتِ فَايْضَةً عَلَى قَلْبِ هَذَا

اور ارواح کی تسخیر کے ساتھ جو سماوی ہیں اور ارضی در آنجا لیکہ کہ فیضان کئے جائیں اس عبد عاجز کے دل پر

الْعَبْدِ الدَّلِيلِ عُلُومِ الْكَلِمَاتِ قَادِرَةٌ نَفْسُهُ عَلَى تَفْصِيلِ

علوم کلمات کے اور قادر ہو ذات اس کی جزئیات کی تفصیل پر

الْجُزْئِيَّاتِ ثُمَّ اجْعَلْ رَأْيَا قَائِمًا فِي الْمَلَكُوتِ وَاللَّاهُوتِ بِحَيْثُ

پھر بنا اس کو دیکھنے والا قیام کرنے والا ملکوت و لاہوت میں اس حیثیت سے کہ

يَرَاهُمَا مُشَاهِدَةً مِّنْ غَيْرِ حِجَابٍ كَرُؤْيَا بَصَرِي فِي الْمَحْسُوسَاتِ

دیکھے ان دونوں کو روبرو بغیر حجاب کے مانند دیکھنے آنکھ کے محسوسات کو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُسَبِّحًا وَمُصَلِّيًا مَعَ الْعَقْلِ وَالْمَلَكُوتِ رَأْيَا بَعِينِ

اے اللہ بنا دے مجھے تسبیح خواں اور صلوٰۃ ادا کرنے والا ساتھ عقل کے اور ملکوت کے دیکھنے والا

الْقَلْبِ أَنِّي قَائِمٌ فِي صَفْوَرِهِمْ وَأُصَافِحُ مَعَهُمْ فَيُحْسِنُونَ إِلَيَّ وَ

قلب کی نگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا ہوں ان کی صفوں میں اور ان سے مصافحہ کر رہا ہوں پس وہ میرے ساتھ نیکی کریں اور

يُحْسِنُونَ أَنْ هَذَا الْعَبْدُ الْأَرْضِيُّ مِنْ جُمَلَتِهِمْ فَيُحِبُّونَ لِي وَ

باور کریں کہ یہ خاکی بندہ بھی انہیں میں سے ایک ہے پس وہ محبت کریں مجھ سے اور

يَنْصُرُونَنِي عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَنْتَ قَدْ

مدد کریں بوقت حاجت اور متوجہ ہونے کے طرف ان کے۔ اے اللہ تو نے مجھے

أَوْجَدْتَنِي بِإِحْسَانِكَ وَمِنْكَ ثُمَّ بَلَّغْتَنِي إِلَى مَبْلَغِ هَذَا

ایجاد فرمایا اپنے احسان اور نوازش سے اور پھر پہنچایا مجھے اس مقام تک

فَأَحْسِنُ إِلَيْكَ الْآنَ بِالَّذِي أَطْلُبُهُ مِنْكَ فَأَجِبْ دَعْوَاتِي وَتَقَبَّلْهَا

تو اب بھی مجھ پر احسان فرما ساتھ ان اشیاء کے جو تجھ سے طلب کروں۔ میری دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں اچھی قبولیت

بِقَبُولِ حَسَنِ إِلَهِي مَنِ إِلَهٌ غَيْرُكَ حَتَّى اتَّوَجَّهَ إِلَيْكَ أَنْتَ مَوْلَانَا

عطا فرما۔ اے میرے الہ کون ہے معبود کار ساز سوائے تیرے تاکہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ہی ہمارا ناصر و

وَوْلِينَانَا وَمَوْجِدُنَا وَمُعِدُّنَا وَمُعِيدُنَا فَمِنْ عَلَيَّ وَتَبَتَّنِي وَأَحْسِنِي

و مددگار اور کار ساز اور موجد ہے اور معدوم کرنے والا اور دوبارہ موجد کرنے والا ہے پس مجھ پر احسان فرما اور ثابت قدم رکھ اور مجھے

تَحْتَ لِي وَأَرْسُولِكَ فَيَقْرَبُنِي يَوْمَ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ إِلَيْكَ

اٹھانا اپنے رسول کے جھنڈے کے نیچے پس وہ قریب کریں مجھے روز جزاء و حساب میں تیری بارگاہ کے اور

اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَرَسُولَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ مِنَ السَّابِقِينَ

بنا مجھے ان سے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیرے رسول سے اور تیرے عباد صالحین سے جو خیرات کی طرف

السَّابِقِينَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ يَا جَلِيلُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سبقت لے جانے والے ہیں وہی تیرے مقرب ہیں۔ اے جلیل اے کبریاؤں کے مالک نسبت ہر شئی کے

فَالْعَدْلُ أَمْرَةٌ وَالصِّدْقُ وَعُدَاةُ أَنْتَ الْجَلِيلُ الْمُتَكَبِّرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

پس عدل ہے امر اس کا اور سچا ہے وعدہ اس کا۔ تو ہی جلیل و بزرگ ہے اور بڑائی والا اوپر ہر شئی کے

وَكُلُّ أَحَدٍ ذَلِيلٌ مُّقَهَّرٌ تَحْتَ قَهْرِكَ وَجَلَالِكَ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ

اور ہر ایک عاجز و بے بس اور مغلوب ہے تیرے قہر و جلال کے نیچے اگرچہ ہو ساتھ اس حیثیت کے کہ

يَرْفَعُ الْأَرْضَ بِقُوَّتِهِ مَعَ مَا فِيهَا بِجَنَاحٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ

اٹھائے زمین کو اپنی قوت سے بمع اس کے موجودات کے ساتھ ایک بازو کے پس نہیں اس کے لائق کہ

يَتَكَبَّرَ حَتَّى تَنْزِعَ قُوَّتَهُ وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يُسَبِّحُونَكَ تَسْبِيحًا

بڑائی کا اظہار کرے حتیٰ کہ تو اس کی قوت چھین لے اور تمام ملائکہ تیرے لیے تسبیح خواں ہیں

مِّنْ كِبَرِيَّاتِكَ فَهُمْ يَذُوبُونَ عِنْدَ جَلَالِكَ وَكِبَرِيَّاتِكَ حَتَّى

تیری کبریاؤں کی وجہ سے پس وہ سبھی پگھلے جاتے ہیں تیرے جلال و کبریاؤں کے سامنے حتیٰ کہ

إِسْرَافِيلَ الْمُقَرَّبَ وَلَا يَسْتَطِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَغْلِبَ وَاحِدًا

اسرافیل جیسا مقرب فرشتہ بھی۔ اور نہیں طاقت رکھتا کوئی ایک ان میں سے کہ غالب آئے کسی پر

وَلَا يَأْخُذُكَ جَبْرًا وَقَهْرًا إِلَّا بِعَدْلِ صَحِيحٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ

اور پکڑے اس کو از روئے جبر و قہر کے مگر ساتھ صحیح عدل کے ورنہ نہیں ہو گا وجود

الْجُرْمِيُّ بَاقِيًا وَلَا حَاصِلًا يُوجِدُهُ أَمْرًا إِجَادَ عَدْلٍ لَا ظُلْمٍ

جرائم باقی رہنے والا اور نہ حاصل جس کو موجود کرے تیرا امر بطور ایجاد عدل کے بغیر ظلم و تعدی کے

وَعُدُّكَ صِدْقًا وَالرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَسَبْقَةُ الرَّحْمَةِ عَلَى

تیرا وعدہ سراسر صدق ہے اور رحمانیت و رحمت سے اور تیری رحمت کی سبقت مسلم ہے

الْغَضَبِ وَإِعْطَاءِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ لِأَبْرَارٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ كَمَا قُلْتِ إِنَّ

تیرے غضب پر اور تیرا عطا کرنا بہترین جزاء ابرار کے لیے بھیجا ستم ہے اس دار میں جیسے کہ تو نے فرمایا

الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ط اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي مُظَهَّرًا لِاسْمِ الْجَلِيلِ الْمُبْتَكِرِ

بے شک نیکو کار البتہ نعیم جنت میں ہیں۔ اے اللہ بنا دے میرے دل کو مظہر اپنے اسم جلیل مبتکر کا

حَتَّى لَا يَلْتَفِتَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْإِثَارِهَا فِيهَا بِالصَّدَقِ الْجَلِيلِ

حتیٰ کہ وہ نہ راغب ہو طرف اس رزقِ دنیا کے اور اس کے آثار کے بسبب صدقِ کل کے

الْمُطَابِقِ لِكُلِّ جُزْئِيٍّ لِيَصْدُرَ مِنِّي عِبَادَتُكَ وَطَاعَتُكَ بِحَيْثُ لَا

جو مطابق ہے واسطے ہر جزئی کے تاکہ سرزد ہو مجھ سے تیری عبادت اور طاعت ساتھ اس حیثیت کے نہ

أَسْقَطُ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا كُونَ مَعَ الْخَلْقِ بِهَا قَطْعًا وَصِدْقًا وَعَدْلًا وَ

ساقط کروں ان سے کوئی شئی تاکہ ہو جاؤں بسبب اس عبادت کے ساتھ مخلوق کے یقیناً اور از روئے صدق اور عدل کے اور

بِالْقَلْبِ مَعَكَ مُشَاهِدًا حَاضِرًا سَبِيْعًا بِوَعْدِكَ مُطِيعًا لِمُرَّاكٍ

باعتبار قلب کے ساتھ تیرے۔ مشاہدہ کرنے والا۔ حاضر بارگاہ تیرے وعدہ کو سننے والا۔ تیرے حکم کا اطاعت گزار

بِتَوْفِيقِكَ لِذَلِكَ اللَّهُمَّ أَحِينَا مُسْتَسْكِينِينَ بِسُنَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ

ساتھ تیری توفیق کے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اس حالت میں کہ تھامنے والے ہوں ان کے دامن سنت و محبت کو

وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَحْيَارِ أُمَّتِهِ وَأَسْتُرْنَا بِذِيْلِ حُرْمَتِهِ وَأَسْتُرْ عِيُوبَنَا

اور بنا ہمیں آپ کی امت کے بہترین افراد سے اور ہمیں ڈھانپ ان کے دامن حرمت کے ساتھ اور ہماری پردہ پوشی فرما

بِدِنَارِ دِينِهِ وَمِلَّتِهِ وَأَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَتِهِ وَأَسْقِنَا

ان کے دین و ملت کی چادر کے ساتھ اور ہمیں اٹھانا قیامت کے دن ان کی جماعت میں اور پلانا

مِنْ حَوْضِهِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَخَوَاصِّهِ وَ

ان کے حوض کوثر سے اور جنت میں داخل کرنا ان کی شفاعت سے بمع ان کے اہل اور خواص کے اور

اجْمَعْنَا بِهِ وَرَبَّهُمْ فِي مَقْعَدِ الصَّدَقِ عِنْدَكَ مَعَ الَّذِينَ أُعْتَبِرُوا

ہمیں جمع فرمانا ساتھ آپ کے اور ان کے سچائی والی نشنگاہ میں اپنے ہاں ساتھ ان کے جن پر تو نے انعام فرمایا

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْغَوَاثِ

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور اغواث

الْعَارِفِينَ يَأْتِيَانُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

و عارفین کے لئے بہت جزا خیر دینے والے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سننے والے اور

بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ الْعَرَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بظہیل حرمت و عزت اس نبی امی اور رسول عربی کے درود بھیجے اللہ ان پر ایسا درود

تَعْرِفُنِي بِهَا أَيَّامًا فِي مَرَاتِبِهِ وَعَوَامِلِهِ وَمَعَالِمِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ

کہ عرفان عطا کرے بسبب اس کے ان کا ان کے مراتب و عوامل اور معالم کی رو سے تا آنکہ میں ان کا مشاہدہ کروں

بِعَيْنِ الْعِيَانِ لَا بِالذَّلِيلِ وَالْبُرْهَانَ وَأَعْرِفَهُ بِالتَّحْقِيقِ فِي كُلِّ

ظاہری آنکھ کے ساتھ نہ محض دلیل و برہان کے ساتھ اور میں پہچان لوں ان کو یقین کے ساتھ

مَوْطِنٍ وَطَرِيقٍ وَأَرَى سُرْيَانَ سِرَّةٍ فِي الْأَكْوَانِ وَمَعْنَاهُ الشَّرِيقُ

ہر مقام اور راستہ میں اور دیکھ لوں میں ان کے ستر اور باطن کا سرایت کرنا جملہ موجودات میں اور ان کے روشن معنی و حقیقت کی

فِي مَجَالِيهِ الْحَسَانِ وَاجْعَلِ اللَّهُ مَوْجِدِي مُنَوَّرًا مِّنْ شَمْسِ

سرایت حسین و خوب ترین جلوہ گاہوں میں اور بنا لے اللہ میرے مقام و درود کو منور ان کے آفتاب

حَقِيقَتِهِ وَمِنْ نُورِ بَدْرِ شَرِيعَتِهِ حَتَّى أَسْتَضِيءَ فِي لَيْلِ

حقیقت سے اور ان کی شریعت کے بدر منیر سے حتیٰ کہ ضیاء حاصل کروں اپنی جہالت کی شب تار

جَهْلِي بِأَنْوَارِ حَقَائِقِ مَعَارِفِهِ وَأَنْسِنِي فِي غُرْبَةٍ مَسْرَائِي

میں ان کے معارف کے انوار حقائق سے اور مجھے انس مہتیا فرما میرے سفر غربت میں ان کے لطائف

بِأَيْنَاسٍ لَطَائِفِهِ وَأَحْمِلْنِي إِلَى حَضْرَتِهِ الْأَقْدَسِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ

کے انس سے اور مجھے سوار فرما مقدس بارگاہ احمدیہ کی طرف شریعت محمدیہ کے

عَلَى كَاهِلِ الشَّرِيعَةِ الْمَحْمَدِيَّةِ وَعَمِّرْ أَطْوَارَ نَقْصِي بِأَطْوَارِهِ وَ

کندھے پر اور آبا دو بار رونق بنا میرے نقص و کوتاہی کے طریقوں کو ان کے اطوار کمال سے اور

الْبُسْنَى مِنْ خَلْعِ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ وَأَفْرَدَنِي فِي حُبِّهِ كَمَا أَفْرَدَنِي

پہنا مجھے ان کے جلال و جمال کی خلعتوں سے۔ اور مجھے منفرد بنا ان کی محبت میں جیسے انہیں منفرد بنایا

فِي حُسْنِهِ وَإِحْسَانِهِ وَخَصَّصَنِي بِخَصَائِصِ قُرْبِهِ وَأَمْتِنَانِهِ

حسن اور احسان میں اور خصوصاً مجھے ان کے قرب و احسان کی خصوصیات کے ساتھ

حَتَّى أَكُونَ بِهِ وَارِثًا لِدَيْهِ وَنَاطِرًا إِلَيْهِ وَجَامِعًا عَلَيْهِ وَأَحْسَبُنَا

حتیٰ کہ میں اس اختصاص کی بدولت ہر جاؤں وارث ان کے فیوض کا اور ان کے دیدار اور ان کے ساتھ جمعیت مشرف اور ہمیں اٹھانا

يَا رَبَّنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَجْرُنَا يَا رَبَّنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ

اے پروردگار سیدنا محمد کی جماعت میں اور بچا ہمیں عذاب قبر اور

الْأَهْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَرَكَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَدْخِلْنَا وَالِدَيْنَا

قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بطفیل سیدنا محمد کی برکات کے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو

الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَرْزُقْنَا النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

جنت میں داخل فرمانا سیدنا محمد کی شفاعت سے اور ہمیں نصیب فرمانا ان کے چہرہ مکرم کی زیارت

بِحَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ بِهِ وَبِالْأَوْصَافِ الْأُولَى وَأَتَوَسَّلُ بِهَا

بطفیل سیدنا محمد کی عزت و حرمت کے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل آپ کے اور آپ کے مذکور سابقہ اوصاف کے طفیل اور ان کو وسیلہ بناتا ہوں

إِلَيْكَ أَنْتَ الْبَحِيْبُ لِمَنْ سَأَلَ يَا رَبَّنَا أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ

تیری بارگاہ میں تو ہی قبول فرمانے والا ہے سائلین کے سوالات کو اے ہمارے پروردگار ان پر صلوات و سلام بھیجے

صَلْوَةً تَلِيْقُ بِذَاتِكَ وَبِذَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو لائق و شایاں ہو تیری ذات کے اور ان کی ذات ستودہ صفات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ بِهِ اللَّهُ ذِكْرَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ان کے ذکر کو اور نسب کو اللہ تعالیٰ نے

وَتَسَبَّهَ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فضل و شرف بخشا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ عَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَغُرَّةِ آفَاقِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ

جو محبوب مانند آنکھ کے ہیں اہل ارض کے ارکان دولت کے لیے اور روشنی اور زینت ہیں بالعموم تمام کے آفاق کے اور بالخصوص بعض خواص

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْمُرْجِي لِدَافِعِ الشَّدَائِدِ وَالْمُؤَمِّلِ لِنَيْلِ الْفَوَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جس محبوب رجا و امید و البتہ ہے شدتوں کی دوری کی اور جن سے آرزوئیں و البتہ ہیں منفعتوں اور فوائد کے حصول کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّجِيِّ لِمَنْ جَنَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا نجات دہندہ ہیں اہل جنایت کے

وَيَكْسُو الْوَرَى حُلَّةَ الثَّنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور مخلوق کو پہناتے ہیں خلعتیں ثناء کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدِيَعِ الصِّفَاتِ وَمُنْتَهَى الْأَمَالِ وَالرَّغْبَاتِ

آل پر جو محبوب انوکھی صفات والے ہیں اور منتہی و غایت ہیں آرزوؤں اور رغبتوں کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْأَمِينِ عَلَى الْغَيْبِ وَالْبَرِيِّ مِنَ الشُّكِّ وَالرَّيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

محبوب معتمد علیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے امور غیبیہ پر اور میرا و منزہ ہیں شک و تردد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُصْبِحِ ضِيَاءِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب قلوب کی نورانیت کیلئے

الْفُؤَادِ وَمُفَرِّجِ كُرْبِ يَوْمِ الْمَعَادِ وَكَانَ يَحْكُمُ بِالسُّوِيَّةِ وَيُعْدِلُ

چراغ نور ہیں اور روز قیامت کے درد و آلام کے دور کرنے والے ہیں اور آپ مساوات کا حکم دیتے تھے اور فیصلوں میں عدل و

فِي الْقَضِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انصاف ملحوظ رکھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ اخْلَاقُهُ مَرْضِيَّةً وَكُنَافُهُ وَطِيئَةً وَاحْسَانُهُ

کہ جس محبوب کے اخلاق پسندیدہ تھے اور پہلو و جوانب نرم اور احوال

مَرْضِيَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پسندیدہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ خُلَاصَةً عِبَادِكَ وَمُظْهِرَ مُرَادِكَ وَسُلَالَةَ أَنْبِيَائِكَ

پر جو محبوب خلاصہ اور جو ہر ہیں تیرے مخصوص بندوں کے اور تیری مراد کا مظہر ہیں اور انبیاء کی نسل سے اور

خَاصَّةً أَصْفِيَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اصفیاء میں سے مخصوص ترین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةَ اتَّقِيَاءِكَ وَكَرَامَةَ أَوْلِيَائِكَ وَعُرْوَةَ

کی آل پر جو محبوب تیرے اہل تقویٰ میں سچے ہوئے اور تیرے اولیاء کے لیے باعث بزرگی اور تیری

مَمْلَكَتِكَ وَتَرْجُمَانِ أَحَدِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مملکت کے دولہا اور تیری احدیت کے ترجمان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانَ حُجَّتِكَ وَسَيْفِ عِزَّتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری حجت کی زبان اور تیری عزت کی تیغ بے نیام۔

وَبُرْهَانَ آيَاتِكَ وَدَلَالَةَ كَرَامَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیری آیات کی برہان اور بزرگیوں کی دلیل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ رَحْمَتِكَ وَشَاكِرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری عین رحمت اور سراپا شکر

نِعْمَتِكَ وَعُتْوَانِ مَمْلَكَتِكَ وَسِرِّ اسْرَارِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نعمت اور عنوان مملکت اور سرا اسرار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَلَبِ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری طریقت کی شاہراہ ہیں اور



يُن تَوْفِيْقَكَ وَكَنْزِ اَمَانِكَ وَعَدْلِ سُلْطَانِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیری توفیق کا بین و برکت ہیں اور تیری امان کا خزانہ اور تیرے تسلط و غلبہ کا عدل سراپا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلٍ سَبِيْلِكَ وَمُنْحَةٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری ذات کے راستہ کی دلیل ہیں

تَنْوِيْلِكَ وَجُوْدِ نِعْمَاتِكَ وَمَنْهَلِ عَطَائِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تیرے جو دو نوال کا عظیم عطیہ اور تیری نعمتوں کا جو دو سنا اور تیری عطاء کا گھاٹ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّحَلِّ ذِكْرِكَ وَفَرْدِ شُكْرِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیرا محل ذکر اور تیرے بیش از بیش شکر گزار

وَمَحْضِ عِنَايَتِكَ وَمَقَرِّ وَحْيِكَ وَرِسَالَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تیری مجسم عنایت اور تیری وحی اور رسالت کے مقام قرار و استقرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّظَهَّرِ بَرَكَاتِكَ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب تیری برکات کے مظہر اور

مَوْطِنِ خَيْرَاتِكَ وَجَزِيْلِ اِحْسَانِكَ وَكِفَايَةِ اِمْتِنَانِكَ اَللّٰهُمَّ

تیری خیرات کی جائے قرار و اقامت اور تیرے عظیم احسان اور تیری نوازش و عنایت کا وسیلہ کفایت اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِمَايَةٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مجسم حمایت ہیں

دِيْنِكَ وَسِرِّ تَكْوِيْنِكَ وَمُصْبَاحِ شَرِيْعَتِكَ وَمِفْتَاحِ خَلِيْقَتِكَ

تیرے دین کی۔ اور راز سر بستہ ہیں تیری ایجاد کا۔ اور روشن چراغ ہیں تیری شریعت کا اور تیری مخلوق کے آغاز کی چابی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّتَّبِعِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سرچشمہ علم

اَلْعِلْمِ وَمَجْبِعِ الْحِلْمِ وَمَرْيَةِ الْكِرْمِ وَزُهْرَةَ الظُّلْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ہیں اور مرکز و محل ہیں علم و بردباری کا اور کرم و بخشش کی فراوانی اور تاریکیوں کو دور کرنے والے زہرہ ستارے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِطَرَاةِ الْبَرَكَاتِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اجداد پر جو منبع میں اصطفا و پسندیدگی کا

وَيَتَّبِعُ الْإِحْتِفَاءَ وَمَسْكَةَ الْجِثَامِ وَعُرْوَيْسَ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

اور سرچشمہ میں شفقت و التفات کا اور کستوری میں مہر کی اور دولہا میں دارالسلام اجیتا کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَبِطِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب قطب و مرکز ہیں

دَائِرَةِ الصُّعُودِ وَكُوكِبِ هَالَةِ السُّعُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ترقیوں کے دائرہ کے لیے اور روشن ستارے میں سعادتوں کے ہالہ کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ افقِ الْعِبَادِ وَنُقْطَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب افق عباد کے روشن آفتاب ہیں اور آفرینش کے

الْبَدْوِ وَسِرِّ الْمَعَادِ وَمَشْرِقِ الْأَنْوَارِ وَمَغْرِبِ الْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ

نقطہ آغاز اور معاد و قیامت کے راز مخفی ہیں۔ انوار الہیہ کے محل ظہور ہیں اور اسرار الہیہ کے محل اختفاء۔ لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبِكَارِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بدر کی

الْبُصُورِ وَالْهَلَالِ الْمُنُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تصویر والے ہیں اور ہلال کی تنویر والے ہیں۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْلَمِ مَنْ قَامَ بِالْقَضَاءِ وَكَرَّمَ مَنْ مَخَّصَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اعلم ہیں تمام منصب قضاء والوں سے اور مکرم ترین ان تمام سے جو

بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

مخصوص پھرائے گئے سوال اور رضامت کے ساتھ۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنِ مَنْ ضَجَّكَ فِي الْوَرَى وَتَلَّكَ فِي الْبَدْوِ

محمد کی آل پر جو حسین ترین ہیں ان تمام سے جو ہنسنے یا تبتسم کیا مخلوق میں اور عظیم تر ہیں

مَنْ نَالَ التَّوَالَ وَتَكَرَّمِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب جنہوں نے پایا جو دو عطا کو اور بزرگی حاصل کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمْدِحْ مَنْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْعَيُونَ وَأَوَّلِ

اور آپ کی آل پر جو مینج اور پرکشش ہیں ان تمام سے جنہیں خلایق کی نظروں نے دیکھا اور اول

مَنْ حَقَّقَتْ لَدَيْهِ الظُّنُونُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و مقدم ہیں ان سب کے محقق ہوئے ان کے ہاں ظن اور گمان (خیر) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ نَطَقَ بِذِكْرِهَا النَّاطِقُ وَأَجَلِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو افضل ہیں ان تمام سے جن کے ذکر کے ساتھ کلام کیا کسی بھی منکلم نے اور بزرگ تر ہیں ان تمام سے

مَنْ خَلَقَهُ فِي الْوُجُودِ الْخَالِقُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہیں عدم سے موجود کیا خالق نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجَلِ مَنْ أَصْغَىٰ إِلَيْهِ وَأَجُودِ مَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بزرگتر ہیں ان تمام سے جن کی طرف کسی نے میلان کیا اور بہت سخی ہیں ان تمام

جَادَ بِأَيَادِيهِ وَأَجْمَلِ مَنْ تَجَمَّلَ وَأَطْوَلَ مَنْ تَطَوَّلَ اللَّهُ

سے جنہوں نے اپنی نعمتوں کے ساتھ سخاوت کی اور خوبصورت ترین ہیں ہر صاحب جمال سے اور سب اہل قوت کی زیادہ قوت و استطاعت

صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْجَهَ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو وجہ ترین ہیں ان تمام سے جنہیں مخلوق میں

مَنْ تَوَجَّهَ فِي الْوَرَىٰ وَخَيْرِ مَنْ تَكَلَّفَ بِأَعْبَاءِ الْوَجْهِ بِلا امْتِرَاءِ

وجاہت اور آبرومندی حاصل ہوئی اور بہتر ہیں بلا ریب ان تمام سے جن کو وجہ کی مشقتیں اٹھانے کا مکلف نظر آیا گیا

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی

عِزَّةٌ سَامِيَةٌ وَحُرْمَةٌ حَامِيَةٌ وَسُمُوهُ رَاقِيٌ وَجَلَالُهُ كَافِيٌ وَفَضْلُهُ

عزت بلند و بالا ہے اور ان کی حرمتیں حمایت و حفاظت والی ہیں اور ان کی بلندی ترقی پر ہے اور ان کا جلال کافی ہے اور فضل نام

شَامِلٌ وَحُسْنُهُ كَامِلٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

ہے اور حسن کامل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ حُسَامَةٌ قَاطِعٌ وَنُوْرَةٌ سَاطِعَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جن کی تنوار بہت تیز ہے۔ اور نور بہت غالب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مَظَاهِرُهُ تَعَلَّقَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوبے مظاہر حسن و جمال دل میں گھر کرنے والے ہیں

وَذِكْرُهُ فِي الْمَسَامِعِ تَجَلُّوْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ذکر کانوں کو جلا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ خَصَائِصُهُ فَرِيْدَةٌ وَمَنَاحِيْهُ مَبِيْدَةٌ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے خصائص یکتا و یگانہ ہیں اور عطیات بہت وسیع ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

شَهَائِلُهُ مَحْبُوْدَةٌ وَجَدُوْدَةٌ مَحْدُوْدَةٌ وَحَالَاتُهُ زَكِيَّةٌ وَحَوَائِجُهُ

اخلاق محمود و پسندیدہ ہیں ان کی بزرگیاں حد کمال پر ہیں اور حالات پاکیزہ اور ضروریات و حاجات

مَقْضِيَّةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بر لائی ہوئی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ جَاهُهُ غَرِيْبٌ وَجَنَابُهُ جَرِيْرٌ وَجَوَارُهُ مَنِيْعٌ وَمَقَامُهُ رَفِيْعٌ

جس محبوب کی جاہ و عظمت بہت زیادہ ہے اور بارگاہ وسیع و کشادہ اور پناہ زیادہ مستحکم ہے اور مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کا

كُنْفُهُ كَافِيٌّ وَعَطَاءُهُ وَاْفِيٌّ وَفَخْرُهُ بَاهِرٌ وَشَرْفُهُ ظَاهِرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

پہلوئے رحمت کافی ہے اور عطا کافی اور فخر و بھری نمایاں اور فضل و شرف ظاہر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَجْلِسُهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی مجلس

مَحْضُورًا وَأَعْلَامُهُ مَنُشُورَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حاضرین سے بھرپور اور جن کے پرچم پھیلائے اور لہرائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَاتُهُ مَدْحُوظَةٌ وَنَفْسُهُ مَحْفُوظَةٌ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کی ذات ملاحظہ والی ہے اور ان کا نفس محفوظ و معصوم ہے

وَطَهَّرَ اللَّهُ جَسَدَهُ وَشَرَّفَ اسْمَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مطہر بنایا اور ان کے نام کو صاحب شرف بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْكَامِلِ وَالْقَسِيمِ الشَّامِلِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کامل و اکمل سردار۔ سب کو محیط عطاؤں والے قائم ہیں اور

طَاهِرِ الظَّاهِرِينَ وَطَيِّبِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ظاہرین کے سردار اور طیبین میں سے مختار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَحِبِ الْجَنَابِ وَالِدَّاعِي إِلَى إِرَادَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کشادہ بارگاہ والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں

رَبِّ الْأَرْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رب الارباب کی ارادت و عقیدت کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ مَوْلُودِ حَوَى شَرَفًا وَفَضْلًا وَمَلَأَ اللَّهُ بِهِ الْوُجُودَ

محمد کی آل پر جو محبوب مکرم ترین مولود ہیں جنہوں نے اعاط کیا ہوا ہے شرف و فضل کا اور بھریا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عالم وجود

قِسْطًا وَعَدْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کو از روئے انصاف و عدل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَصِفُهُ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ وَحَمَلَهُ جِبْرَائِيلُ

کی آل پر جو محبوب در گزر فرماتے تھے جفا کاروں سے اور جنہیں اٹھایا جبرائیل امین نے

بِيَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دونوں ہاتھوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَفَرِيضَتِهِ وَأَقَامَ

آل پر کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ان کی اتباع کا سنن و فرائض میں اور قائم فرمائے

اللَّهُ الدَّلِيلَ عَلَى صِدْقِهِ وَنُبُوَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے دلیل اعجاز ان کی صداقت و نبوت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَبْرُورَةِ وَالْأَبْرَارِ وَحَقِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ قریب ہیں نیکی و احسان اور نیکو کاروں کے اور سب مخلوق کے

الْخَلْقِ بِالتَّوْقِيرِ وَالْوَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیادہ حق دار ہیں توقیر اور وقار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعَزَّ النَّاسِ نَفْرًا وَكَانَ يُجَالِسُ الْمَسَاكِينَ

آپ کی آل پر جو محبوب عزیز و غالب جماعت والے تھے اور مل بیٹھتے تھے مساکین

وَالْفُقَرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور فقراء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ وَالْمَبْعُوثِ بِالْبَشَارَةِ وَالتَّنْذِيرَةِ

آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور چن لیا اور جنہیں مبعوث فرمایا بشارت اور انذار کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْبُخَالِفَةَ لِسُنَّتِهِ ضَلَالًا وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِقْتِدَاءَ رُشْدًا

اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جن کی سنت کی مخالفت کو گمراہی اور بنا دیا ان کے خالص اقوال و

خَالِصِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ هِدَايَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

افعال میں ان کی اقتداء کو سراسر ہدایت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَلِيمِ بِأَسْرَارِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُسَدِّدْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب علیم ہیں اسرار کتاب کے اور نہیں لٹکایا گیا

دُونَهُ سِتْرًا وَلَا حِجَابًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے آگے پردہ اور حجاب (دیدار ذات سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الْخَلْقِ خَلْقًا وَأَفْصَحِ الْخَلْقِ نَطْقًا اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب ساری مخلوق میں اول ہیں از روئے تخلیق کے اور فصیح ترین ہیں از روئے نطق کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَبِّ النَّاسِ وَصَفًا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب لوگوں سے پسندیدہ اور صفت

وَأَفْخَرِ النَّاسِ حَسَبًا وَأَطْيَبِ الْخَلْقِ عِرْقًا وَأَشْرَفِ الْخَلْقِ نَسَبًا

والے ہیں اور سب سے قابل فخر حسب والے اور پاکیزہ و معنبر پینہ والے۔ اور سب سے بزرگ نسب والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَظْهَرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب مخلوق سے

الْخَلْقِ عِزًّا وَتَبَاجًا وَأَوْصِلِ الْخَلْقِ رَحِمًا وَأَنْفِذِ الْخَلْقِ نَهْيًا وَ

زیادہ ظاہر اور روشن عزت اور اولاد والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی والے اور سب سے زیادہ نافذ نہی و نصح اور حکم و

أَمْرًا وَأَبْلِغِ الْخَلْقَ لِلْخَلْقِ نَصْحًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

امروالے ہیں اور سب مخلوق سے زیادہ مخلوق کے لیے خلوص و ہمدردی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَظْهَرِ الْخَلْقِ سِرِيرَةً وَأَتَمِّ الْخَلْقِ جَمَالًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ساری مخلوق سے زیادہ ظاہر اور نورانی طبیعت والے ہیں اور سب سے کامل ہیں از روئے

وَأَحْسَنًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جمال اور احسان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ أَقْوَمِ النَّاسِ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَاتَّيَبَتِ النَّاسِ قَدَمًا وَأَيْسَرَ

آل پر جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ مضبوط و پائیدار طریقہ اور راستہ والے ہیں اور سب سے زیادہ ثابت قدم اور سب سے زیادہ

التَّاسِ ذِكْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآلِهِ

صل ذکر والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ أَوْضَحِ النَّاسَ بِرُهَا نَا وَ أَكْثِرِ النَّاسَ عِرْفَانًا وَ أَزْكِ الْأَسْمَاءَ

آل پر جو محبوب سب سے واضح برہان والے۔ اور سب سے زیادہ عرفان والے ہیں اور سب مخلوق سے پاکیزہ

سَيْرَةً وَ أَكْرِمِ النَّاسَ صَفْحًا وَ أَعْلَى النَّاسِ أَمْنًا وَ إِيْمَانًا اللَّهُمَّ

سیرت والے اور سب سے بزرگ و مکرم چہرے والے اور اعلیٰ امن و ایمان والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْلَمَ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زیادہ علم والے ہیں ان تمام سے جنہوں نے

تَكَلَّمَ بِالصَّوَابِ وَ أَفْضَلَ مِنْ أَوْتَى الْحِكْمَةَ وَ فَصَلَ الْخُطَابِ اللَّهُمَّ

صواب اور برحق کلام کیا اور افضل ہیں ان تمام سے جنہیں حکمت اور واضح انداز تکلم عطا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفَ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اشرف ہیں تمام

طَافَ وَسَعَى وَ أَوْجَهَ مِنْ وَقَفَ بِعِرْفَاتِ الْخَيْرِ وَ دَعَا اللَّهُمَّ صَلِّ

طواف اور سعی والوں سے اور وجیہ تر اور آبرو مند ترین ہیں عرفات خیر میں ٹھہرنے اور دعا کرنے والوں سے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَمَ مِنْ رُكْعِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب ان سب سے زیادہ صاحب استقامت ہیں جنہوں نے

الْمَقَامِ وَ أَهْدَى وَ أَجَلَّ مِنْ دَخَلَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رکوع کیا مقام ابراہیم میں اور ان سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور بزرگ تر ہیں جو داخل ہوئے حرم میں باب السلام سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْهَجَ مِنْ رُكْعِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب زیادہ رونق و بہار والے ہیں ان تمام سے جنہوں نے حجرات

الْجِبْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآلِهِ

کو نکریاں ماریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدًا نَسِكَ مَنْ أَرْلَفَتْ لَهُ عِنْدَ نَحْرِهَا الْبُدُنَاتُ وَأَعْظَمَ مِنْ

جو زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں ان سب جن کے قریب لائی گئیں مخروذہ کے وقت قربانی کی اونٹنیاں اور ہانرا اور عظیم تر ہیں

ذِيحٍ وَنَحَرَ وَأَعْبَدَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ حَتَّى السَّحَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تمام ذبح اور نحر کرنے والوں سے اور بہت زیادہ عابد ہیں ان سب جنہوں نے ساری رات قیام کیا سحر تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَتَقَى مَنْ حَلَقَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بہت متقی ہیں ان تمام سے جنہوں نے

رَأْسَهُ وَقَصَّرَ وَكَرَّمَ مَنْ صَلَّى وَأَبْرَأَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سر منڈایا یا بال کٹائے (حج و عمرہ میں) اور مکرم ترین ہیں نماز ادا کرنے والوں اور محسنین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ حَبَّ الْبَيْتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب افضل ہیں بیت اللہ کے حجاج اور

اعْتَمَرُوا وَعَزَّ مِنْ أَنْتَصَرَ بِاللَّهِ وَأَسْتَنْصَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عمرہ کرنے والوں سے اور عزیز تر ہیں ان تمام سے جنہوں نے مدد حاصل کی ساتھ اللہ کے اور مدد و نصرت طلب کی۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْرَسِ مَنْ أَمَّطَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ان سب زیادہ شہسوار ہیں جو سوار ہوئے

صَهُوَةً جَوَادٍ وَأَجْهَدِ مَنْ دَخَلَ حَوْمَةَ الْجِهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کسی عمدہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور سب سے زیادہ جہاد کرنے والے ہیں ان سے جو داخل ہوئے جہاد کے بھنور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشَدِّ مَنْ ضَرَبَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت شمشیر زن ہیں تلواروں

بِالْحَسَامِ وَأَمْطَى مَنْ سَاطَى بِالسَّهَامِ وَأَفْضَلِ مَنْ طَعَنَ بِالسِّنَانِ

کے ساتھ مارنے والوں سے اور بہت تیر انداز ہیں تمام تیر اندازوں سے اور افضل ہیں تمام نیزہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں سے

وَأَجْوَدِ مَنْ جَادَ بِالْبَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بہت سخی ہیں ہاتھوں کے ساتھ سخاوت کرنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ فِي عَقْبَاءَ وَمَثْوَاهُ وَبَلَدِهِ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کو مشرف فرمایا گیا عقبی اور دار ثواب میں اور پینچے دونوں

الدَّارَيْنِ غَايَةَ مَنَاءَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جہان میں اپنی آرزو و تمنا کی نہایت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْسَانُهُ شَامِلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل امجاد پر جس محبوب کا احسان سب کو شامل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَىٰ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فضل و شرف بخشا

الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

انبیاء علیہم السلام اور ملاحم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَى قُبَّةِ الْأَفْلاكِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا افلاک کے نیلگوں گنبد پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کی

أَفِيضَ عَلَى رُوحِهِ مِنْ حَضْرَةِ رُوحَانِيَّتِهِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَأَفْرَقَ نَصِيبَ

روح پر فائز کیا گیا بارگاہ روحانیت سے ہر نوع خیر سے وافر حصہ و نصیب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو

خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَجْمَلِ تَرْكِيْبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انتہائی حسین صورت میں اور جمیل ترکیب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے متور فرمایا

مِنْهُ السِّرُّ وَالْعُدْنَ وَمَنْعَهُ اللَّهُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ وَأُظْهِرَ اللَّهُ مِنْهُ مَا

باطن اور ظاہر کو اور عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے خلق حسن اور ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت

ظَهَرَ وَمَا بَطَّنَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو ظاہر ہوا اور جو پوشیدہ ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْبَرَكَاتِ وَالْجَامِعِ لِدَوَائِرِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

محمد کی آل پر جو محبوب منظر ہیں برکات کے اور جامع ہیں خیرات کے دائروں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب عین

الْمَقْصُودِ وَالْقَصُودِ وَقَائِمِ كِمَالِ الْعِبُودِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ

مقصود ہیں اور عین قصد و ارادت ہیں اور قائم ہیں ساتھ کمال عبودیت کے ملک معبود کی

الْمَعْبُودِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْمُنْقِذِ مِنَ النَّارِ وَالْمُؤْتِلِ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى

جو محبوب بچانے والے ہیں آگ سے اور پہنچانے والے ہیں طرف جنات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى رُوضَاتِ جَنَّاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب رہنمائی کرنے والے ہیں جنات کے سبزہ زاروں

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی طرف جن میں میوہ جات اور کھجوریں اور انار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ فِي أَمْرِ الْقُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو مبعوث فرمایا گیا مکہ مکرمہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَرَّكَتْ لِتَعْظِيمِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی تعظیم کیلئے حرکت میں آئیں

السَّوَائِكُنْ وَلَمْ تَعْصِ لَهُ أَمْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساکن اشیا اور نہ خلاف ورزی کی ان کے امر کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَآءِ النَّبُوَّةِ وَالْوَلَايَةِ وَتَابُوتِ الرِّسَالَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ ایسا طرف ہیں جو محیط ہے نبوت و ولایت کو اور تابوت میں رسالت

وَالْهُدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

و ہدایت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَلِّغِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِهِ وَمُظْهِرِ الْحَقِّ بِبُرْهَانِهِ وَ

کی آل پر جو محبوب تبلیغ کرنے والے ہیں قرآن کی اپنی زبان حق ترجمان سے اور منظر حق ہیں اپنے برہان و حجت کے فریے اور

مُنَوِّرِ الْعُدُلِ بِسُلْطَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روشن کرنے والے ہیں عدل کو اپنے تسلط اور غلبہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْمُؤَيَّدَاتِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو عاجز کرنے والے ہیں خلائق کو اپنے معجزات کے ساتھ (مقابلہ اور محاذ آرائی سے) اور تقویت دے

الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي نَشَأُ فِي حُجْرِ الْكَمَالِ وَمُرْجَىٰ فِي مَسَاقِطِ وَحْيِ

گئے ہیں آیات بینات کے فریے اور جنہوں نے نشوونما پائی ہے کمال کی گودوں میں اور امید دلائے گئے ہیں ذوالجلال کی وحی

ذِي الْجَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کے مقامات نزول میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْوَتْرِ وَالصُّحَىٰ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ

کی آل پر جو محبوب مخصوص ٹھہرائے گئے وتر اور چاشت کی نمازوں کے ساتھ اور عید الفطر اور عید الضحیٰ کیساتھ

وَكَانَ أَوَّلَ اللَّيْلِ يُحْيِي وَآخِرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ رات کے پہلے اور پچھلے حصے کو عبادت کے فریے زندہ فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ لَهُ مُلْكَ الدُّنْيَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ملک

وَالْآخِرَةُ وَآيِدَاكَ اللَّهُ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جمع فرما کر ان کے تصرف میں دے دیا اور تائید و تقویت فرمائی ان کی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کے ذریعے۔ اے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَدَّدَ اللَّهُ بِالسُّورِ

نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی محکم سورتوں کے ساتھ

الْمُحْكَمَاتِ وَعَزَّنَاكَ بِالْبَلْعَةِ الْمَسْمُومَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غلبہ عطا کیا مخصوص و نامزد ملائکہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَعْمَةً اللَّهُ عَلَىٰ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ تعالیٰ کی مجسم نعمت ہیں

الْخَلْقِ وَأَعْطَىٰ الْكَمَالَ الْمَطْلُوقَ وَرَأْسَ الصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مخلوق پر اور جنہیں کمال مطلق عطا کیا گیا ہے اور صدیقین کے سردار ہیں بنائے گئے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّصِيبِ

و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بہت ہمدرد و غمخوار ہیں

لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَالْمَرْجُو نَفْعُهُ يَوْمَ الْعُرْضِ وَجُودِ الْجُودِ وَ

اہل ارض کے اور انہیں سے امید کی جاتی ہے نفع رسانی کی قیامت کے دن۔ جود و سخا کا مجسم وجود ہیں اور

خَصِيبِ فَنَاءِ الْجُودِ وَحَازِنِ مَانَةِ جَمِيعِ السُّعُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عطاؤ نوال کے صحن کی سرسبزی و شادابی ہیں اور آپ کے زمانے تمام سعادتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِيَ الْوَرَىٰ

و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو محبوب مخلوق کو ہدایت دینے والے

وَمَنْبِعِ الْبَرَىٰ وَمَنْهَلِ النَّدَىٰ وَهَلَالِ الْهُدَىٰ وَغِيَاثِ الْوَرَىٰ

ہیں اور سرچشمہ و راہت اور گھاٹ ہیں بھلائی و نیرات کے حصول کا اور ہدایت کے ماہ نور مخلوق کے فریاد رس

وَكَطِيبِ الثَّرَىٰ وَظَاهِرِ النَّدَىٰ وَوَاضِحِ الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

پاکیزہ خمیر والے۔ ظاہر سخاوت والے۔ واضح حق و ہدایت والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيرًا عَطَايَا وَكَرِيمًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب بہت عطاؤں والے بزرگ

السَّجَايَا وَكَوْثَرَ الْعُلُومَ وَرِيَّاحُ الْفُهُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مصلحتوں والے ہیں علوم کے ناپید اکتار سمندر اور فہم و دانش کے باغات ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَطْيَابِ وَزَيْنِ الْأَمْثَالِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب پاکیزہ تر لوگوں سے افضل ہیں اور صواب و صحیح ترین

وِظِلَالِ السَّامِيِّ وَأَطْيَبِ النَّامِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امور کی زینت۔ بلند مرتبت سائے ہیں اور پاکیزہ تر نشوونما والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْفَظِ النَّاسِ جَنَاحًا وَكَرَمِ الْخَلْقِ تَجَاوِزًا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب محفوظ جوانب اور پہلوؤں والے ہیں۔ اور ساری مخلوق سے بزرگتر ہیں از روئے درگزر

وَسَبَاحًا وَعَلَى الْأَنَامِ يَدَاؤًا وَسِعَ الْخَلْقَ وَأَحْيَا الْأَنَامَ وَجُهَادًا

اور سخاوت کے اور سب مخلوق سے بلند تر ہیں از روئے احسان کے اور ساری مخلوق سے زیادہ وسعت والے اور ساری مخلوق سے زیادہ شریفیہ چہرے

أَطْيَبِ الْخَلْقِ نَفْسًا وَأَشْبَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

والے اور سب پاکیزہ ترین اور موزوں ترین ہیں از روئے نفس و ذات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُحْبُوبِ الدَّعْوَى وَالْبُعَيْنِ عَلَى

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو دعوت کو قبول کرنے والے اور تقویٰ پر

التَّقْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اعانت فرماتے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الْمُنْقِدِ مِنَ الْهَلَاكِ وَكَوَاكِبِ آيَاتِهِ جَلَّتْ مَا دَجَلُ الْاَرْضِ

آل پر جو ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں اور ان کی آیات کے روشن ستاروں نے روشن کر دیا ہے جو تاریک ہو گیا تھا زمین سے

مِنْ ظُلُمَاتِ الْأَفْلَاكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

افلاک کی ظلمتوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيرًا عَطَايَا وَكَرِيمًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب بہت عطاؤں والے بزرگ

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَقْسَمَ اللهُ بِتَنْزِيهِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَاَبْرَهُ اللهُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدس کی بہت دفعہ اور احسان کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے

غَايَةَ الْمَبْرُورَةِ وَتَوَقَّاهُ اللهُ شَهِيدًا وَاَخْرَجَهُ اللهُ لِلْخَلْقِ

غایت احسان تک اور وفات دی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی حالت میں ظاہر فرمایا ان کو مخلوق کے لیے

سَعِيدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

سعادت کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَصَّهُ اللهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَاَهْلَهُ اللهُ بِمُشَاهَدَةِ

کی آل پر جنہیں مخصوص فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے ساتھ اور اہلیت بخشی انہیں اللہ تعالیٰ نے

عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ وَقَدْ رَأَيْتَهُ اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اپنے عجائبات حکمت و قدرت کے مشاہدہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُصِبْتُ عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن پر نصب کئے گئے

قُبَابُ الرِّضَا وَالْكَرَمِ وَالْيُسْتُ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْعِزِّ وَسَوَابِغُ

گنبد رضا و کرم کے اور پہنائے گئے انہیں لباس عزت و اکرام اور وسیع زرہیں

النِّعَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

نعمتوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُصِبْتُ عَلَيْهِ رَأْسَهُ الْوَيْهَ الْمَجْدِ

آل پر کہ نصب کئے گئے جس محبوب کے سر پر پرہم مجد و شرف کے

وَتَوَجَّهَ اللهُ بِتَاجِ الْحَمْدِ وَكَبَّلَ اللهُ لِأُمَّتِهِ قَوَاعِدَ

اور اللہ تعالیٰ نے تاج حمد ان کے سر پر سجایا اور کابل کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اُمت کے لیے

الْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ بِالصَّلَاةِ وَيُرْتَقِيْ بِهٖ اُمَّتَهُ اِلَى

ایمان و اسلام کی بنیادیں ساتھ نماز کے اور چڑھے گی ان کی بدولت اُمت

اَلْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ بِالصَّلَاةِ وَيُرْتَقِيْ بِهٖ اُمَّتَهُ اِلَى

أَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنت کے اعلیٰ درجات تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ الشَّرْفَ الْبَكِيَّ وَالطَّاهِرَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے پایا ہے پاسدار شرف کو اور سمیٹ لیا

الْعِزَّ الْمَبْتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مستحکم عز و جاہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّنَّ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ فَضْلَهُ وَعَرَّفَ

آپ کی آل پر کہ ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر ان کی فضیلت کو اور پہچان کرائی

اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ قُدْرَةَ وَمَحَلَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی قدر و منزلت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ رِقَائِنِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے لطف

الْعُلُومِ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ دَقَائِقَ الْفُهُومِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى

علوم عطا کئے اور سکھائے انہیں دقائق نعم و فراست کے اور بلند فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے

الْمَقَامِ الْأَجَلِّ الْأَعْلَى وَأَوْرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَوَارِدَ الشَّرْفِ

اجل و اعلیٰ مقام تک اور وارد فرمایا ان کو لذیذ ترین شرف و

الْأَحْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فضل کے گھاٹوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّدَ بِحُسَامِ الشَّرْفِ الْقَاطِعِ وَتَلَقَّى

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے حمال کی شرف و فضل کی شمشیر براں۔ اور حاصل کیا

رَأْيَةَ السُّودِ بِالرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیادت و قیادت کے پرچم کو ہنسی اور انجلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى بِصُفُوفِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے نماز پڑھائی انبیاء

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَتَوَالَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ النِّعَمِ مُتَدَارِكَةً

و ملائکہ کی صفوں کو اور پے در پے واصل ہوئیں ان تک تمام تر نعمتیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ التَّفْضِيلِ وَتَرَيْنَ اللَّهُ مَفْرَقَةً وَجَبِينَهُ

جس محبوب کو پہنائی اللہ تعالیٰ نے پوشاکِ فضیلت کی اور مزین فرمایا ان کی چوٹی اور جبین

بِتَاجِ التُّورِ وَالْإِكْلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو نور کے تاج اور جواہر سے مرصع تاج کی پٹی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْرَارُ سِرِّهِ مَسْطُورَةٌ وَأَعْلَامُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے اسرارِ باطن مستور ہیں اور ان کی سعادت کے

سَعْدِهِ مَنشُورَةٌ وَأَنْوَارُ مَحَبَّتِهِ وَاضِحَةٌ وَأَقْبَارُ سَعَادَتِهِ

پرچم لہرائے گئے ہیں اور ان کی محبت کے انوار واضح ہیں اور ان کی سعادت مندی کے ماہتاب

لَا رَيْحَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

روشن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي التَّحَفَ ثُوبَ الْمَجْدِ وَكَتَسَى بِهِ وَأَعْتَزَّ بِإِفْتِنَاءِ

کی آل پر جس محبوب نے اوڑھ لیا لباسِ بزرگی کا اور اس کے حصول کا اور عزت پائی

عِزِّ الْفَخْرِ وَكَتَسَى بِهِ وَرَاقِي فِي سَمَاءِ الْمَجْدِ بَدْرُ كَمَالِهِ وَرَقْمُ

مخزن نماز کو حاصل کرنے کی اور بلند ہوا بزرگی کے آسمان پر ان کے کمال کا بدر منیر۔ اور تحریر کے

الْجَمَالِ طَرَازِ جَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جمالِ قدرت نے ان کے حسن و خوبی کے نقش و نگار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْجَمَالِ وَعُقِدَا

آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے پہنایا حلتہ جمال کا۔ اور باندھی

عَلَىٰ جَبِينِهِ إِكْلِيلُ الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان کی جبین مبارک پر جلال کی مرصع پٹی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْتَجَىٰ إِلَىٰ مَقَامِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے اُمید باندھی مقام

الْعِزِّ فَوْضِلٌ وَتَشَوَّقُ إِلَىٰ مَحَلِّ الْبَجْدِ فَحَصَلَ لَهُ مِنْهُ

عز و جاہ کی پس واصل ہو گئے اس تک اور شوق ظاہر کیا بزرگی کے مقام کا پس حاصل ہوا انہیں

فَوْقَ الَّذِي أَمَلَ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیادہ اس سے جس کے اُمیدوار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ حُلَّةَ الْخُلَّةِ وَجَدَّ أَعْلَامَ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے پایا خلت اور دوستی کا حلتہ و پوشاک اور تجدید کی آفتاب

الْبَهْلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر جنہوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَوَّأَتْكَ الْمَعَالِيُ فَتَزِينِي بِهِ الدَّهْرُ الْهَيُّ أَنْتَ

آل پر جنہوں نے اپنا مسکن بنایا بلند مراتب کو پس زینت پائی ان سے زمانے نے۔ اے میرے خداوند تو

الْوَاحِدُ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ بِالْوَهْيِ يَا وَاحِدًا أَحَدٌ قُلُّ

واحد ہے اپنی ذات اور صفات میں بسبب اپنی الوہیت کے اے واحد۔ اے احد فرما دیجئے

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اسے جنم دیا گیا۔ اور نہیں

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اس کا کوئی ہم پلہ اور مماثل۔

